

اذکارِ نبوی

ﷺ

1

امام ابو زکریا محی الدین النُّووی

ترجمہ و افادات

مولانا نثار احمد القاسمی

بن مولانا محمد حمید الدین قاسمی



صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اذکارِ نبوی

[جلد اول]

امام ابو زکریا محی الدین النّووی

ترجمہ و افادات

مولانا نثار احمد القاسمی
بن مولانا محمد حمیر الدین قاسمی

Sunni Islamic Library

Bada Bazar Yakutpura, Hyd.

Mirza Abdul Gaffar Ali Baig

Cell 9396889310 Book No—

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

NEW DELHI-110002

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

اڈکار نبوی ﷺ (جلد اول)

مصنف: امام ابو ذکریا محی الدین النووی

ترجمہ و افادات: مولانا شاعر احمد القاسمی بن مولانا محمد حمیر الدین قاسمی

قیمت: ۱۲۵/-

سائز: 23x36/16

صفحات: ۲۲۸

پرستام: محمد ناصر خان

ناشر

فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, New Delhi-2
Phones: 23247075, 23289786, 23289159 Fax: 23279998

AZKAR-E-NABAVI (*Sall Allahu Alaihi Wasallam*)
(Part II)

Author: **Imam Abu Zakriya Muhiuddin An-Nauwi**

Translated by: **Maulana Nisar Ahmad Al-Qasmi**

Pages: 428

1st Edition: **October 2005**

Price: **Rs. 125/-**

Our Branches:

Delhi: Farid Book Depot (P) Ltd.

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Ph.: 23265406, 23256590

Farid Book Depot (P) Ltd.

168/2, Jha House, Basti Hazrat Nizamuddin (W).

New Delhi-110013 Ph.: 55358122

Mumbai: Farid Book Depot (P) Ltd.

208, Sardar Patel Road, Near Khoja Qabristan,
Dongri, Mumbai-400009 Ph.: 022-23731786, 23774786

Composed by: **Faran Computer Centre, Hyderabad**

Printed at: **Farid Enterprises, Delhi-2**

فہرست مضامین

[حصہ اول]

۱۳	پیش لفظ: مولانا خالد سیف اللہ رحمانی	
۱۷	مقدمہ: مولانا بدر الحسن القاسمی	
۲۳	حرف چند: مولانا اشتیاق احمد	
۲۶	عرض مترجم: ثار احمد القاسمی	
۳۱	مقدمہ مترجم	
۵۳	مقدمہ مؤلف امام نوویؒ	
۵۷	اخلاص اور حسن نیت	فصل - ۱
۶۰	فضائل اعمال کا علم حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا	فصل - ۲
۶۰	ضعیف حدیث پر عمل کرنے کا حکم	فصل - ۳
۶۱	حلقہ ذکر میں بیٹھنے کی فضیلت	فصل - ۴
۶۳	ذکر کی کیفیت	فصل - ۵
۶۳	عبادت بھی ذکر ہے	فصل - ۶
۶۴	ذکر کے فضائل	فصل - ۷
۶۵	ناپاکی کی حالت میں ذکر کا حکم	فصل - ۸
۶۷	ذکر کے آداب	فصل - ۹
۶۸	مقام ذکر	فصل - ۱۰
۶۹	بعض حالتوں میں ذکر کی کراہیت	فصل - ۱۱
۶۹	ذکر کے وقت حضور قلب	فصل - ۱۲
۷۰	ذکر کی قضاء	فصل - ۱۳
۷۰	وہ عوارض جو ذکر کرنے والوں کو پیش آتے ہیں	فصل - ۱۴

۷۱	ذکر کو الفاظ سے ادا کرنے کا حکم	فصل-۱۵
۷۱	ذکر سے متعلق کتابیں	فصل-۱۶
۷۲	اصل مراجع مشہور کتب ستہ ہی ہیں	فصل-۱۷
۷۳	وقت کی تحدید کے بغیر فضائل ذکر کے بیان میں	مختصر باب
۸۷	نیند سے بیداری کے بعد کے اذکار	باب (۱)
۹۰	کپڑا پہننے وقت کے اذکار	باب (۲)
۹۱	نیا کپڑا یا جو تا وغیرہ پہننے وقت کی دعا	باب (۳)
۹۲	نیا کپڑا زیب تن کرنے والے کو دی جانے والی دعا	باب (۴)
۹۳	کپڑا اور جو تا پہننے یا اتارنے کی کیفیت	باب (۵)
۹۵	کپڑا اتارنے وقت کا ذکر	باب (۶)
۹۵	گھر سے نکلنے وقت کی دعا	باب (۷)
۹۷	گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا	باب (۸)
۱۰۱	درمیان شب بیدار ہو کر گھر سے نکلنے وقت کی دعا	باب (۹)
۱۰۲	بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت کی دعا	باب (۱۰)
۱۰۳	قضاء حاجت کی حالت میں گفتگو یا ذکر کی ممانعت	باب (۱۱)
۱۰۵	قضاء حاجت کیلئے بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرنے کی ممانعت	باب (۱۲)
۱۰۵	بیت الخلا سے نکلنے کے بعد کی دعا	باب (۱۳)
۱۰۶	پانی ڈالنے وقت کا ذکر	باب (۱۴)
۱۰۶	وضو کے وقت کی دعا	باب (۱۵)
۱۰۷	وضو میں بسم اللہ کے بعد کیا کہنا چاہئے	فصل
۱۰۷	وضو کے بعد کا ذکر	فصل

۱۱۰	اعضاء و صورت کی دعائیں	فصل
۱۱۲	غسل کرتے وقت کی دعا	باب (۱۶)
۱۱۳	تیم کرتے وقت کی دعا	باب (۱۷)
۱۱۳	مسجد جاتے وقت کی دعا	باب (۱۸)
۱۱۵	مسجد داخل ہوتے وقت یا نکلنے وقت کی دعا	باب (۱۹)
۱۱۹	مسجد میں داخل ہونے کے بعد کا ذکر	باب (۲۰)
۱۲۰	اعکاف کی نیت کرنا	فصل
۱۲۱	مسجد میں خرید و فروخت یا گمشدگی کی آواز لگانے کی ممانعت	باب (۲۱)
۱۲۲	مسجد میں غیر اسلامی اشعار پڑھنے والوں پر بدعا	باب (۲۲)
۱۲۲	اذان کی فضیلت	باب (۲۳)
۱۲۳	اذان کا طریقہ	باب (۲۴)
۱۲۵	اقامت کا طریقہ	باب (۲۵)
۱۲۵	اذان و اقامت کا حکم	فصل (۱)
۱۲۶	اذان و اقامت کے آداب	فصل (۲)
۱۲۶	اذان صرف نماز پنجگانہ ہی کے لئے مشروع ہے	فصل (۳)
۱۲۷	اوقات اذان و قامت	فصل (۴)
۱۲۷	عورتوں کی اذان و قامت کا حکم	فصل (۵)
۱۲۸	اذان و قامت کی آواز سننے والوں کو کیا کہنا چاہئے	باب (۲۶)
۱۳۲	حالت نماز میں اذان کا جواب دینے کا حکم	فصل
۱۳۲	اذان کے بعد کے اذکار	باب (۲۷)
۱۳۳	فجر کی سنت کے بعد کی دعا	باب (۲۸)
۱۳۵	صف میں ملنے کے وقت کی دعا	باب (۲۹)
۱۳۶	نماز کے لئے جب کھڑا ہو تو کیا کہے	باب (۳۰)

کتاب اذکار الصلاة

۱۳۸	نماز میں داخلے کے وقت کے اذکار	باب (۱)
۱۳۸	تکبیر تحریر یہ کا حکم	باب (۲)
۱۴۰	تکبیر باوازیلند کہنا چاہئے	فصل
۱۴۰	نماز میں تکبیرات کی تعداد	فصل
۱۴۱	تکبیر تحریر یہ کے بعد کی دعا	باب (۳)
۱۴۵	یہ تمام دعائیں کس کیلئے مناسب ہیں کس کے لئے نامناسب	فصل
۱۴۶	دعا استفتاح کے بعد تَعُوذ پڑھنا	باب (۴)
۱۴۸	تَعُوذ کا حکم	فصل
۱۴۸	مقام تَعُوذ	فصل
۱۴۹	تَعُوذ کے بعد قرأت	باب (۵)
۱۵۰	لحْن کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا	فصل
۱۵۰	سورہ فاتحہ اچھی طرح نہ پڑھنے والے کا حکم	فصل
۱۵۱	سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت یا آیت ملانا	فصل
۱۵۲	مقدار قرأت	فصل
۱۵۳	پہلی رکعت کی قرأت کا تدارک دوسری رکعت میں کرنا	فصل
۱۵۴	پہلی رکعت کو لمبا کرنا	فصل
۱۵۵	نماز میں جہر و اخفا کا مقام	فصل
۱۵۶	نماز میں مشروع سکتوں کی تعداد	فصل
۱۶۱	آمین کہنا مستحب ہے	فصل
۱۶۳	آیات رحمت و عذاب کی تلاوت کے وقت کیا کہنا چاہئے	فصل
۱۶۴	رکوع کے اذکار	باب (۶)
۱۶۵	رکوع کی تسبیح کا بیان	فصل

۱۶۸	رکوع میں قرآن پڑھنے کا حکم	فصل
۱۶۹	رکوع سے سر اٹھاتے وقت کا ذکر	باب (۷)
۱۷۲	ماثور دعاؤں کو اکٹھا کر کے پڑھنا	فصل
۱۷۲	سجدہ کی دعائیں	باب (۸)
۱۷۷	سجدہ افضل ہے یا قیام	فصل
۱۷۸	سجدہ تلاوت کی دعا	فصل
۱۷۹	دو سجدوں کے درمیان کی دعا	باب (۹)
۱۸۰	جلسہ استراحت کا حکم	فصل
۱۸۱	دوسری رکعت کے اذکار	باب (۱۰)
۱۸۲	نماز فجر میں قنوت (نازلہ)	باب (۱۱)
۱۸۳	دعا قنوت کا مقام اور شروع الفاظ ۱۸۳	فصل
۱۸۷	دعا قنوت میں ہاتھ اٹھانے اور چہرہ پر ہاتھ پھیرنے کا حکم	فصل
۱۸۹	نماز میں تشہد	باب (۱۲)
۱۹۰	تشہد کے الفاظ	فصل
۱۹۴	اقل ترین مقدار تشہد	فصل
۱۹۶	تشہد کے الفاظ میں ترتیب کا حکم	فصل
۱۹۶	تشہد آہستہ پڑھنے کا حکم	فصل
۱۹۷	تشہد کے بعد درود و سلام کا حکم	باب (۱۳)
۱۹۸	تشہد اخیر کے بعد کی دعا	باب (۱۴)
۲۰۲	نماز سے نکلنے کے لئے سلام پھیرنا	باب (۱۵)
۲۰۴	نماز کی حالت میں کسی کو جواب دینے کا حکم	باب (۱۶)
۲۰۴	نماز کے بعد کی دعائیں	باب (۱۷)
۲۱۰	نماز فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید	باب (۱۸)
۲۱۹	صبح و شام کے اذکار اور دعائیں	باب (۱۹)

۲۴۴	جمعہ کی صبح میں کبھی جانے والی دعائیں اور اذکار	باب (۲۰)
۲۴۵	طلوع آفتاب کے وقت کی دعا	باب (۲۱)
۲۴۷	سورج چڑھ جانے کے بعد کی دعا	باب (۲۲)
۲۴۸	سورج ڈھلنے کے بعد سے عصر تک کی دعا	باب (۲۳)
۲۴۹	عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کے اذکار	باب (۲۴)
۲۵۰	مغرب کی اذان سننے کے بعد کیا کہنا چاہئے	باب (۲۵)
۲۵۱	نماز مغرب کی بعد کی دعائیں	باب (۲۶)
۲۵۲	نماز وتر اور اس کے بعد کی دعا	باب (۲۷)
۲۵۳	سونے کے ارادہ سے بستر پر لیٹتے وقت کی دعا	باب (۲۸)
۲۷۰	اللہ کا ذکر کئے بغیر سونے کی کراہت	باب (۲۹)
۲۷۰	رات میں بیدار ہو کر دوبارہ سونے کا ادارہ ہو تو کیا کہے	باب (۳۰)
۲۷۴	بستر پر اضطراب و بیقراری کے وجہ سے نیند اچھٹ جانے کے وقت کی دعا	باب (۳۱)
۲۷۶	نیند میں ڈر جانے کے وقت کی دعا	باب (۳۲)
۲۷۷	نیند میں خوش کن یا ناگوار چیزوں کو دیکھتے وقت کی دعا	باب (۳۳)
۲۸۰	جس سے خواب بیان کیا جائے اسے کیا کہنا چاہئے	باب (۳۴)
۲۸۰	اخیر شب میں دعا اور استغاثہ کی تلقین	باب (۳۵)
۲۸۲	وقت قبولیت کی امید میں رات کے کسی بھی وقت کی جانہوالی دعا	باب (۳۶)
۲۸۳	اسما حسنیٰ کا بیان	باب (۳۸)

کتاب تلاوة القرآن

(تلاوت قرآن کا بیان)

۲۸۷	تلاوت قرآن کی پابندی کرنا	فصل
۲۹۰	تلاوت کا پسندیدہ وقت	فصل
۲۹۱	ختم قرآن کے آداب اور اس سے متعلق امور کا بیان	فصل
۲۹۲	ختم قرآن کے وقت دعا کرنا مستحب ہے	فصل

۲۹۳	مقررہ اور ادووضائف کے چھوٹ جانے پر اس کی تفسیر	فصل
۲۹۴	تلاوت قرآن کی پابندی کا حکم اور بھلانے پر انتباہ	فصل
۲۹۵	قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو آداب و مسائل	فصل
۲۹۶	تلاوت کیلئے مساواک کا حکم	فصل
۲۹۷	تلاوت قرآن کے آداب	فصل
۲۹۸	قرآن دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے	فصل
۲۹۸	آہستہ تلاوت کرنا افضل ہے یا باواز بلند	فصل
۲۹۹	خوش الحالی سے تلاوت کرنا	فصل
۲۹۹	تلاوت کی کیفیت	فصل
۳۰۰	تلاوت کی بعض بدعات	فصل
۳۰۰	سورتوں کو مختلف ناموں سے موسوم کرنے کا حکم	فصل
۳۰۱	”میں قرآن بھول گیا“ کہنے کی ممانعت	فصل
۳۰۲	تلاوت کے آداب	فصل
۳۰۳	تلاوت قرآن ہی سب سے افضل ذکر ہے	فصل
۳۰۶	کتاب حمد اللہ تعالیٰ	
	(حمد باری تعالیٰ کے بیان میں)	
۳۰۸	ہر کام کی ابتدا حمد کرنا چاہئے	فصل
۳۰۹	حمد باری تعالیٰ خطبہ جمعہ کا رکن ہے	فصل
۳۰۹	دعا کو حمد پر ختم کرنا چاہئے	فصل
۳۰۹	حصول نعت یا رفع حضرت پر الحمد للہ کہنا	فصل
۳۱۱	جگر گوشے کی وفات پر صبر کے ساتھ حمد بیان کرنا	فصل
۳۱۲	حمد کے الفاظ	فصل
۳۱۲	کتاب الصلاة علی رسول اللہ ﷺ	
۳۱۶	جس شخص کے پاس نبی کریم ﷺ کا ذکر آئے اسے دو رو بھیجنے کی تاکید	باب (۱)

۳۱۷	رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے کا طریقہ	باب (۲)
۳۱۸	باواز بلند درود و سلام پڑھنا	فصل
۳۱۸	دعا کی ابتداء اللہ کے حمد اور درود و سلام سے کرنی چاہئے	باب (۳)
۳۱۹	تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کے آل و اتباع پر درود بھیجنا	باب (۴)
۳۲۱	صحابہ کو ”رضی اللہ عنہ“ اور تابعین وغیرہم کو ”رحمہ اللہ“ کہنا	فصل
۳۲۱	حضرت مریم و لقمان کے لئے صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم	فصل

کتاب الاذکار والدعوات للامور العارضات

(پیش آمدہ حالات کی دعاؤں کا بیان)

۳۲۳	دعا استخارہ	باب (۱)
۳۲۶	مصائب و آلام اور کرب و پریشانی کے وقت کی دعائیں	باب (۲)
۳۳۰	خوف یا گھبراہٹ کے وقت کی دعا	باب (۳)
۳۳۱	حزن و ملال و اندوہ کے وقت کی دعا	باب (۴)
۳۳۲	تباہ کن مصیبت میں گرفتار ہونے کے وقت کی دعا	باب (۵)
۳۳۳	کسی قوم سے خوف کے وقت کی دعا	باب (۶)
۳۳۳	حاکموں سے خوف کے وقت کی دعا	باب (۷)
۳۳۴	دشمن کا سامنا ہونے کے وقت کی دعا	باب (۸)
۳۳۴	شیطان کے پیش آنے یا اس سے خوف کے وقت کی دعا	باب (۹)
۳۳۷	کسی چیز سے مغلوب ہونے کے وقت کی دعا	باب (۱۰)
۳۳۸	مشکل پیش آنے کے وقت دعا	باب (۱۱)
۳۳۹	معاشی تنگی کے وقت کی دعا	باب (۱۲)
۳۳۹	دفع بلیات و آفات کی دعا	باب (۱۳)
۳۴۰	چھوٹے بڑے حادثات کے وقت کی دعا	باب (۱۴)
۳۴۱	ادارہ قرض کی دعا جبکہ اس کی ادائیگی دشوار ہو	باب (۱۵)
۳۴۲	نیند میں ڈرنے یا دہشت زدہ ہونے کی دعا	باب (۱۶)

۳۴۳	وسوسے میں مبتلا شخص کی دعا	باب (۱۷)
۳۴۷	پاگل پن، جنون اور زہریلے ڈنک کا جھار	باب (۱۸)
۳۵۱	بچوں کو دم کرنے کا طریقہ	باب (۱۹)
۳۵۱	پھوڑا پھنسی کی دعا	باب (۲۰)

کتاب اذکار المریض والموت

۳۵۳	(امراض، موت اور اس سے متعلق امور کا بیان)	
۳۵۳	بہ کثرت موت کو یاد کرنا	باب: ۱
۳۵۳	بیمار پرسی کی فضیلت	باب (۲)
۳۵۳	بیمار کے پاس کیا کہنا یا کیا پڑھنا چاہئے	باب (۳)
۳۶۲	اہل خانہ کو حسن سلوک کی تلقین کرنا	باب (۴)
۳۶۳	درد سر، بخار یا کسی اور طرح کی تکلیف کے وقت کی دعا	باب (۵)
۳۶۴	مریض کا آہ و بکا کرنا	باب (۶)
۳۶۵	موت کی تمنا کرنا	باب (۷)
۳۶۶	دیار رسول میں موت آنے کی دعا کرنا افضل ہے	باب (۸)
۳۶۶	مریض کی دلجوئی مستحب ہے	باب (۹)
۳۶۷	مریض سے وحشت دور کرنا	باب (۱۰)
۳۶۸	مریض سے اس کی خواہش دریافت کرنا	باب (۱۱)
۳۶۹	عیادت کرنے والوں کا مریض سے دعا کی درخواست کرنا	باب (۱۲)
۳۶۹	مریض کو توبہ وغیرہ کے ذریعہ ایفاء عہد کی تلقین	باب (۱۳)
۳۷۰	زندگی سے مایوس شخص سے کیا کہنا چاہئے	باب (۱۴)
۳۷۴	میت کی آنکھ بند کرنے کے بعد کی دعا	باب (۱۵)
۳۷۵	میت کے پاس کیا کہنا چاہئے	باب (۱۶)
۳۷۷	جس کے گھر میت ہوگی، ہوا سے کیا کہنا چاہئے	باب (۱۷)
۳۷۹	کسی عزیز کی وفات کی اطلاع ملنے پر کہی جانے والی دعا	باب (۱۸)

- ۳۸۰ کسی دشمن اسلام کی موت کی خبر سن کر کیا کہنا چاہئے باب (۱۹)
- ۳۸۰ میت پر بین کرنے یا زمانہ جاہلیت کے کلمات کہنے کی ممانعت باب (۲۰)
- ۳۸۲ تعزیت کا بیان باب (۲۱)
- ۳۸۶ تعزیت ہر فرد کیلئے ہونا چاہئے فصل
- ۳۸۷ تعزیت کیلئے مجلس بنا کر بیٹھنا فصل
- ۳۸۷ تعزیت کے الفاظ فصل
- ۳۹۲ عہد اسلام میں طاعون پھیلنے کا ذکر فصل
- ۳۹۵ موت کی اطلاع دینے یا اعلان عام کرنے کا حکم باب (۲۲)
- ۳۹۷ میت کو غسل دیتے اور کفن پہناتے وقت کی دعا باب (۲۳)
- ۳۹۸ نماز جنازہ کی دعائیں باب (۲۴)
- ۴۰۷ نماز جنازہ میں سلام کا حکم فصل
- ۴۰۸ میت کو لیکر جاتے وقت کی دعا باب (۲۵)
- ۴۰۹ جنازہ نظر آتے وقت کی دعا باب (۲۶)
- ۴۱۰ میت کو قبر میں اتارنے والوں کی دعا باب (۲۷)
- ۴۱۱ تدفین کے بعد کی دعا باب (۲۸)
- ۴۱۳ میت کی تلقین کا حکم فصل
- ۴۱۵ نماز جنازہ پڑھانے یا تدفین سے متعلق وصیت باب (۲۹)
- ۴۱۸ میت کیلئے ایصال ثواب مفید ہے یا نہیں؟ باب (۳۰)
- ۴۲۱ مردوں کو گالیاں دینے کی ممانعت باب (۳۱)
- ۴۲۳ زیارت قبور کی دعا باب (۳۲)
- ۴۲۶ قبروں کے پاس رونے یا غیر شرعی کام کرنے سے روکنا باب (۳۳)
- ۴۲۷ ظالموں و گناہگاروں کی قبر کی زیارت کا حکم باب (۳۴)

ﷺ

پیش لفظ

انسان اس دنیا میں بندہ بنا کر پیدا کیا گیا ہے، یہی بندگی اس کے لئے مایہ افتخار اور اس کی عزت و سربلندی کا سر و سامان ہے، اللہ کی بندگی اتنا بڑا اعزاز ہے کہ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کرام کے ساتھ خاص طور پر ان کے وصف عبدیت کا ذکر کیا گیا ہے، بندہ و غلام کا کام خدمت کرنا اور حکم بجالانا ہے، لیکن خدا ہر طرح کی ضرورت و حاجت سے بے نیاز اور مآوار ہے، اس لئے نہ وہ خدمت کا محتاج ہے نہ عبادت کا، لیکن ہماری بندگی کے امتحان کے لئے ہمیں اس کی اطاعت و فرماں برداری اور حمد و ستائش کا حکم دیا گیا ہے، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ہر موقع پر دُعا فرمائی ہے اور اس کی تلقین بھی کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک پر دُعا کے جو الفاظ جاری ہوئے، وہ عربی زبان و ادب اور احساسات کی ترجمانی کا شاہکار ہیں، جس کے ایک ایک لفظ سے عجز و فروتنی اور خدا کے سامنے جھکاؤ اور بچھاؤ کا اظہار ہوتا ہے، ان کی تعبیرات اتنی اثر انگیز اور بلیغ ہیں کہ اہل ذوق کے لئے بجائے خود حضور ﷺ کی نبوت کی ایک دلیل ہے، حدیث کی کتابوں میں دُعاؤں کا یہ خزانہ جگہ جگہ نکھرا ہوا ہے۔

پھر ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دُعا میں قدم قدم پر انسان کو خدا سے تعلق کی یاد دلاتی اور متوجہ کرتی ہیں، اس سے خدا کی شان ربوبیت اور کمال قدرت کا اظہار ہوتا ہے، ایک مسلمان جب کھانے سے پہلے خدا کا نام لیتا ہے، کھانے کے درمیان خدا کا شکر ادا کرتا ہے اور کھانے کے بعد بھی اس کی زبان حمد باری سے زمزمہ سنج ہوتی ہے، دسترخوان بچھاتا ہے تو اسی کے نام سے اور اٹھاتا ہے تو اسی کے ذکر سے، تو یہ توحید ہی کا مکرم و موقد اقرار و اعتراف ہوتا ہے،

جو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ یہ غذا محض خدا ہی کی قدرت سے اس کو عطا ہوئی ہے، ہر دانہ جو انسان کے حلق سے اترتا ہے، خدا کی قدرت کی کتنی ہی جلوہ فرمائیاں کے بعد وجود میں آیا ہے، سورج نے اس کے لئے خود کو جلایا ہے، چاند نے اپنی ٹھنڈک پہنچائی ہے، شبنم کی پھوار اس پر نثار ہوئی ہے، زمین نے اپنے سینہ و جگر کا چاک ہونا قبول کیا ہے، بادلوں نے سمندر سے خراج آب وصول کیا ہے، ہواؤں نے ان بادلوں کی بار برداری کی ہے، پھر یہ خدا ہی کی قدرت ہے کہ ایک ہی طرح کے عناصر سے مرکب ہونے والی ان اشیاء میں کہیں حلاوت ہے، کہیں ملاحت، کہیں بھٹاس ہے، کہیں تلخی، رنگ و بو کے فرق نے بھی ان کو ایک گلدستہ سا بنا دیا ہے، پھر خود انسان کے جسم میں نظام ہضم ایک عالم عبرت و موعظت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، آفاق و انفس کی یہ ساری داستانیں چشم ہائے عبرت و نگاہان بصیرت کے سامنے چاول کے ایک ایک دانہ اور پانی کے ایک ایک قطرہ کے ساتھ اس طرح رونق افزا ہوتی ہیں کہ خدا کے ذکر و ستائش کے سوا چارہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

رسول اللہ ﷺ نے دُعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے، اس پس منظر میں محدثین نے اپنی کتابوں میں مستقل عنوان ”کتاب الدعوات“ کا قائم کیا ہے، اور بعض مصنفین نے مستقل کتابیں رسول اللہ ﷺ کے شب و روز کے معمولات اور مسنون دُعاؤں پر تالیف کی ہیں، اس سلسلہ میں امام نسائی اور علامہ ابن السنی کی ”عمل الیوم واللیلۃ“ خصوصی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن اس موضوع پر شاید سب سے زیادہ جامع اور اس موضوع کی تمام کتابوں کا عطر اور خلاصہ امام محیی الدین ابو زکریا نوویؒ کی ”الاذکار من کلام سید الأبرار“ ہے، جو ہمیشہ سے اہل علم اور اصحاب معرفت کی آنکھوں کا سرمہ رہی ہے، ادعیہ و اذکار اور معمولات نبوی پر یہ نہایت ہی جامع اور مستند کتاب ہے، اور مصنف نے اپنے ذوق معرفت کے ساتھ ساتھ محدثانہ طرز تحقیق کو بھی اس میں پوری پوری جگہ دی ہے۔

کتاب کی ابتداء میں اخلاص نیت اور ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، پھر مختلف مواقع اور احوال نیز نماز، روزہ، حج، جہاد، سفر، خورد و نوش، سلام و ملاقات، نکاح، ولادت وغیرہ کی دُعا میں

اور اذکار نقل کئے گئے ہیں، ناموں کے سلسلہ میں شرعی ہدایات پر روشنی ڈالی گئی ہے، اولاد اور والدین سے متعلق فرائض کی نشاندہی کی گئی ہے، متفرق مواقع کے اذکار، مشورہ، سفارش، امر بالمعروف، نہی عن المنکر کے آداب بیان کئے گئے ہیں، اور زبان کی حفاظت کے سلسلہ میں ترغیبات و ترہیبات پر گفتگو کی گئی ہے۔

اخیر میں کچھ جامع دُعاء کے آداب اور استغفار کے کلمات نقل کئے گئے ہیں، اس طرح یہ فضائل اعمال، اذکار و اوراد، آدابِ زندگی اور مسنون دُعاؤں کا ایک بے نظیر مجموعہ ہے، اس کتاب کے مؤلف امام نوویؒ بڑے بلند پایہ محدث، فقیہ، صاحب نظر محقق اور صاحب دل شخص گزرے ہیں، حدیث میں مسلم شریف کی شرح، فقہ میں منہاج الطالبین اور روضۃ الطالبین، نیز فقہی انسائیکلو پیڈیا ”شرح مہذب“ اور آداب و اخلاق میں ”ریاض الصالحین“ اور ”الاذکار“ آپ کی نہایت اہم تالیفات ہیں، اور ان کے علاوہ بھی مختلف فنون میں کتنی ہی کتابیں آپ کے قلم فیض رقم کا ثمرہ ہیں۔

واقعہ ہے اس کتاب کے اردو ترجمہ کی ضرورت تھی، انجی فی اللہ جناب مولانا نثار احمد قاسمی زید مجدہ، ہم سب کے شکر یہ کہ مستحق ہیں کہ انھوں نے سلیس اور عام فہم اردو میں اس کتاب کو منتقل کیا ہے اور اردو قارئین کو ایک بلند پایہ سوغات پیش کی ہے، ترجمہ ایک حد تک تالیف سے بھی مشکل کام ہے، اس کے لئے دونوں زبانوں میں بصیرت ہونا ضروری ہے، بحمد اللہ مولانا موصوف نے بڑی خوبی کے ساتھ ترجمہ کے اس مشکل کام کو انجام دیا ہے۔

مترجم گرامی ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، جو علم و معرفت میں معروف ہے، دارالعلوم دیوبند کے ممتاز فضلاء میں ہیں اور طالب علمی کے زمانہ سے ہی تعلیمی اعتبار سے نمایاں رہے ہیں، دورہ حدیث سے فراغت کے بعد عربی ادب میں تخصص کیا ہے، پھر دیوبند سے عربی زبان میں ایک اہم رسالہ ”الشقاۃ“ کے نام سے نکالا، سعودی عرب میں تدریس اتدریس کا خصوصی کورس کیا اور ایک عرصہ تک وہیں قیام رہا، اب المعجد العالی الاسلامی حیدرآباد میں حدیث و فقہ کی اعلیٰ کتابوں کی تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی شیخ

عبدالرحمن الخمیس کی شرح فقہ اکبر کو اردو کا پیکر ادا کر چکے ہیں، اور متعدد علمی رسائل و جرائد میں آپ کے مقالات شائع ہوتے رہتے ہیں، اس بے مایہ کے بھی محسن ہیں کہ اس کی تالیف ”جدید فقہی مسائل“ کو ”نوازل فقہیہ معاصرہ“ کے نام سے انھوں نے ہی عربی کا پیکر عطا کیا ہے۔

فجزاہ اللہ خیر الجزاء

امید ہے کہ مترجم کی یہ کاوش عوام و خواص کے لئے نافع ثابت ہوگی، اور اس کے آئینہ میں وہ اپنی زندگی کو سنوار سکیں گے، نیز مؤلف کے ساتھ ساتھ مترجم کی اس خدمت کو بھی بارگاہ خداوندی میں قبولیت حاصل ہوگی، اور ان کی دوسری علمی اور دعوتی کاوشوں سے بھی امت کو استفادہ کا موقع ملے گا۔ واللہ الموفق وهو المستعان

خالد سیف اللہ رحمانی

(خادم المعهد العالی الاسلامی حیدرآباد)

۱۰/شوال المکرم ۱۴۲۵ھ

۲۳/نومبر ۲۰۰۳ء

مقدمہ

”ذکر الہی“ روح کی غذا اور دلوں کی زندگی ہے، جو دل ذکر رب سے آشنا نہ ہو وہ بے جان ہے اور جس زندگی میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ بے کیف اور حقیقی سعادتوں سے محروم زندگی ہے ارشاد باری ہے۔

ومن اعرض عن ذکری فان له معشیة ضنکا
جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے اس کے لئے تنگی اور
گھٹن کی زندگی ہے۔

”دل“ کو اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے، اس لئے امن و سکون اور راحت و چین کی زندگی وہی ہے جو یاد الہی سے معمور ہو۔
مؤمن و کافر دونوں اسی روئے زمین پر سانس لیتے اور قدرت کی فراہم کردہ نعمتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں لیکن بقول اقبال۔

پرداز ہے دونوں کی اس ایک فضا میں
شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور

مؤمن کی صبح و شام اس طرح ہوتی ہے کہ اس کی زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، اور اس کے دل میں خالق کائنات کی تسبیح و تحمید ہوتی ہے، اسکے روز و شب اس طرح گذرتے ہیں کہ زندگی کی تگ و دو میں وہ سکھوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سکھوں سے جدا بھی، وہ خود چراغ راہ کی طرح جلتا ہے تاکہ دوسرے راہ پائیں، خود اپنے اندرون میں گھلتا ہے تاکہ دوسروں کو راحت پہنچے، اس کی

ہر حرکت اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور ہر سکون پر قادر ذوالجلال اسے یاد آتا ہے:

آخر شئى أنت فى كل هجعة

وأول شئى أنت عند هوبى

یعنی آنکھ لگتی ہے تو تیرے نام پہ اور آنکھ کھلتی ہے تو تیرے نام سے۔

مومن زاهد شب زندہ دار ہوتا ہے، کبھی جنت کے شوق میں وہ اپنی راتیں آنکھوں میں

کاٹ لیتا ہے، تو کبھی جہنم کا خوف اسے میٹھی نیند سونے سے باز رکھتا ہے، بقول شخصے :

كلما طال شوقى الى الجنة طار نومي

وكلما زاد خوفى من النار زاد أرقى

جب جنت کا شوق دل پر چھا جاتا ہے تو نیند اڑ جایا کرتی ہے،

اور جب جہنم کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے تب نیند اڑ جایا کرتی ہے

غرض یہ کہ جنت کی طلب ہو یا جہنم سے بچنے کی خواہش۔

کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ دم اللہ کی یاد میں گزارا کرتے تھے، کان بند کر اللہ

علیٰ کل احیانہ، ذکر رب میں شکر نعمت میں بھی ہے اور ہر طرح کے شر و شیطان اور بلاء

و مصیبت سے نجات بھی آپ اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر سے کس طرح معمور رکھیں اس کے لئے

بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں مشہور محدث اور نامور فقیہ اور صاحب دل امام یحییٰ بن شرف

الدین البتونی ۶۷۶ھ کی ”کتاب الاذکار“ معمولات روز و شب اور دعاء و اذکار کے موضوع پر

لکھی جانے والی دیگر کتابوں سے کئی لحاظ سے فوقیت رکھتی ہے۔

(۱) دعاء و اذکار کے موضوع پر وارد تمام روایتوں کا منتخب اور بہترین خلاصہ ہے اور حشوز داند

سے بالکل پاک ہے۔

(ب) کتاب چونکہ عملی مقصد سے مرتب کی گئی ہے، اس لئے سندوں کے طویل سلسلہ کو حذف

کر دیا گیا ہے، جس کی افادیت صرف اہل علم کے لئے ہوا کرتی ہے۔

(ج) اس بات کا پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ صحیح روایتیں ہی نقل کی جائیں اور ایسی روایتوں سے اجتناب کیا جائے جو زیادہ ضعیف یا موضوع ہوں، چنانچہ مصنف نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی پر ہی زیادہ نظر رکھی ہے، اور باہر کی روایتیں شاذ و نادر ہی لی ہیں، جیسا کہ خود ہی انہوں نے مقدمہ میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔

(د) امام نوویؒ نے نئے محدث ہی نہیں بلند پایہ فقیہ بھی ہیں اس لئے انہوں نے صرف الفاظ حدیث اکٹھا کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ حدیث کی تشریح، مشکل الفاظ کے مفہوم کی وضاحت اور فقہی احکام و تربیتی نکات و لطائف سے بھی اپنی کتاب کو آراستہ کیا ہے۔

(ه) اور کتاب کے مصنف چونکہ محض ظاہری علم رکھنے والے اور گفتار کے غازی نہیں ہیں بلکہ صاحب دل اور احوال و مقامات سے سرفراز بزرگ ہیں اس لئے کتاب نہایت مفید اور پر تاثیر بن گئی ہے۔

اور مذکورہ بالا ان تمام خصوصیات نے امام نوویؒ کی ”کتاب الاذکار“ کو اس موضوع پر لکھی جانے والی تمام کتابوں سے منفرد اور ممتاز بنا دیا ہے۔

امام یحییٰ بن شرف نووی کی پیدائش محرم ۶۳۱ھ میں ہوئی، اپنے زمانہ کے اساطین علم و فضل سے انہوں نے علم حاصل کیا، جن میں شیخ کمال بن احمد، رضی بن برہان، عبدالعزیز محمد الانصاری اور ”الکفیه“ کے مؤلف مشہور امام نحو و صرف ابن مالک شامل ہیں۔

حصول علم سے شغف کا حال یہ تھا کہ آغاز عمر سے ہی: کان لاینام اللیل الا قلیلاً (راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے)

بیشتر کتابیں زبانی یاد کرتے اور ایک دن میں ۱۲۱۲ سبق لیا کرتے تھے، جن میں فقہ و حدیث، معانی و بیان، نحو و صرف، علم کلام و منطق اور اصول فقہ و اسماء الرجال سارے ہی علوم شامل تھے، ان کی اس محنت نے انہیں اپنے زمانہ کا نامور عالم اور امام وقت بنا دیا۔

طبیعت کی لطافت یا زہد و تقویٰ کی طرف میلان کا حال یہ تھا کہ بعض ظاہری یاد نبوی علوم ان کو اس ہی نہیں آتے تھے، اس سلسلہ میں نامور محدث و مؤرخ امام ذہبیؒ نے امام نوویؒ کے

بارے میں عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ:

اشتغل فی کتاب القانون لابن سینا فاظلم قلبه،
وبقی آیاما لا یقدر علی الإشتغال فاشفق علی
نفسه وباع القانون فاستنار قلبه.

انہوں نے چند دنوں ابن سینا کی کتاب القانون سے شغل رکھا
تو قلب میں ظلمت جھاگئی اور کئی روز تک کوئی کام انجام دینے
پر قادر نہیں رہے تو انہوں نے القانون کو بیچ ڈالا تو پھر دل کی
روشنی بحال ہوگئی، اور وہ حسب معمول فقہ و حدیث کی خدمت
میں لگ گئے۔

ظاہر بینوں کو تو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے اور وہ اس طرح کے واقعات کی صداقت پر
شہ کرنے لگیں، لیکن حقیقت میں نگاہوں میں یہ جان لینے کے بعد کہ امام ذہبیؒ جیسا محدث و ناقد
اس واقعہ کو نقل کر رہا ہے اور صاحب واقعہ نے خود ہی اس واقعہ کا اظہار کیا ہے تو اس میں اچنبھے کی
بات ہی کیا ہے؟ بلکہ اس سے تو خود نبوت کبریٰ کی زبان حقیقت بیان کی فرمودہ اس بات کی
تصدیق ہوتی ہے کہ کل میسر لما خلق له (جس شخص کی تخلیق جس کام کے لئے ہوتی ہے وہ
اس کے لئے آسان کر دیا جاتا ہے)

امام نوویؒ سے رب کائنات کو حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ کی خدمت لینی تھی،
وہ اگر ابن سینا کی ”القانون“ پڑھ کر لوگوں کے علاج و معالجہ اور قارورے کی جانچ میں لگ گئے
ہوتے تو پھر ”ریاض الصالحین“ جیسی بابرکت و مقبول عام کتاب صحیح مسلم کی شرح ”المہناج“ اور
فقہ اسلامی کا انسائیکلو پیڈیا، المجموع شرح المہذب اور فقہ شافعی کی روضہ الطالین جیسی شاہکار کتابیں
امت کو کہاں لے سکتی تھیں؟ اور امام نوویؒ کے لئے صرف ۴۵ رسال کی زندگی میں جس میں بچپن اور
تحصیل علم کا زمانہ بھی شامل ہے فقہ و حدیث کی ایسی لازوال خدمت کی سعادت جو اللہ نے مقدر
کر رکھی تھی وہ کس طرح پوری ہوتی؟

جہاں تک دل میں ظلمت محسوس ہونے کی بات ہے تو یہ ایک وجدانی کیفیت ہے جس کا ادراک ہر شخص کو نہیں ہو سکتا، نہ اسے عام کیا جاسکتا ہے اور نہ شرعی حجت بنایا جاسکتا ہے، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ایک نامور صاحب قلب و علم و قلم علامہ مناظر احسن گیلانی نے دارالعلوم دیوبند میں بیٹے ہوئے دن میں خود اپنے بارے لکھا ہے، جو دلچسپ بھی ہے اور عبرت انگیز بھی کہ محفولات کی معرکہ الآرا کتاب ”قاضی مبارک“ کا مدرس کا اپنے ایک ساتھی سے انہوں نے وعدہ ہی کیا تھا کہ انہیں متواتر ایسے خواب آنے لگے کہ ان پر جنگلی سوروں نے حملہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے مدرس سے معذرت کر دی۔

اس طرح کے احوال و کیفیات عام نہیں ہیں، کچھ پاک طینت اور نیک نفوس کے ساتھ خاص ہیں، واقعاتی نہیں، وجدانی ہیں، اسکی بنیاد پر نہ کسی علم کی تنقیص کی جاسکتی ہے اور نہ اس سے بے اعتنائی برتی جاسکتی ہے، شریعت کے عام ضابطہ کی رو سے علم طب کا حصول بھی اسی طرح ضروری ہے، جیسے علم فقہ کا بلکہ حجۃ الاسلام غزالی نے جو امام نووی کے پیش رو اور ہم مسلک بھی ہیں بعض خاص حالات میں علم طب کی تحصیل کو علم فقہ کی تحصیل سے بھی زیادہ ضروری قرار دیا ہے، اور اگر مسلم اطباء کی کمی ہو تو فقہاء تیار کرنے کے مقابلہ میں ”اطبا“ کی تیاری کو زیادہ اہم قرار دیا ہے۔

بہر کیف امام نووی اپنی نوعیت کے منفرد آدمی تھے، دنیا سے قطعی بے رغبت رہے، علم و عبادت کی یکسوئی کے لئے رشتہ ازدواج سے بندھنا بھی گوارا نہیں کیا تقویٰ اور ورع کا یہ عالم تھا کہ محض شہ کی بنا پر دمشق میں فروخت ہونے والے پھل فروٹ سے بھی پرہیز کرتے تھے۔

وضع قطع اور لباس اور جسم کی زیبائش و آسائش سے بھی بے پرواہ رہتے تھے، اپنے مکاشفات اور باطنی احوال کے چھپانے کا بھی خاص اہتمام فرماتے تھے، شیخ الحدیث رہے اور قال اللہ وقال الرسول کی صدا بلند کرتے ہوئے رجب ۶۷۶ھ میں جان جاں آفریں کے سپرد کر دی، اور اپنے پیچھے علوم نبوت کا بے مثال ذخیرہ چھوڑ گئے، فرحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ واسکنہ سعۃ جناتہ

اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جناب مولانا ثار احمد قاسمی صاحب کو جو ایک ایسے اور فاضل مدرس ہیں اور ترجمہ اور تصنیف و تالیف کا ذوق بھی رکھتے ہیں اور اس تاک میں رہتے ہیں کہ کوئی

عربی کتاب تصنیف کرے تو اسے اردو اور اردو میں تصنیف کرے تو اسے عربی میں منتقل کر دیں، اسی سلسلہ کی ایک کڑی امام نووی کی کتاب الاذکار المختار من کلام سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کا زیر نظر ترجمہ بھی ہے، اتنی بڑی کتاب کا ترجمہ کرنے کے لئے علمی و ادبی لیاقت کے ساتھ بڑے صبر و تحمل کی بھی ضرورت ہے دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بار آور کرے اور مترجم کو دنیا میں اُجرت اور آخرت میں اس عظیم کام کا اجر عطا فرمائے، اور یہ کتاب گھر گھر میں عام ہو کر دلوں کو نور اور نگاہوں کو سرور بخشے آمین۔

محتاج دعاء

بدر الحسن القاسمی

(سالار جنگ کالونی، حیدرآباد 27/6/2004)

حرف چند

”ذکر“ اللہ کا نام لینے کو کہتے ہیں، اور اللہ کے نام میں ہی دلوں کی زندگی ہے، جو ”دل“ خالق سے نا آشنا ہو وہ مردہ ہوتا ہے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح انسانی وجود رب کائنات کے ذکر کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا۔

تمام عبادتیں ذکر الہی کے لئے ہی رکھی گئی ہیں، خود قرآن کا نام بھی ”ذکر“ رکھا گیا ہے، اور اس کے ذریعہ تہذیب و تمدن کا کام لیا گیا ہے، خوش بختی اللہ کے نام سے جڑی ہوتی ہے، اور بد بختی ذکر الہی سے محرومی کا نام ہے، اور جو شخص اللہ کے ذکر سے اعراض کرے اسے عرصہ حیات تنگ کر دئے جانے کی سزا ملتی ہے۔

”ومن اعرض عن ذکری فان له معشیة ضنکا،

ونحشر یوم القیامة اعمی“ (طہ: ۱۲۳)

اور جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرے اس کے لئے تنگ

زندگی ہے، اور وہ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل نگاروں نے لکھا ہے کہ ”کسان یاد کر علیٰ کل

احیانہ“

آپ ﷺ کا ذکر ہر وقت ہی فرمایا کرتے تھے، قرآن کریم نے تسکین دل اور جمع خاطر کا

نسخہ ذکر الہی کو قرار دیا ہے، ارشاد باری ہے :

”الا بدکر اللہ تطمئن القلوب“

آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوا

کرتا ہے۔

پیغمبر آخر الزماں ﷺ جن کو رب کائنات نے پیکر رحمت و شفقت بنا کر بھیجا تھا انہوں نے زندگی کو اللہ کے ذکر کا خوگر بنایا بلکہ شب و روز کے معمولات کے طور پر درود رکھنے کے لئے دعاؤں کا ایسا اصول تحفہ بھی عطا فرمایا ہے جس کے ذریعہ ایک طرف ذکر رب سے شکر نعمت کا حق ادا ہوتا ہے تو دوسری طرف نہ صرف شیاطین جن و انس سے بلکہ ہر طرح کے درندوں و ٹنک مارنے والے جانوروں سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں آجاتا ہے، اور زمینوں سے برآمد ہونے اور آسمانوں سے نازل ہونے والی آفتوں اور مصیبتوں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔

بلاؤں کو ٹالنے کی اللہ نے اگر خاصیت رکھی ہے تو صرف دعاؤں میں رکھی ہے، ”لا یسرد

القضاء الا الدعاء“

اور دعاء اگر کسی شکستہ دل مظلوم کی ہو تو وہ رب تک پہنچ کر ہی رہتی ہے، اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے۔

اسی طرح اگر دعائے نیم شبی ہو تو وہ تیروں سے بھی زیادہ کارگر ہوا کرتی ہے، اس لئے جس شخص کے پاس ظاہری لاؤ لشکر اور آلات و اسلحہ نہ ہوں اسے ”سہام اللیل“ سے کام لینا چاہئے۔ تاریخ اسلام میں ”دعاؤں“ کا معرکوں کو سر کرنے میں بھی بڑا دخل رہا ہے، ”معرکتہ بدر“ میں نظر تو آرہی تھیں تلواریں لیکن کام کر رہی تھیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عریش کی دعاء، اور جذبہ عمل اور بظاہر بے ساز و سامان صحابہ کرام کا اخلاص، موجودہ زمانہ میں بھی مسلمانوں کی پسپائی کو دور کرنے کے لئے ہر طرح کے اسباب و وسائل کے اکٹھا کرنے کی کوششوں کے ساتھ ضرورت ہے ”نلہ نیم شبی“ کی۔

زیر نظر کتاب جس کا نام ہے، ”اذکار نبوی“ اور اسے اردو کا جامہ پہنانے والے ہیں برادر خور و مولانا نثار احمد قاسمی، نہ کسی تعارف کی محتاج ہے اور نہ تبصرہ کی، کتاب کی عظمت اور مقبولیت کیلئے سند کا درجہ رکھتا ہے اس کے مصنف بلند پایہ فقیہ و محدث اور معتبر صاحب دل و مبارک شخصیت امام ابو زکریا محی الدین بن شرف النووی کا نام نامی جن کی نیکی اور پاکبازی اور اخلاص و اللہیت کی

وجہ سے ان کی ہر کتاب کو اللہ نے خاص و عام میں مقبولیت بخشی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں پر تو بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں ابن السنی کی عمل الیوم واللیلۃ خاص طور پر قابل ذکر ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ کی ”اذکار“ کو خاص امتیاز حاصل ہے، ہماری دعاء ہے کہ اصل کی طرح برادر عزیز مولانا نثار احمد سلمہ کا ترجمہ بھی قبولیت کی دولت سے سرفراز ہو اور مترجم کے لئے یہ مبارک کتاب مایہ دنیا اور توشہ آخرت ثابت ہو، اس کتاب میں میری کسی قلمی ریزیش کی ضرورت ہرگز نہیں تھی لیکن مترجم کے کامزانیوں کی خواہش اور امام نوویؒ سے قلبی شغف نے یہ چند سطر لکھادی ہیں۔

ہمیں کہ قافیہ گل شدہ بس است

(مولانا) اشتیاق احمد

خادم مدرسہ اسلامیہ جامع العلوم مظفر پور، بہار

(وظیفہ مجاز شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی)

عرض مترجم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْخَلْقِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَا بَعْدُ :

اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو حکم دیتے ہوئے اپنی کتاب حکم میں فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ

بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ (الاحزاب ۴۱-۴۲)

اے ایمان والو! اللہ کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی

بیان کرتے رہو۔

دوسری جگہ مومنین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ . (المومن : ۶۰)

مجھے پکارو کہ میں بہونچوں تمہاری پکار کو، بے شک جو لوگ میری

بندگی سے تکبر کرتے ہیں وہ دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔

اور نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہتر

عمل اور اللہ کے نزدیک تمہارے سب سے پاکیزہ اور بار آور عمل کے بارے میں نہ بتا دوں جو سونا

چاندی کے خرچ کرنے سے اور اس سے بھی افضل ہے، کہ تمہارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو اور تم ان کی گردن مارو؟ تو صحابہؓ نے عرض کیا ضرور بتادیں، اے اللہ کے رسولؐ، تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ عمل ”اللہ کا ذکر ہے“ (دیکھئے: زیر نظر کتاب کی حدیث نمبر ۳۳)

الغرض سوتے، جاگتے، چلتے پھرتے، اٹھتے، بیٹھتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنا مومن کا ایک ایسا وصف ہے جس سے بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا اور اس کی عطاء و بخشش کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: **الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ**۔ وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، الخ۔

ذکر الہی وہ نسخہ ہے، جس سے قلب و باطن کو جلاء ملتا، اس کی صفائی ہوتی اور دلتنبوی آلودگیوں و آلائشوں کا ازالہ ہوتا ہے، جبکہ اس سے غفلت و لاپرواہی، دل کے اندر قسوت و پراگندگی پیدا کرتا اور مکر شیطانی کا اسیر بنا دیتا ہے، چونکہ دعاء بذات خود عبادت ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصود و مطلوب عبادت ہی ہے، اس لئے خود باری تعالیٰ نے کچھ دعاؤں کے الفاظ مؤمنین کو بتائے ہیں، جو قرآن کریم میں جا بجا مذکور ہیں۔

ان قرآنی دعاؤں کے علاوہ نبی کریم ﷺ سے بھی تقریباً زندگی کے ہر شعبہ میں جامع دعائیں منقول و ماثور ہیں، جنہیں متقدمین و متاخرین کے بے شمار علماء نے یکجا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس موضوع پر متعدد تصانیف تالیف کی ہیں، جو ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں اور موافق بھی، مختصر بھی ہیں اور طویل بھی، معیاری بھی ہیں اور غیر معیاری بھی، مگر ان میں سب سے جامع اور ترتیب و تجویب کے اعتبار سے سب سے عمدہ اور صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قابل اعتماد امام نوویؒ کی زیر نظر کتاب ”حلیۃ الابرار و شعاع الاخیار، فی تلخیص الدعوات و الاذکار ہے۔

یہ کتاب تقریباً سات سو سال سے عربی داں طبقہ کے درمیان متداول و عام ہے، اور ہر دعاؤں سے متعلق کتابوں میں سب سے زیادہ معتد و مستند ہے، کیونکہ امام نوویؒ نے اپنی اس کتاب میں صرف انہی احادیث کو جگہ دی ہے جو مشہور کتب حدیث یعنی صحاح ستہ میں مروی ہیں ان چھ کتابوں کے علاوہ باقی کتب حدیث سے بہت کم ہی خوشہ چینی کی ہے، اور اس کے اندر مذکور زیادہ تر احادیث تو صحیح ہیں یا

حسن درجہ کی، اس کے اندر ضعیف احادیث بہت کم ہیں، اور جو ہیں بھی تو اس کا ضعف معمولی ہے، شدید ترین ضعف والی احادیث کو نقل کرنے سے انہوں نے حتی الامکان احتراز کیا ہے، حالانکہ فضائل کے باب میں محدثین ضعیف حدیث سے استدلال کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

یہ کتاب اپنی افادیت و جامعیت اور ثقاہت و نفاست کی وجہ سے اس قابل تھی کہ جس طرح عرب علماء نے اس پر توجہ دی، بے شمار علماء نے اس کی تشریح و تفسیر اور تعلق و تخریج کا کام انجام دیا، اور ابن علان و حافظ بن حجر جیسی مسلم شخصیات نے بھی اس کی خدمت کی، علمائے ہند و پاک بھی اپنی علمی خدمات اور دینی کاوشوں کے دائرے میں اسے لیکر اردو داں طبقہ میں عام کرتے، مگر نہ معلوم کن وجوہات کی بنا پر ایسا نہ ہو سکا۔

عرصہ دراز سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ اس کا اردو ترجمہ منظر عام پر لایا جائے، تاکہ اردو داں طبقہ کے لئے اس سے استفادہ آسان ہو۔ کافی دنوں سے میں اس کا ترجمہ کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، مگر اپنی بے بضاعتی و کم مائیگی کے پیش نظر خواہش کے باوجود ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اور قلم اٹھانے سے قاصر تھا۔

ادھر کچھ دنوں سے بعض احباب و مخلصین کی جانب سے، جس میں سرفہرست اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب (شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ جامع العلوم مظفر پور) و مولانا خالد سیف اللہ رحمانی (مدیر المہمد العالی الاسلامی حیدرآباد و جنرل سکرٹری اسلامک فقہ اکیڈمی، دہلی) ہیں، یہ اصرار زور پکڑنے لگا کہ میں اس خدمت کو جلد انجام دوں، چنانچہ میں ان حضرات کی خواہش کے سامنے سپر ڈالنے پر مجبور ہوا، اور بحمد اللہ چند ماہ کی کاوش کے نتیجے میں ترجمہ کے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے کہ ان کی ہمت و حوصلہ انفرادی کے نتیجے میں یہ کام میرے ہاتھوں انجام پا گیا۔

ترجمہ کرتے وقت میں نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ ترجمہ سلیس، سہل اور عام فہم ہو، ہر خاص و عام کی سمجھ میں آجائے اور اردو عبارت میں عربی یا فارسی الفاظ کی بیجا آمیزش نہ ہو، کہ عوام الناس اسے اپنے ذہن پر بارگراں محسوس کریں، یا سمجھنے میں دقت پیش آئے۔

احادیث کے ترجمہ میں صرف اس کے ترجمہ پر اکتفاء نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ الفاظِ حدیث کو بھی نقل کر دیا ہے، البتہ آثار صحابہ یا اقوالِ سلف صالحین میں عربی عبارت کو نقل کرنے کے بجائے صرف ترجمہ نقل کرنے پر اکتفاء کیا ہے، اور غریب الفاظ کے مفہوم کی تعیین میں اکثر جگہوں پر شیخ طاہر پٹنی گجراتی کی، مجمع بजार الانوار پر اعتماد کیا ہے۔

پوری حدیث کے ضمن میں دعاء کا جو حصہ ہے، اسے میں نے بین القوسین اس طرح رکھا ہے [.....] تاکہ دعاء کرتے ہوئے صرف وہی الفاظ کہے جائیں جو بین القوسین ہیں، مثلاً حدیث ہے۔ مَنْ تَوَضَّأَ وَقَالَ : [أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ] فَتَحَّتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ السَّمَاوِيَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ “ (رواہ مسلم: زیر نظر کتاب کی حدیث نمبر ۷۵ دیکھئے)

اس میں وضوء کے بعد کی دعاء وہ ہے جو بین القوسین ہے۔ یعنی اشهد ان لا اله الا الخ سے ورسوله تک۔

زیر نظر کتاب میں کل (۱۲۲۷) احادیث ہیں، محقق نسخہ میں جس طرح ان احادیث کو نمبر وار شمار کیا گیا ہے میں نے بھی اسی طرح اس کے نمبر شمار کا التزام کیا ہے۔

صحیحین کے علاوہ دیگر کتب کی احادیث میں سے جن احادیث کو امام نوویؒ نے ذکر کرنے کے بعد اس کی صحت یا ضعف کی نشاندہی نہیں کی ہے، اور محققین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو میں نے بھی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کی صحت یا ضعف کی وضاحت کر دی ہے۔

جہاں ہمیں مفہوم کی وضاحت یا فقہاء و محدثین کے اختلاف کو اجاگر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، بین القوسین یا نوٹ لکھ کر میں نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔

اخیر میں ہم صمیم قلب سے بارگاہِ الہی میں دست بدعاء ہیں کہ وہ میری اس سعی و کوشش کو قبول فرمائے، ریاء و سمعہ سے دور رکھے، اور مسلمانوں کو شب و روز کے مختلف اوقات میں اٹھتے بیٹھتے ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا افادہ ہر خاص و عام میں عام فرمائے، آمین۔

اور اس کتاب کے پڑھنے والوں، اور ہر دعاء کرنے والوں سے میری وہی درخواست ہے

جو نبی کریم ﷺ نے حضرت عمر فاروقؓ سے عمرہ پر جاتے وقت کہا تھا، لَا تَنْسَا يَا أُخَيِّ فِي دُعَائِكَ“ وفی روایۃ، اَشْرُكْنَا فِي دُعَائِكَ يَا أُخَيِّ. کہ میرے بھائی، اپنی دعاء میں ہمیں نہ بھولیں، یا اپنی دعاء میں ہمیں بھی شریک رکھیں۔

امید کہ برداران اسلام ہمیں اور ہمارے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ وهو حسبی ونعم الوکیل وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .

نثار احمد القاسمی

استاذ

المعهد العالی الاسلامی حیدرآباد،

وجامعہ عائشہ نسواں، حیدرآباد

مقدمہ مترجم امام نووی اور کتاب الاذکار

عالم اسلام قرن اول ہی سے مختلف سیاسی اتار چڑھاؤ سے گذرنا رہا ہے، جس کے مثبت و منفی اثرات امت مسلمہ، مسلم معاشرہ، اسلامی دنیا، اور خاص طور پر شام و عراق کے علاقہ پہ پڑتے رہے ہیں۔

ساتویں صدی ہجری کا زمانہ سیاسی اعتبار سے مد و جزر اور بڑی افزائش کا زمانہ تھا، اور خلافت عباسیہ کے زوال کے بعد سے ہی عالم اسلام امن و سکون سے محروم تھا اور حالات ایسے نامساعد تھے کہ اس عہد میں علم کی ضیا پاشیوں کا مانند پڑ جانا ایک فطری بات ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صدی پر اپنا بڑا فضل و احسان کیا اور اہل علم سے ایسی ایسی عظیم خدمتیں لیں کہ ان کی نظر پچھلی صدیوں میں بھی نہیں ملتی۔

اس صدی میں مدارس اسلامیہ کا جال پورے خطہ میں پھیل گیا، صرف دمشق کے اندر ایک سو تیس مدارس تھے، جن میں سات دارالقرآن، سولہ دارالحدیث، تین میڈیکل انسٹی ٹیوٹ اور متعدد علمی و تعلیمی ادارے تھے۔ (دیکھئے: الامام النووی للحداد: ۱۵)

جب ہم تذکرہ و تراجم کی کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں تو اس صدی کے ماہرین فن خصوصاً علماء فن حدیث کے ذکر سے یہ کتابیں بھری ملتی ہیں، اس صدی کے پچاس سے زائد حفاظ حدیث کا

تذکرہ ہمیں ملتا ہے، انہی نابغہ روزگار اور یکتائے زمانہ شخصیات میں ایک امام نووی علیہ الرحمہ کی ذات گرامی ہے، جن کے نقوش علم و فکر آج تک مہر درخشاں کی طرح ضیاء بار ہیں، اور انشاء اللہ قیامت تک رہیں گے۔

نام و نسب

آپ کا نام یحییٰ بن شرف بن مرّی (اور مرتضیٰ زبیدی کے بقول مرّی) بن حسن، بن حسین، بن محمد، بن جمعہ، بن حزام الحزّامی الحورانی ہے، آپ کا نسب حزام تک پہنچتا ہے۔

ابوزکریا آپ کی کنیت ہے، عام طور پر کسی لڑکے اور خاص کر بڑے لڑکے کے نام کی نسبت سے کنیت رکھی جاتی ہے، مگر خلاف عادت آپ کی کنیت ابوزکریا پڑی، امام نوویؒ چوں کہ رشتہ ازدواج سے منسلک نہیں ہوئے، اس لئے آپ کو نہ بیوی تھی نہ اولاد، آپ نے ہمیشہ تاجر کی زندگی گذاری، اس لئے آپ کی کنیت ابوزکریا بقاضیہ ادب پڑ گئی، آپ نے خود یہ کنیت اختیار نہیں کی، بلکہ آپ کے شاگردوں نے جو آپ سے کسب فیض کرتے اور علمی پیاس بجھایا کرتے تھے، مخاطب کیلئے آپ کو اس کنیت سے مشہور کیا۔

آپ کا لقب محی الدین ہے، زندگی ہی میں یہ لقب اتنا مشہور ہوا کہ اس کے بغیر آپ کا نام نہیں لیا جاتا تھا، آپ بطور تواضع اسے ناپسند فرماتے اور کہا کرتے تھے کہ ”جس نے مجھے یہ لقب دیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس نے سچائی سے کام لیا“، مگر واقعہ ہے کہ آپ اس لقب کے سچے حقدار تھے، اللہ نے آپ کے ذریعہ بہت سی سنتوں کو زندہ کیا اور بہت سی بدعتوں کو مٹایا، چنانچہ آپ کی ناپسندیدگی کے باوجود اللہ نے آپ کے اس لقب کو آپ کی پہچان بنا دیا، وذلک فضل اللہ یؤتیه من یشاء۔

نسبتیں

آپ کے نام کے ساتھ متعدد نسبتیں لگی ہوئی ہیں، آپ کی ایک نسبت ”حزّامی“ ہے، یہ نسبت آپ کے جدِ اعلیٰ حزام کی طرف ہے، بعض کا خیال ہے کہ یہ حلیل القدر صحابی حضرت حکیم بن

حزام کی طرف نسبت ہے، مگر امام نووی علیہ الرحمہ نے خود اسے غلط قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری نسبت ”حزام“ نامی اس شخص کی طرف ہے جو عرب کے باشندے تھے اور گھاس و چارہ کی تلاش میں مختلف مقامات کو اپنا مسکن بنایا کرتے تھے، ایک بار وہ ”نوی“ آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی، اللہ نے انھیں بڑی ذریت سے نوازا، اور ان کی نسلیں اسی خطہ میں آباد ہوئیں۔

آپ کی ایک نسبت حورانی بھی ہے، حوران اس ضلع کا نام ہے، جس میں ”نوی“ نامی قصبہ واقع تھا، یہ نہایت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، امرؤ القیس نے اپنے اشعار میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کی ایک نسبت ”نووی“ ہے، ”نوی“ ایک قصبہ کا نام ہے، چونکہ آپ کی پیدائش یہیں ہوئی، یہیں پلے، بڑھے اور وفات پائی، اس لئے اس کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے، اور یہی نسبت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ دمشق کی طرف نسبت کرتے ہوئے ”دمشقی“ بھی کہے جاتے ہیں، کیوں کہ اس عظیم الشان اور مشہور شہر کے اندر آپ نے طویل مدت تک دین حنیف کی خدمت کی اور یہیں رہ کر علم حاصل کیا ہے۔

مسلا کا شافعی ہونے کی وجہ سے آپ کو ”شافعی“ بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ آپ مسلک شافعی کے صرف تابع ہی نہیں تھے بلکہ اس کے نقیب و ترجمان اور معتبر و مستند شارح بھی تھے۔

خاندان

امام نووی علیہ الرحمہ کے خاندان کا مفصل ذکر تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا، جس کی وجہ شاید یہ ہو کہ قابل ذکر صاحب علم و فضل شخصیات اس خاندان میں نہیں ابھر سکیں، البتہ ابن عطار نے صرف اتنا اشارہ کیا ہے کہ ”ان کے والد حزام عربوں کی عادت کے مطابق ”گولان“ جو فلسطین کا علاقہ ہے، میں نوی نامی قصبہ آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی، اللہ نے ان کی نسل کو بڑھایا، یہاں تک کہ ان کی ایک بڑی آبادی ہو گئی (دیکھئے: تحفۃ الطالبین ص ۳۰۳) مگر اس خاندان نے طویل گمنامی کے بعد ایک ایسی شخصیت پیدا کی جو پوری نسل کے لئے کفارہ بن گئی اور وہ یہی امام وقت یحییٰ بن شرف نووی کی شخصیت ہے جن کے طفیل اس خاندان اور علاقہ نے شہرت پائی۔

اس خاندان میں امام نوویؒ کے علاوہ ایک اور شخصیت قابل ذکر رہی ہے، اور وہ ہیں خود

امام نوویؒ کے والد بزرگوار، جن کی شہرت ورع و تقویٰ، عبادت و ریاضیت اور زہد و صلاح سے اس طرح ہوئی کہ یہی ان کی شناخت بن گئی، صاحب ”ذیل مرآة الزماں“ موسیٰ بن محمد بن ابوالحسن الیوشنی فرماتے ہیں:

یہ بزرگ صالح اور حلال پے قناعت کرنے والے تھے، کھیتی کیا کرتے تھے اور یہی ان کا اور ان کے کنبہ کا اصل ذریعہ معاش تھا، اسی سے وہ اپنے صاحب زادے امام نوویؒ کو وقتاً فوقتاً خرچ اور غذائی اشیاء بھیجا کرتے تھے، امام نوویؒ وہی کھایا کرتے جو والد صاحب کے پاس سے آتا، کوئی دوسری غذا استعمال نہیں کرتے تھے، کیوں کہ وہ اپنے والد کے زہد و تقویٰ اور ان کے مال کے حلال و خالص ہونے سے بخوبی واقف تھے۔

الیوشنی نے مزید لکھا ہے کہ:

ان کے والد اس پایہ کے بزرگ تھے، کہ انہوں نے مشتبہ چیز نہ کبھی خود استعمال کی اور نہ اپنے بچوں کو کرنے دی، نہ کبھی مشکوک مال کھایا نہ اولاد کو کھلایا، وہ صرف وہی کھاتے یا کھلاتے جس کا حلال ہونا معلوم ہوتا۔

(دیکھئے: ذیل مرآة الزماں: ۱۸۴/۳)

شاید اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے انھیں امام نووی علیہ الرحمہ جیسی اولاد سے نوازا، اس خاندان کے دیگر افراد کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔

پیدائش

تقریباً تمام مورخین نے امام نوویؒ کی تاریخ پیدائش ماہ محرم الحرام ۶۳۱ھ ذکر کی ہے (دیکھئے: المسہاج السوی: ۱۷۳) البتہ علامہ سخاوی، یافعی اور سیوطی نے ماہ محرم الحرام کے درمیانی عشرہ اور جمال السنوی نے پہلے عشرہ میں آپ کی ولادت کا ذکر کیا ہے، (دیکھئے: المسہاج: ۱۷۳، مرآة الحنان:

۱۸۶۲، الفتوحات الوہبیہ: ۳-۴، طبقات الشافعیہ الکبریٰ: ۲۶۶۲) مگر درمیانی عشرہ میں ولادت کی بات زیادہ راجح ہے کیوں کہ آپ کے شاگرد خاص ابن عطار نے اس کا ذکر کیا ہے، (دیکھیے: تحفۃ الطالبین: ۳) اور دوسروں کے بہ نسبت ابن عطار کی بات زیادہ قابل اعتبار ہے کیوں کہ ان کی معلومات خود صاحب واقعہ سے ماخوذ و مستفاد ہیں۔

پرورش و پرداخت

آپ کا بچپن عام بچوں سے بالکل مختلف تھا، اس عمر میں کھیل کود اور شرارتوں کا جو فطری داعیہ بچوں میں ہوا کرتا ہے، امام نوویؒ اس سے بہت دور تھے، یہی وجہ ہے کہ بلوغ سے پہلے بلکہ سن تمیز سے پہلے ہی اللہ کی خاص عنایتیں آپ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور آپ کو امامت و مشیخت کی مسند سنبھالنے کے لئے تیار کیا جانے لگا تھا، آپ کے بچپن کے بعض ایسے واقعات مورخین نے ذکر کئے ہیں، جسے سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے، آپ اپنی عمر کے ساتویں سال ایک رات اپنے والد کے ہمراہ کمرہ میں سو رہے تھے، یہ رمضان کی ۲۷ ویں شب تھی، آپ نے دیکھا کہ پورا کمرہ بفقہ نور بناوا ہے، سخت تاریکی کے وقت اس طرح روشنی دیکھ کر آپ کو حیرانی ہوئی، آپ نے اپنے والد کو جگایا اور اس کیفیت کے بارے میں استفسار کیا، تمام اہل خانہ بیدار ہو گئے مگر انہیں کچھ نظر نہیں آیا، والد کو اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ قدر کی رات ہے۔

آپ کے مستقبل کو جھانک لینے کے بعد آپ کے والد نے آپ کی خصوصی تربیت پر توجہ دی، اور سب سے پہلے قرآن کی تعلیم کے لئے قرآن کے مدرس کے پاس آپ کو رکھ دیا، قرآن آپ کا منفرد مشغلہ بن گیا، ہم عمروں کا کھیل کود اور ان کی دلچسپی کے مشاغل انھیں تلاوت قرآن سے باز نہیں رکھتی، ایک دن بچوں نے ساتھ کھیلنے کے لئے دباؤ ڈالا تو وہ ہاتھ چھڑا کے روتے اور تلاوت کرتے ہوئے بھاگ نکلے، شیخ یوسف مراتشی اس منظر کو دیکھ رہے تھے، ان کے دل میں ان کی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ آپ کے استاذ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اس بچے کا مستقبل اگر زندگی نے ساتھ دیا تو بہت تابناک ہے، اس پر توجہ دی جانی چاہئے، اسی طفولیت میں جب کہ وہ دس سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ آپ کے والد نے معاشی مجبوریوں کی وجہ سے آپ کو دکان پر بٹھا دیا، مگر آپ

خرید و فروخت کے بجائے تلاوتِ قرآن میں مشغول رہتے۔

(تفصیلی واقعات کیلئے دیکھئے: المنہاج السوی: ۱۷۳)

آپ نے بلوغ سے پہلے ہی قرآن کا حفظ مکمل کر لیا پھر دیگر علوم کی طرف اس طرح متوجہ ہوئے کہ اسی کے ہو گئے۔ آپ کا بچپن ایسے علمی انہماک میں گذرا گویا بچپن آیا ہی نہ ہو، مرآة الزمان میں لکھا ہے کہ آپ بچپن ہی سے بکثرت قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اودو وظائف کے پابند اور دنیا سے اعراض اور آخرت کی فکر کرنے والے تھے، (مرآة الزمان: ۲۸۴/۳) امام نوویؒ ۱۸ سال کی عمر تک اپنے قصبہ نووی ہی میں مقیم رہے، اپنے والد کی دکان میں ان کی معاونت کرتے رہے اور اسی مشغولیت کے دوران، جتنا وقت ملتا قصبہ اور قریب وجوار کے علماء و مشائخ سے کسب فیض کیا کرتے۔ (دیکھئے: الامام النووی للقدیر: ۲۲)

قابلیت و تفوق کے اسباب

امام نوویؒ صحیح معنوں میں اللہ کے خاص بندوں میں تھے، خشوع و خضوع، صبر و استقامت، عبادت و ریاضت، زہد و تقویٰ، رقت و انابت، ہر طرح کی معصیت سے اجتناب اور اس کے ساتھ ہی حصول علم کی خواہش اور ان کی تڑپ آپ کا وصف خاص تھا، غرض آپ ان اوصاف کے حامل تھے کہ ایسے شخص کا آگے بڑھنا اور مرتبہ کمال کو پانا قابل تعجب نہیں، آپ کی عظیم شخصیت میں نکھار پیدا کرنے، بڑھانے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے میں جن اسباب و عوامل نے نمایاں رول ادا کیا وہ کسی بھی ہیں اور وہی بھی، ذیل میں ہم اس کا ذکر قدرے تفصیل سے کرتے ہیں۔

تعلیمی سفر کا آغاز

”نووی“ ایک چھوٹی سی آبادی تھی، جہاں اونچی تعلیم کے قابل ذکر اساتذہ و مشائخ جو اپنے فن میں مکمل دسترس رکھتے ہوں شاید میسر نہیں تھے، اس لئے آپ کو یہ قصبہ چھوڑنا پڑا اور والدین اور اعزہ و اقارب کی جدائی برداشت کرنی پڑی، چونکہ دمشق اس وقت گہوارہ علم و دانش اور مرکز التفات عالم بنا ہوا تھا، دنیا کے کونے کونے سے تشنگانِ علوم و معرفت اس کا رخ کر رہے تھے،

مختلف علوم و فنون کے ماہر علماء و مشائخ یہاں اپنی درسگاہیں قائم کئے ہوئے تھے، مختلف تہذبات کے سینکڑوں مدارس یہاں قائم ہو چکے تھے، اس لئے امام نووی علیہ الرحمہ کی نگاہ انتخاب علمی سیرابی کے لئے اسی عظیم شہر کی طرف اٹھی، ۶۳۹ھ میں اپنے والد کے ہمراہ جب کہ آپ کی عمر بقول سخاوی و سیوطی ۱۹ سال یا بقول حداد ۱۸ سال تھی، دمشق آئے اور جامع اموی میں قیام کیا، جہاں آپ کی ملاقات وہاں کے امام و خطیب جمال الدین عبدالکافی بن عبدالملک الربیع (۶۱۲-۶۸۹ھ) سے ہوئی آپ نے ان سے اپنا تعارف کرایا اور ان کے سامنے اپنا مقصد رکھا، انہوں نے آپ کو شیخ تاج الدین عبدالرحمن بن ابراہیم بن ضیاء الفزازی ابن الفراحی کے حلقہ درس میں پہنچا دیا، آپ وہاں ذوق و شوق اور محنت و لگن کے ساتھ کسب فیض کرتے رہے اور کافی دنوں تک اسی حلقہ درس سے وابستہ رہے، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ تنگدستی و بدحال زندگی آپ کے لئے دشوار کن مسئلہ بن گئی تو آپ نے اپنے شیخ سے جائے قیام کی درخواست کی جہاں رات بسر کرنے، یکسوئی کے ساتھ علمی کام کرنے اور کتابیں محفوظ رکھنے کی گنجائش ہو، انھیں آپ کی بے سروسامانی اور مسافرت والی زندگی کا علم نہیں تھا، مگر ان کے اختیار میں ایسی جگہ نہیں تھی جہاں انھیں رکھ سکتے، ان کے زیر اثر صرف ایک درس گاہ ”مدرسہ صارمیہ“ تھی جہاں قیام کی سہولت نہیں تھی، چنانچہ انھوں نے آپ کو ”مدرسہ رواحیہ“ منتقل ہو جانے کا مشورہ دیا، جہاں یہ ساری سہولتیں میسر تھیں، اس وقت مدرسہ رواحیہ کے ناظم الامور شیخ کمال الدین اسحاق بن احمد بن عثمان المغربی تھے (۶۵۰ھ)۔

مدرسہ رواحیہ میں داخلہ

مدرسہ رواحیہ میں آپ کا داخلہ منظور ہو گیا اور آپ کو ایک تنگ و تاریک کمرہ ملا، جس کا حال یہ تھا کہ اگر کوئی اس میں داخل ہوتا تو بیٹھنے کے لئے اسے بمشکل جگہ بنانی پڑتی اور بیٹھنے کی گنجائش تب ہی نکلتی جب کہ کتابوں کو سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جاتا، (دیکھئے: ترجمۃ الاسنادی ۵: ۵) دمشق میں قیام کے دوران پوری مدت آپ کا قیام اسی تنگ کمرہ میں رہا، آپ یہاں سے تب ہی منتقل ہوئے جبکہ دارالحدیث اشرفیہ کی تعلیمی ذمہ داری قبول کی۔

امام صاحب اپنی غذائی ضروریات کی تکمیل کچھ دنوں مدرسہ سے حاصل ہونے والے

وظیفہ سے کرتے رہے، جس کا اکثر حصہ آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے، پھر آپ نے یہ وظیفہ لیبنا بند کر دیا اور آپ کی ضروریات کا پورا انحصار والد صاحب کی جانب سے آئی ہوئی اشیاء پر ہو گیا، جو زیادہ تر خشک نان اور حورانی انجیر کی شکل میں ہوتا تھا۔ (دیکھئے: ترجمہ اسحاقی: ۵)

حصول علم کا جذبہ اور ذوق و شوق

قیام کی سہولت کے علاوہ جو سب سے بڑی نعمت امام نووی کو یہاں حاصل ہوئی وہ شیخ کمال مغربی کے علم و فضل سے استفادہ کا موقع تھا، آپ ان کے حلقہ درس میں پابندی سے شریک ہوتے اور انتہائی شوق و ذوق اور محنت و لگن سے علم حاصل کرنے میں لگے رہتے، یہی وجہ ہے کہ انھوں نے ان دشوار گزار چوٹیوں کو اس برق رفتاری سے طے کیا جسے سر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہ تھی، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا کہ حصول علم میں آپ کے انہماک کی مثالیں دی جانے لگیں، رات و دن ورق گردانی میں گذرنے لگے، آپ کے سونے اور لیٹنے کا وقت صرف اتنا تھا کہ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو کتاب پر سر رکھ کر چند لمحات چھپکی لے لیتے، پھر مطالعہ میں مشغول ہو جاتے، آپ نے اپنا پورا وقت اسباق کی حاضری، مطالعہ، تالیف و تصنیف اور مشائخ و اساتذہ سے مراجعت میں مشغول کر رکھا تھا، امام نووی خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں:

”میں نے اپنا پہلو دو سالوں تک زمین سے نہیں لگایا، ان ایام میں وہ کبھی آرام سے سونے کیلئے بستر پر نہیں گئے اور نہ گہری

نیند کا لطف اٹھایا“ (دیکھئے: ترجمہ اسحاقی: ۶-۷)

آپ کی دلچسپی، یکسوئی اور لوگوں سے میل جول نہ رکھنے کی ادانے شیخ کے ذہن پر خاص اثر ڈالا، وہ ایسی محبت کرنے لگے کہ آپ کے علم و فضل کا اعتراف کرتے ہوئے جماعت کے بعض حصوں کے اسباق سننے کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر دی، آپ ہر روز ۱۲ اسباق مختلف اساتذہ کو پورے بسط و تفصیل کے ساتھ سنایا کرتے تھے، اس وقت آپ کے زیر درس اسباق تھے: ”الوسیط، المہذب، الجمع بین المحکمین، صحیح مسلم میں اللع، زبان دانی میں ابن سکیت کی اصلاح المنطق، تصوف، علم صرف اور اصول فقہ، اسماء الرجال اور اصول دین کا ایک ایک درس“ (المنہاج السوی: ۱۵)

بیک وقت اتنے اسباق کی پابندی اور وہ بھی پوری تحقیق و تشریح کے ساتھ عام طالب علم کے لئے یقیناً آسان نہیں، امام نووی فرماتے ہیں:

”ان اسباق سے متعلق تمام امور پر میں تعلیق کا کام اور بھرپور اظہار خیال کیا کرتا تھا، یعنی مشکلات کی تشریح، مطلق عبارت کی توضیح اور زبان کے اعتبار سے لغات کی تصویب و ضبط“

(دیکھئے: ترجمہ السخاوی: ۶)

سالہا سال دن میں روزہ رکھتے، اور ۲۴ گھنٹہ میں صرف ایک وقت کھاتے اور سحر کے وقت صرف پانی پر اکتفاء کرتے، اس ڈر سے کہ نیند غالب نہ آجائے، شکم سیر ہو کر نہ کھاتے اور نہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتے۔ (دیکھئے: ترجمہ السخاوی: ۳۹)

اسی طالب علمی کے زمانہ میں ایک بار آپ کو خیال ہوا کہ علوم ادیان کے ساتھ علوم ابدان (طبابت) بھی سیکھا جائے کہ یہ بھی ایک بہتر علم ہے اور خدمت انسانی کا ذریعہ ہے، چنانچہ آپ نے ابن سینا کی ”القانون“ کا مطالعہ شروع کیا، مگر یہ اصل مقصد میں رکاوٹ بنا اور بالآخر اس سے اپنا دامن چھڑالیا۔

قوت حافظہ اور کثرت مطالعہ

اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا کا قوت حافظہ عطا کیا تھا، ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے کہ پورا قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا اور شاید یہی نعمت آپ کے حافظہ کو جلا بخشنے میں معاون و مددگار ثابت ہوئی، مشکل سے مشکل چیز جس کا محفوظ کرنا دشوار ہوا کرتا آپ کو فوراً یاد ہو جایا کرتی، ابھی زانوائے تلمذ تہہ کرتے ہوئے چار ماہ کا عرصہ نہیں گذرا تھا کہ فقہ میں ابواسحاق شیرازی کی ”العتبیہ“ آپ نے لفظ بہ لفظ حفظ کر لی، اور سال کے بقیہ ایام میں انہی کی کتاب ”المہذب“ میں سے عبادات کا ایک چوتھائی حصہ ازبر کر لیا، آپ نے اپنے استاذ محمد بن زین (۶۰۳-۶۸۰ھ) کو ”العتبیہ“ سنائی تو انہوں نے آپ کی حفظ پر بھرپور داد دیتے ہوئے اس کی اجازت دی، اور فرمایا:

فقہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف بن مری نووی نے کتاب

”المتنبیہ“ شروع سے اخیر تک مجھے سائی متعدد ایسے مقامات پہ میں نے ان کے حافظہ کا امتحان لیا جہاں امتحان لیا جاسکتا تھا ، ان کے حفظ اور حصول علم میں شغف کی وجہ سے میں انہیں اجازت دیتا ہوں ، اللہ ہمیں اور انہیں ، سبھوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ۷/ربیع الاول ۱۳۵۰ھ کو ایک ہی مجلس میں ہوا۔

(طبقات السیسی الکبریٰ: ۱۹/۵، و شذرات الذہب: ۳۶۸/۵)

امام نوویؒ نے ایک بار خود فرمایا تھا:

وسط کے بارے میں لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں ، حالانکہ میں نے ۴۰۰ چار سو مرتبہ اس کا مطالعہ کیا ہے۔

(ترجمہ اسنادی: ۳۶، نیز المنہاج السوی: ۱۷۸)

اتنی بار مطالعہ کرنے کے بعد یقیناً یہ کتاب آپ کو محفوظ ہوگئی ہوگی، مگر اسے آپ کی یاد کردہ کتابوں کی فہرست میں شمار نہیں کیا گیا ہے، شاید اس وجہ سے کہ اسے آپ نے مروجہ طریقہ کے مطابق حرف بحرف یاد نہیں کیا، بلکہ اصل مضمون و مفہوم بالفاظ دیگر ذہن میں محفوظ فرمایا۔

آپ کے اساتذہ

سرزمین شام و عراق اس صدی میں عظیم ہستیوں کے وجود سے گہوارہ علم و دانش بنی ہوئی تھی، مختلف علوم و فنون میں دسترس رکھنے والے، خصوصاً حدیث و فقہ کے باکمال علماء جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے، اور ان میں بھی علم حدیث سے وابستگی رکھنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، مختلف فنون کے ماہرین بھی علم حدیث سے ضرور مناسبت رکھتے تھے، فقیہ ہوں یا ادیب، نحوی ہوں یا اہل لغت، علم حدیث سے ضرور مربوط ہوا کرتے تھے۔ (دیکھئے: البدایہ والنہایہ: ۱۳)

امام نوویؒ نے انہی علماء حدیث کا زمانہ پایا اور ان سے بھرپور استفادہ کیا اور جب اس گرانقدر درس گاہ سے فراغت حاصل ہوئی تو آپ ایک قابل اعتماد حافظ حدیث، امام مجتہد، اور ماہر لغت تھے،

کیوں کہ آپ نے اپنی ذاتی صلاحیت کے علاوہ اپنے اپنے فن کے ائمہ سے استفادہ کیا تھا۔
آپ نے جن محدثین سے استفادہ کیا ان میں سے چند یہ ہیں:

- ۱ - قاضی خطیب عماد الدین عبدالکریم خرستانی (۵۷۷-۶۲۲ھ)
- ۲ - شیخ الشیوخ شرف الدین الاوسی الانصاری (۵۸۲-۶۲۲ھ)
- ۳ - حافظ زین خالد ابوالبقاء النابلسی (۵۸۵-۶۲۳ھ)
- ۴ - ابن البرہان ابواسحاق ابرہیم الواسطی السفار (۵۹۳-۶۲۳ھ)
- ۵ - امام ضیاء الدین ابواسحاق المرادی، الاندلسی (ت-۶۲۸ھ)
- ۶ - زین الدین ابوالعباس احمد بن عبدالدرام (۵۷۵-۶۲۸ھ)
- ۷ - تقی الدین ابو محمد اسماعیل المتوخی (۵۸۹-۶۷۲ھ)
- ۸ - مفتی جمال الدین ابو زکریا الحرانی المشہور بابن الحیثی (ت-۶۷۸ھ)
- ۹ - شیخ الاسلام امام شمس الدین ابوالفرج المقدسی (ت-۶۸۲ھ)

علماء فقہ میں جن شیوخ کے سامنے آپ نے زانوئے تلمذ تہہ کیا ان میں سے چند

یہ ہیں:

- ۱ - علامہ فقیہ مفتی کمال الدین ابوابرہیم المغربی (ت-۶۵۰ھ)
 - ۲ - مفتی شام علامہ کمال الدین ابوالفضائل الاربلی الحلی (ت-۶۷۰ھ)
 - ۳ - فقیہ شام امام شیخ الاسلام ابوالفضل ابو محمد عبدالرحمن الفزازی (۶۲۳-۶۹۰ھ)
- امام نووی نے اصول فقہ وحدیث میں قاضی ابوالفتح کمال الدین عمر بن بندار ^{تفلیسی} (۶۰۲-۶۷۲ھ) سے اور لغت وادب شیخ ابوالعباس جمال الدین احمد بن سالم المصری انجوی (ت-۶۷۲ھ) اور حجۃ العرب علامہ جمال الدین ابو عبداللہ محمد الطائی الحیاتی (۶۰۰-۶۷۲ھ) سے کسب فیض کیا۔

تدریس سے وابستگی

طلب علم میں ابھی زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا کہ آپ اپنے ہم عصروں میں امتیازی حیثیت

کے حامل ہو گئے اور اس قابل ہو گئے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں، آپ اپنی عمر کے ۱۹ ویں سال ۶۳۹ھ میں دمشق آئے اور پہلا مدرسہ جس میں حصول علم کیلئے وابستہ ہوئے وہ مدرسہ رواجیہ تھا جہاں شیخ کمال الدین المعرفی تقریباً بیس سال سے تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے، ان کی وفات سے ایک سال قبل جب امام نووی ان کے حلقہ درس میں شریک ہوئے تو بہت جلد ان کے منظور نظر بن گئے، وہ آپ کو دل و جان سے چاہنے لگے، پھر اسباق سننے کی ذمہ داری بھی آپ پہ ڈال دی، یہیں سے آپ کے تدریسی عمل کا آغاز ہوتا ہے، یہ عہدہ اگرچہ دیر پا نہ رہا مگر اس عصر میں آپ کو خاصا تجربہ ہو گیا اور اس قابل ہو گئے کہ تدریس کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاسکیں۔

تھوڑے عرصہ بعد ہی مدرسہ رکنیہ جو انیہ میں آپ کو علامہ شمش الدین بن خلکان کی نیابت کرنی پڑی، پھر ۶۶۹ھ تک مدرسہ اقبالیہ میں اور پھر مدرسہ فلکیہ میں آپ نے ان کی نیابت کی۔
(دیکھئے: ذیل قرآۃ الزمان: ۷۸۳/۳)

البتہ ”دار الحدیث اشرفیہ“ میں آپ کی تدریسی خدمات کا باضابطہ آغاز ۶۶۵ھ میں ابو شامہ کی وفات کے بعد ہوا، جو ۶۷۶ھ میں آپ کی وفات تک جاری رہا، اور یہ کل گیارہ سال کا عرصہ ہے، جس میں آپ نے ایک جم غفیر کو مبتدئہ استفادہ کا موقع عنایت کیا۔

بعض ممتاز تلامذہ

آپ کے تلامذہ اور مستفیدین کی تعداد بہت ہے، ہر ایک کا ذکر یہاں ممکن نہیں، البتہ بعض ان شاگردوں کا نام ہم نیچے ذکر کر رہے ہیں، جن پر تاریخ نازاں ہے:

۱۔ علاء الدین علی بن ابراہیم ابوالحسن بن العطار

(۶۵۴-۷۲۴ھ)

۲۔ محدث وقت جمال الدین ابوالحجاج یوسف بن زکی کی القضاعی الکلی (۶۵۴-۷۴۲ھ)

۳۔ محمد بن ابراہیم قاضی شمس الدین بن نقیب الدمشقی (۶۶۱-۷۴۵ھ)

۴۔ قاضی سلیمان بن ہلال الجعفری الملقب بصدردین ابوالریج الباشمی (۶۳۲-۷۲۵ھ)

۵۔ سالم بن عبدالرحمن بن عبداللہ امین الدین ابوالدر

(۶۳۵-۷۲۶ھ)

زہد و تقویٰ

تقویٰ آپ کا وصف خاص تھا، آپ نامورات اور نوافل کا مکمل اہتمام رکھتے اور محرمات و منہیات سے دور رہتے، اور ہر اس چیز سے اجتناب کرتے جو دین میں کوتاہی کا سبب بن سکتا ہو۔ آپ سالوں سال روزہ رکھتے اور راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، (دیکھئے: ذیل مرآة الزمان: ۸۸/۳، و السخاوی: ۳۶) امام ذہبی نے ”تذکرۃ الحفاظ“ میں آپ کی تعریف کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ دین میں آپ کا مقام ایسا ہے جیسے جسم کے لئے سر، آپ کے لئے علم ظاہر ہوا تو آپ اسے اپنا نے کے لئے کمر بستہ ہو گئے، اور نیکیوں پہ آپ کی نگاہ پڑی تو وہ چیزیں خود آپ پہ نچھاور ہو گئیں۔ (دیکھئے: ترجمہ السخاوی: ۳۵)

امام نووی علیہ الرحمہ کو زہد کا دافر حصہ ملا تھا، آپ دنیا سے اپنی ذات کے لئے محض اتنا ہی لینا پسند کرتے جس سے وجود باقی رہے اور بندگی ہوتی رہے، آپ کی معاشی بد حالی پہ لوگوں نے آپ کی ملامت بھی کی، مگر آپ قناعت پر ثابت قدم رہے۔

علامہ رشید الدین نے آپ کو ایک بار کہا، مجھے آپ کے بیمار پڑ جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں وہ آپ کو اس بہتر سے جسے آپ نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، محروم نہ کر دے، آپ نے جواب دیا کہ فلاں شخص روزہ رکھتا رہا، عبادت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں نیلی پڑ گئیں (دیکھئے: ترجمہ السخاوی: ۳۹) آپ کی عام غذا خشک نان اور حورانی انجیر تھی جو والد محترم کی جانب سے آجایا کرتی تھی، آپ کے لباس پہ کئی کئی پیوند لگے ہوتے تھے، میوہ جات اور فروٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ (دیکھئے: ترجمہ السخاوی: ۳۸)

نقل کیا جاتا ہے کہ وفات سے قبل آپ کو سب کھانے کی خواہش ہوئی، زندگی میں پہلی بار پھل کھانے کی خواہش کو گھڑ والوں نے فوراً پورا کرنے کی کوشش کی، اور بلا تاخیر حاضر کر دیا، مگر آپ نے استقامت اختیار کی اور اسے نہیں کھایا، انتقال کے بعد بعض افراد خانہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ کیسا معاملہ رہا؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے عزت بخشی، اچھی مہمان نوازی کی گئی اور جس چیز کے ذریعہ سب سے پہلے میری مہمان نوازی

فرمائی، وہ سبب تھا۔ (دیکھئے: المنہاج السوی: ۲۸)
یونہی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

وہ وصف جس نے امام نووی کو اپنے ہم عصروں پر جو فتنہ میں
ان سے بھی بڑھ کر تھے فوقیت دی، وہ آپ کی دنیا سے بے
رغبتی دیانت داری اور ورع و تقویٰ تھا۔

(دیکھئے: ذیل مراءۃ الزمان: ۱۸۳/۳)

آپ کے ورع و احتیاط کا حال یہ تھا کہ دمشق کا پھل یہ کہتے ہوئے نہیں کھاتے کہ یہ شہر
اوقاف اور ان لوگوں کی املاک کا شہر ہے، جن پر شرعاً پابندی ہے اور اس میں تصرف صرف مصلحت
کی وجہ سے ہی درست ہے، نیز پھلوں کی بیٹائی کا مسئلہ بھی ہے، جس میں علماء کا اختلاف ہے، تو
ایسی صورت میں میرا دل کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ میں اسے کھاؤں۔ (اسخاوی: ۶۱)

شادی نہ کرنے پر آپ کی ملامت کی گئی اور کہا گیا کہ شادی سنت موکدہ ہے آپ کے اندر
ساری سنت تو آگئی بس ایک سنت باقی رہ گئی ہے، تو آپ نے جواب دیا مجھے خطرہ ہے کہ اس ایک
سنت کی بجا آوری سے کہیں میں کئی محرمات میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ (دیکھئے: تذکرۃ الحفاظ: ۱۲۷/۳)

تواضع و انکساری

آپ کے اندر تواضع و انکساری کا وصف بھی نمایاں طور پر پایا جاتا تھا، آپ نے جسمانی
آرائش و زیبائش، اور شکل و صورت کی سجاوٹ کو ناپسند فرمایا، آپ کا کپڑا معمولی موٹا کھر در، پیوند
لگا ہوتا تھا، آپ کا کھانا خشک نان روکھا اور نہایت سادہ ہوا کرتا تھا، آپ کا عمامہ معمولی باریک
سختیانی حورانی فقہاء کے انداز کا ہوتا تھا، اپنا کام خود کرتے، کسی دوسرے کو اس کا موقع نہیں دیتے،
ایک بار آپ نے اپنا کپڑا اتارا، اس میں جویں تھیں، بعض طلبہ نے اسے نکالنا چاہا تو آپ نے منع
کر دیا۔ (اسخاوی: ۲۹)

آپ کا تواضع ہی تھا کہ آپ امامت و مشیخت کے منصب پر فائز ہو جانے کے باوجود اپنے
تذہ و شیوخ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ (اسخاوی: ۳۹)

جذبہ نصیح و موعظت

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی آپ کا امتیازی وصف تھا — ایک بار آپ نے سلطان طاہر بیہس کو خط لکھا اور رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرنے اور ان پر عائد ٹیکس کو ختم کرنے کی تلقین کی تو شاہ نے آپ کو سخت جواب تحریر کیا اور آپ کی نصیحتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دھمکی دی، آپ نے اس کا ترکی بہری جواب دیا اور صورت مسئلہ کی وضاحت اور اس کے ظلم کی نشاندہی کی اور بادشاہ کو اس کا جواب دہ قرار دیا (السخاوی: ۴۱-۴۳) اس طرح کے کتنے ہی واقعات آپ کے تذکرہ نگاروں نے نقل کئے ہیں۔ (تفصیلات کے لئے دیکھئے: الامام النوی للدفتر)

سائخہ وفات

ایک دن آپ مدرسہ اشرفیہ والے اپنے کمرہ میں بیٹھے تھے، آپ قبلہ روتھے، کہ ایک شخص فضاء میں اڑتا ہوا مدرسہ کے مغرب سے مشرق کی سمت گیا، اس نے جاتے ہوئے کہا، اٹھو، بیت المقدس کی زیارت کرو، تو آپ نے اپنے شاگرد خاص ابن عطار سے اس کا تذکرہ کیا، پھر بولے، چلو ذرا احباب کی زیارت کراتے ہیں، اور انہیں رخصت کراتے ہیں، پھر قبرستان گئے جہاں آپ کے اساتذہ مدفون تھے، آپ نے کچھ تلاوت کی، دعاء کی اور روپڑے، پھر باحیات احباب کی زیارت کی اور صبح ہی نومی کے لئے روانہ ہو گئے، القدس اور خلیل کی زیارت کی اور اپنے والد کے مکان میں بیمار ہو گئے، ابن عطار فرماتے ہیں کہ آپ کی علالت کی اطلاع مجھے دمشق میں ملی، میں آپ کی زیارت کیلئے نومی آیا مجھے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے اور دمشق واپسی کا حکم دیا، آپ کو صحت یاب ہوتے دیکھ کر بروز ہفتہ ۲۰ رجب میں آپ سے رخصت ہوا اور سہ شنبہ کی شبہ ۲۴ رجب ۶۷۶ھ کو آپ اپنے رب سے جا ملے، اناللہ وانا الیہ راجعون۔

ابن عطار یہ بھی لکھتے ہیں کہ مجھے سفر کی اجازت دینے سے کچھ قبل ایک فقیر نے آپ کو ایک لوٹا بطور ہدیہ پیش کیا، تو آپ نے اسے قبول فرمایا، حالانکہ آپ ہدیہ بالکل قبول نہیں کرتے تھے، اور فرمایا کہ اس سے پہلے ایک اور فقیر نے زنبیل بھیجا تھا، پھر فرمایا، یہ لوٹا

ہے اور وہ آلہ سفر۔ (دیکھئے: تحفۃ الطالبین: ۱۰، ۱۱، ۱۲)

تالیفات

آپ کو علمی مشاغل سے وابستہ ہوئے زیادہ وقت نہیں گذرا تھا کہ تصنیف و تالیف کی طرف متوجہ ہو گئے اور لوگوں کے استفادہ کے لئے پورا ایک کتب خانہ چھوڑ گئے اہل علم نے آپ کی ۶۵ سے زائد تالیفات کا ذکر کیا ہے، فن حدیث میں ۹/فقہ میں ۱۸/تربیت میں ۵/سیر و تراجم و لغت میں ۷/مشہور تصنیفات آپ نے چھوڑی ہیں، مخطوطہ کتابوں کی تعداد ۴۳ سے زیادہ ہے، جو زیور طبع و تحقیق سے آراستہ ہونے کے انتظار میں ہیں، کتابوں کی تفصیل اور اس کا تعارف میرے اردو رسالہ ”امام نووی حیات و کارنامہ“ میں مذکور ہے۔

کتاب الاذکار - بیک نظر

امام نووی نے اپنی اس تالیف کا تذکرہ بعض دیگر تصنیفات میں بھی کیا ہے، مثلاً ”تہذیب اللہ واللغات: ۱/۱۱، مجموع شرح المہدت: ۶۸/۱، شرح مسلم: ۸۲/۳، شرح بخاری: ۱۵۳/۱ میں“

اصلی نام

آپ کے سیرت نگاروں مثلاً ابن عطار، نخعی، امام ذہبی، حافظ ابن کثیر، یافعی، ابن قاضی شہید، علامہ سیوطی، ابن عماد وغیرہم نے اس کا نام ”کتاب الاذکار“ ذکر کیا ہے۔

(دیکھئے: تحفۃ الطالبین: ۱۹۶/۵، ترجمۃ اللغی: ۱۷۵، تذکرۃ الحفاظ: ۱۲۸/۳، البدایہ والنہایہ: ۲۷۹/۱۳، مرآة البصائر:

۱۵۶/۳، المنہاج السوی: ۱۶، اشعارات: ۳۵۶/۵)

مگر حاجی خلیفہ، بغدادی، زرکلی اور رضا کمالہ نے اس کا نام ”حلیۃ الابرار و شعار الابرار فی تلخیص الدعوات والاذکار“ ذکر کیا ہے۔

زرکلی نے الاعلام میں یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اس کا نام ”حلیۃ الابرار الخ“ ہے، مگر یہ ”الاذکار النویۃ“ کے نام سے مشہور ہے، اس سے یہ احتمال ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی الگ تصنیف ہو، یہ ایک ہی کتاب ہے جو دونوں ناموں سے جانی جاتی ہے، یہ کتاب دنیا کے مختلف خطوں میں برابر

زیور طبع سے آراستہ ہوتی رہی ہے، پہلی مرتبہ یہ کب شائع ہوئی؟ اس کا اندازہ تو نہیں ہو سکا، تاہم یہ محسوس ہوتا ہے کہ شروع ہی سے یہ طبع ہو کر لوگوں میں عام رہی ہے، (دیکھئے: کشف الظنون ۶۸۸/۱، ہدیۃ العارفین ۵۲۲/۲، الاعلام ۱۳۹/۸، المسند رک علیٰ محمد المؤمنین ۸۳۷)۔

شیخ محمد انور احمد البلتاجی نے اس کی تصحیح و مراجعت، احادیث کی نمبر اندازی اور فہرست تیار کی اور اس گرانقدر اضافہ کے ساتھ ۲۰۰۶ھ میں یہ کتاب ”دار التراث الاسلامی“ سے شائع ہوئی۔ خود امام نووی علیہ الرحمہ مسلم کی شرح میں اس کتاب کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں:

کوئی بھی دیندار شخص اس جیسی کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ (دیکھئے: ۸۲۳)۔
آخرت کی فکر کرنے والا اور اس کا متلاشی اس جیسی کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ (المجموع: ۳۶۷۲)۔

مقصد تالیف

امام نوویؒ اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ”میرا مقصد آخرت کی فکر کرنے والوں اور اذکار و وظائف کی رغبت رکھنے والوں کے لئے شب و روز کے اعمال اور اذکار و وظائف کو آسان بنا کر پیش کرنا ہے، کیوں کہ اس سے پہلے جن علماء نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ان کی تالیفات طوالت سے خالی نہیں تھیں، ان میں اسانید کا ذکر اور بیجا تکرار تھا، جو رغبت رکھنے والوں کی ہمت پست کرنے اور بددلی پیدا کرنے کا سبب تھا، اس لئے زیر نظر کتاب ترتیب دی گئی، تاکہ ان رغبت رکھنے والوں کے لئے استفادہ آسان ہو۔ (دیکھئے: مقدمۃ الاذکار)۔

چوں کہ مؤلف کے پیش نظر کتاب کو آسان بنا کر پیش کرنا تھا، اس لئے آپ نے عموماً اسناد کو حذف کر دیا ہے، اور اس لئے بھی کہ یہ ذوق عبادت کے حاملین کا موضوع ہے جن کا مقصد اذکار کی معرفت اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، نہ کہ سند سے واقفیت بلکہ خواص الہل علم کے علاوہ دوسروں کے لئے اس کا ذکر گراں خاطر ہوا کرتا ہے۔ (دیکھئے: مقدمۃ الاذکار)۔

البتہ اس کے بجائے امام نووی نے اس سے اہم چیز کا اس میں اضافہ فرمایا ہے، اور وہ ہے معیار حدیث کی صراحت، چنانچہ آپ نے ہر حدیث کے صحیح، حسن، ضعیف یا منکر ہونے کی نشاندہی کی ہے اور بلاشبہ یہ سند کی صراحت سے کہیں زیادہ اہم اور مفید ہے۔

اس کے علاوہ امام نوویؒ نے علم حدیث، فقہ، اصول، آداب اور عبادت و ریاضت سے متعلق بہت سی گرانقدر معلومات و ہاریکیاں بھی اس کے اندر سمودی ہیں، جن سے باخبر رہنا اہل سلوک کے لئے از حد ضروری ہے۔ (حوالہ سابق)

اسلوب تحریر

امام نوویؒ نے اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں فرمایا ہے:

”اس کتاب کے شروع میں ہم چند فصلوں کا تذکرہ کریں گے جس کی ضرورت اس کتاب یا اس جیسی کتاب کا اہتمام کرنے والوں کو ہوتی ہے، اور صحابہ میں چونکہ بعض شخصیت عوام الناس سے (جو علمی حلقوں سے وابستہ نہیں ہیں) غیر مشہور ہے، اس لئے میں نے ان کی شخصیت پہ روشنی ڈالتے ہوئے ”فلاں صحابی رسول“ سے مروی ہونے کی صراحت کر دی ہے، تاکہ ان کے صحابی رسول ہونے میں شبہ باقی نہ رہے۔

نیز فرماتے ہیں:

اس کتاب میں ہم ان ہی احادیث کو جگہ دیں گے جو اصول اسلام کی پانچ کتب حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی میں مروی ہیں، ان کے علاوہ دیگر مشہور کتب حدیث سے بھی کچھ خوشہ چینی کریں گے، البتہ ”جزاء و مسانید“ سے شاذ و نادر ہی کہیں کوئی حدیث نقل کریں گے اور مشہور پانچوں بنیادی کتابوں سے بھی ہم عموماً صحیح حدیث ہی نقل کریں گے، البتہ گا ہے بگا ہے کسی حدیث کے ضعف کی نشاندہی کے ساتھ کوئی ضعیف حدیث بھی نقل کر سکتے ہیں۔

پھر فرماتے ہیں:

اسی وجہ سے امید ہے کہ یہ کتاب قابل اعتماد و اعتبار ایک

بنیادی کتاب ہوگی۔

آگے فرماتے ہیں:

پھر کسی کسی باب میں ہم وہی حدیث ذکر کریں گے جس کی دلالت اس مسئلہ پہ ظاہر اور اس باب سے متعلق واضح ہوگی۔

(دیکھئے: مقدمۃ الاذکار)

بلاشبہ امام نوویؒ نے اپنی کتاب میں مذکورہ التزامات کو اچھی طرح نبھایا اور موضوع کا پورا حق ادا کیا ہے۔

امام نوویؒ نے دو مقامات کے علاوہ اپنی تمام مرویات کی سندوں کو اس کتاب کے اندر حذف کر دیا ہے، البتہ اس کی پہلی اور آخری حدیث کی سندوں کو ایک خاص وجہ سے مکمل ذکر فرمایا ہے، پہلی حدیث ”انما الاعمال بالنیات“ والی ہے، جسے انہوں نے اپنے شیخ امام ابوالبقاء خالد بن یوسف النابلسی کے سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور آخری بھی ان ہی سے روایت کی ہے، جس کی سند میں تمام راوی دمشق ہیں اور وہ حدیث قدسی ”یا عبادانی حرمت الظلم“ والی ہے، بقیہ تمام احادیث ”روینا“ کے ذریعہ نقل کی ہیں، شاید اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ پہلی حدیث جس طرح مسند ہے یہ احادیث بھی مسند ہیں۔

آپ نے ابن سنی والی روایت کی سند کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ان کی کتاب ”عمل الیوم واللیلۃ“ سے بھی روایت نقل کرنے میں استفادہ کریں گے، اور ایسا کیا بھی ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں:

میں نے اس کتاب (عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی) کی سند بطور خاص اس لئے ذکر کی ہے کہ یہ اس فن میں جامع ترین کتاب ہے، ورنہ جو بھی روایت میں اس کے اندر ذکر کروں گا، وہ مجھے سماع متصل کے ذریعہ صحیح روایتوں کے ساتھ حاصل ہوئی ہیں، سوائے یہ کہ شاذ و نادر کوئی اس کے برخلاف ہو، ان صحیح روایات میں زیادہ تر وہ ہیں جو حدیث کے پانچ مستند ترین مجموعوں صحیح بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی کی ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو دیگر کتب مسانید و سنن مثلاً موطا امام

مالکؒ، مسند امام احمدؒ ابو عوانہ، ابن ماجہ، دارقطنی بیہقی وغیرہ میں ہیں۔

یہ تمام روایات ہمیں مسند متصل ان کے مؤلفین سے حاصل ہوئی ہیں۔ (دیکھئے: مقدمہ الاذکار) روایات خواہ کسی بھی کتاب کی ہوں، اس کے معیارِ صحت، حسن اور ضعف کی نشاندہی کرنے اور اس کی تخریج و تحقیق سے مفر نہیں، امام نوویؒ نے اپنی اس کتاب میں اسے ملحوظ رکھا ہے، اور صحیح کے علاوہ نقل کی جانے والی احادیث کا حکم ضرور بیان کیا ہے۔

البتہ بعض مشہور احادیث کی شہرت کی وجہ سے اس پر حکم لگانے سے پہلو تہی کی ہے، مگر اس پہلو تہی کے سبب کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے، مثلاً روبرو مدح سرائی کی ممانعت والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

یہ تمام احادیث جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، صحیح بخاری و مسلم کی ہیں اس لئے ہم نے مزید حکم بیان نہیں کیا ہے۔ (دیکھئے: الاذکار، باب مدح، ۲۸-۳۳۱)

ایسا بھی نہیں کہ ہر جگہ مؤلف نے اس کی صراحت کو ضروری ہی سمجھا ہو، بلکہ بعض جگہوں پہ نہ تو انہوں نے حکم بیان کیا ہے اور نہ ہی اس کے اسباب پر روشنی ڈالی ہے، مثلاً حضرت ابن عمرؓ والی روایت ”اذا مسرتهم برياض الجنة فارتعوا“ الخ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ذہول و نسیان کی وجہ سے کسی حدیث کا حکم بیان نہیں کیا جاسکا، جس کی طرف انہوں نے خود اذکار کے مقدمہ میں اشارہ فرما دیا ہے اور وہ حدیث نہ صحیح ہے نہ حسن، مگر ضعیف کی ان قسموں میں سے ہے جن پر فضائل کے باب میں عمل کیا جاسکتا ہے، جیسا کہ ابن عمر کی مذکورہ روایت اور حدیث نمبر: ۳۱-۳۹ ہیں۔

دو تین حدیثیں ایسی بھی ہیں، جس کا ضعف شدید ہے اور فضائل کے باب میں بھی اس پر عمل درست نہیں، مگر انہوں نے اس سے سکوت اختیار کیا ہے، مثلاً حدیث نمبر: ۳۸

کتاب الاذکار اہل علم کی نظر میں

اہل علم کے دلوں میں اس کتاب کی ہمیشہ سے بڑی وقعت اور قدر و منزلت رہی ہے، اور شاید اس وجہ سے کہ یہ اپنے فن میں ممتاز و مایہ ناز مجموعہ ہے، ابن علان فرماتے ہیں:

یہ عظیم المرتبت، بلند پایہ، قابل فخر کتاب ہے، جسے اس کے مؤلف نے امت اسلامیہ کی خیر خواہی اور نصح و موعظت کے پیش نظر مرتب کیا ہے، نہ کہ فخر و مباہات کے لئے، کوئی بھی آخرت کی فکر کرنے والا صاحب خیر اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، ایسے علماء جو دین کے ستون سمجھے جاتے ہیں ان کا کہنا ہے ”گھر بیٹھو، اذکار خریدو“ بعض بزرگ ہستیوں کا کہنا ہے ”جو اذکار نہ پڑھے وہ ذاکر نہیں“۔ (الفتوحات الربانیہ: ۲۶۱)

حافظ ابن حجرؒ نے اپنی مجالس الملاء میں ان احادیث کی تخریج کی اور مستقل کتاب کی شکل میں اسے ترتیب دیا جو ”نتائج الافکار فی تخریج احادیث الاذکار“ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے اندر ابن حجرؒ نے ہر حدیث کا درجہ متعین کیا ہے، مگر سوء اتفاق کہ وہ اس کی تکمیل نہ کر سکے اور کتاب الاستیذان تک پہنچتے ہی آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اس کا پہلا حصہ ڈاکٹر حمزہ عبد المجید کی تحقیق کے ساتھ ۱۴۰۶ھ میں بغداد سے شائع ہوا۔

علامہ محمد بن علان الصدیقی المکی (ت ۱۰۵۷ھ) نے اس کی مبسوط بے مثال شرح ”الفتوحات الربانیة علی الاذکار النوویة“ کے نام سے سات ضخیم جلدوں میں شرح و بسط سے تحریر فرمائی، جس میں ابن حجرؒ کی تحقیق و تخریج کو بھی شامل کر لیا ہے اور استیذان ان کے بعد احادیث کی تخریج تو انہوں نے کی، مگر ابن حجرؒ کی طرح اس پر حکم لگانے سے گریز کیا۔

حافظ ابن حجرؒ کے شاگرد خاص علامہ سخاویؒ نے اس کے چھوڑے ہوئے کام کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا، مگر ابھی الملاء کی چند ہی مجلسیں ہوئی تھیں کہ زندگی نے ساتھ چھوڑ دیا اور اپنے رب سے جا ملے، ابن علانؒ فرماتے ہیں کہ ان کی امالی کی مقدار تین جلدوں میں ہے۔ (دیکھیے: الفتوحات الربانیة: ۲۶۱)

چوں کہ اس کے اندر اذکار و اوعیہ کے علاوہ احکام و آداب بھی ہیں، اس لئے بعض علماء نے اذکار کو احکام سے علاحدہ کرنے کی کوشش کی ہے، حافظ جلال الدین سیوطیؒ (ت ۹۱۱ھ) نے اس کی تلخیص کی ہے اور اس کا نام ”اذکار الاذکار“ رکھا ہے، نیز اس کی علیحدہ شرح بھی قلم بند کی ہے۔

علامہ محمد بن عمر الحکیمؒ کی (ت ۹۳۰ھ) نے ”الاسرار النبویة فی اختصار الاذکار السنویة“ کے نام سے اس کی تلخیص کی ہے، اور علامہ شہاب الدین الرملیؒ (ت ۸۴۴ھ) نے بھی اس کی تلخیص کی ہے، جو شہرت نہ پاسکی۔ (دیکھئے: کشف الظنون: ۶۸۹۱، وہدیۃ العارفين: ۲۳۰/۲)

اس کتاب کی بعض باریکیوں اور خاص تحقیقات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے جلال الدین سیوطیؒ نے ایک رسالہ ”تحفة الابرار بکت الازکار“ کے نام سے اور شمس الدین محمد بن طولون الدمشقی (ت ۸۵۳ھ) نے ”تحاف الابرار فی نکت الازکار“ کے نام سے تحریر فرمایا ہے۔

(دیکھئے: کشف الظنون: ۶۸۹۱)

تراجم

دنیا کی مختلف زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو کر مقبول خاص و عام ہوا ہے، حاجی خلیفہ فرماتے ہیں کہ: بعض غیر عرب علماء نے اس کا فارسی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا ہے۔

(دیکھئے: کشف الظنون: ۶۸۹۱، وہدیۃ العارفين: ۲۳۰/۲)

ناچیز نے بھی بعض حواشی، مختلف فیہ مسائل میں افادات، اور کچھ نئے عنوانات کے اضافہ اور بعض تحقیقات کے ساتھ اس کا اردو میں ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو اس وقت قارئین کے لئے پیش کی جا رہی ہے۔

اس کتاب میں کل ۷۱ کتاب ۲۳۴ ابواب اور ۲۱۸ فضلیں ہیں۔

اس کتاب کے اخیر میں ایک باب قائم کر کے بے سرو پا مروج اقوال کو امام نوویؒ نے رد کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ لوگ کہنے والوں کی ثقاہت کی وجہ سے دھوکہ کا شکار نہ ہوں۔

امام نوویؒ نے اپنی اس کتاب کو ”مدار اسلام“ سمجھی جانے والی احادیث پہ ختم کیا ہے، جس کی کل تعداد ۳ ہے اور یہ ان کی کتاب ”الاربعین“ سے ماخوذ ہے۔ اللہ ہر مومن کو اس کتاب سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

نثار احمد القاسمی بن مولانا محمد حسیب الدین القاسمی

مقدمہ مولف

وہو حسبی ونعم الوکیل

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو واحد و قہار، عزیز و غفار، تقدیر بنانے والا اور سارے امور میں تصرف کرنے والا ہے، رات کو دن پر گردش کرانے والا اور قلب و بصیرت والوں کے لئے لمحہ فکرم ہے، جس نے اپنی مخلوق میں سے جسے منتخب فرمایا اسے بیدار کر کے نیکوں کے زمرہ میں شامل فرمایا، اور اپنے بندوں میں جسے پسند فرمایا اسے توفیق دے کر مقربین و ابرار میں بنایا، اور جسے پسند فرمایا اسے بصارت عطا فرما کر اس دنیا سے بے رغبت بنایا پھر وہ اس کی رضاء اور دار قرار کی تیاری اور آپ کو ناراض کرنے والے امور سے اجتناب اور جہنم کے عذاب سے پرہیز میں کوشاں ہو گئے، اور اپنے آپ کو صبح و شام، رات و دن، اور مختلف اوقات و احوال میں اللہ کی اطاعت و بندگی اور اس کے ذکر کی پابندی میں سرایا مشغول کر دیا، جس کے نتیجے میں قلوب ضیاء و انوار سے منور ہو گئے۔

ہم اللہ رب ذوالجلال کی اس کی تمام نعمتوں پر بدرجہ کمال حمد و ثناء بیان کرتے ہیں اور مزید فضل و کرم کی درخواست کرتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بزرگ و برتر، قوت و حکمت والا، یکتا و بے عیب ہے، اس کا ہمسر نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کے چنیدہ، محبوب و برگزیدہ خلیل ہیں، تمام مخلوق میں سب سے افضل اور سابقین و لاحقین میں سب سے معزز ہیں، اللہ کا درود و سلام جو ان پر اور سارے انبیاء اور ان کے آل و تمام صالحین پر۔

اما بعد:

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے:

فاذکرونی اذکروکم (البقرہ: ۱۰۳)

تم یاد رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں تم کو۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (الذاریات: ۵۶)

اور میں نے جو بنائے جن اور آدمی سوا اپنی بندگی کو (یعنی بندگی ہی مطلوب

تخلیق ہے)

اس سے پتہ چلا کہ بندہ کی سب سے بہتر حالت، دونوں جہاں کے پروردگار کے ذکر کی حالت اور سید المرسلین رسول اللہ ﷺ سے ماثوراذکار میں مشغول رہنا ہے۔

علماء نے شب و روز کے اذکار و اعمال اور دعاؤں سے متعلق بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، جس کا علم علماء اور واقف کاروں کو بخوبی ہے، مگر یہ سب کی سب سند و تکرار کی وجہ سے طویل ہیں جس کی وجہ سے صاحب طلب اور تشنہ لبوں کی ہمتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، بایں وجہ میں نے طالبین حق اور اذکار و ادوار میں دلچسپی رکھنے والوں کیلئے اسے آسان کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کتاب کی جمع و تدوین شروع کی، تاکہ ان کتابوں میں جو مقاصد مذکور ہیں، وہ بہ اختصار اہل طلب سے قریب و اہل الحصول اور قابل التفات ہو جائے۔

جیسا کہ میں نے اختصار کو ترجیح دینے کی بات کی، اسی کے پیش نظر اکثر مقامات پر سند کو حذف کر دوں گا، اور اس وجہ سے بھی کہ زیر نظر موضوع اہل عبادت کا موضوع ہے، جو اسانید کی معرفت کو نہیں جھانکتے بلکہ تھوڑا بھی ہو تو اسے چند حضرات کے علاوہ عام طور پر ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا مقصد اذکار و ادعیہ کی معرفت اور اس پر عمل کرنا ہے اور سالک کیلئے مقام عمل کی وضاحت کرنا ہے، نہ کہ رجال کے موضوع میں غور و خاص کرنا۔ اسانید کے بدلے ہم اس میں انشاء اللہ وہ چیز ذکر کریں گے جو اس سے کہیں زیادہ اہم اور

ضروری ہے، یعنی حدیث کی صحت و حسن اور ضعف و زکارت کی نشاندہی، یہ ایسی باتیں ہیں جس کی معرفت کا ہر کوئی محتاج ہے، سوائے چند شاذ و نادر محدثین کے، یہ ان امور میں سب سے اہم ہے، جس پر توجہ دینا ضروری ہے، اور جسے طلباء، معتمدانہ، ماہرین اور پختہ حفاظ حدیث اپنے سطح نظر سے اُسے پرکھ سکتے ہیں۔

اس کے ساتھ ہم علم حدیث کے کچھ نفیس اقتباسات، فقہ کے دقائق اور اس کی باریکیاں، اہم قواعد، ریاضت نفس اور ان آداب کو اس میں انشاء اللہ شامل کریں گے جس کی معرفت سالک کیلئے ضروری ہے، ہم اس کے اندر جو بھی ذکر کریں گے اسے بالکل واضح انداز میں ذکر کریں گے تاکہ ہر عوام و خواص اور ذی فہم و ذی ہوش کیلئے اس کا سمجھنا آسان رہے۔

(۱) صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجر من تبعہ

لا ینقص ذلک من اجرہم شیئا“

(مسلم حدیث نمبر: ۲۶۷۴)

جس نے کسی ہدایت کی دعوت دی تو اس کیلئے اتنا ہی اجر و ثواب

ہے جتنا اس کی پیروی کرنے والے کے لئے اس کے اجر میں ذرہ برابر

کمی نہیں کی جائیگی۔

چنانچہ ہم نے خیر کی راہ کو آسان بنا کر اور اس کی وضاحت، نشاندہی و رہنمائی کے ذریعہ

اہل خیر کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔

اس کتاب کے شرع میں ہم چند اہم فصلوں کا ذکر کریں گے جس کی ضرورت ہر مطالعہ

کرنے والوں اور اس کی تڑپ رکھنے والوں کو ہوگی، خواہ وہ اس کتاب کا مستقل قاری ہو یا کوئی اور۔

چونکہ صحابہ میں بعض ایسی شخصیات بھی ہیں جو غیر اہل علم اور عوام الناس میں مشہور نہیں ہیں

لہذا ان کا ذکر کرتے وقت ان کے صحابہ ہونے کی صراحت کرتے ہوئے ”رویسنا عن فلان

الصحابی“ کے ذریعہ ان کے صحابی ہونے کی طرف اشارہ کر دینگے تاکہ ان کے صحابی ہونے میں

کسی کو شک باقی نہ رہے۔

اس کتاب کے اندر ہم عموماً انہی احادیث پر اکتفاء کریں گے جو اسلام کی مشہور پانچ بنیادی کتابوں میں وارد ہوئی ہیں، مثلاً صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، سنن نسائی، اسکے علاوہ دیگر مشہور کتب حدیث سے بھی قدرے نقل کریں گے۔ ہاں مسانید و اجزاء سے بالکل تھوڑا شاذ و نادر ہی کسی خاص مقام پر ضرورت کے مد نظر کریں گے اور ان پانچوں بنیادی کتابوں میں سے بھی ضعیف روایتوں کو حتی الامکان نقل کرنے سے احتراز کریں گے، البتہ کہیں کہیں اس کے ضعف کی وضاحت و صراحت کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں ورنہ عموماً اس کے اندر صحیح روایات ہی ذکر کرنے کا التزام رکھیں گے۔ اسی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب قابل اعتماد اور اصل و بنیاد کا درجہ پائے گی۔ نیز کسی بھی باب میں ہم صرف ایسی ہی روایت ذکر کریں گے جس کی دلالت اس باب کے مسئلہ پر واضح و ظاہر ہو۔

اللہ رب کریم سے توفیق و امانت، اعانت و ہدایت، حفاظت و صیانت، نصرت و دستگیری اور اس کا خیر کو آسان کرنے کی درخواست کرتا ہوں، جس کی انجام دہی اس وقت میرا مقصود و مطلوب ہے، اور دعاء کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ اپنے تمام انعامات کو میرے ساتھ دوام بخشے اور اپنی بنائی ہوئی جنت میں جو کہ اعزاز اور ہر خوشی و انعام کا مقام ہے، احباب کے ساتھ یکجا کرے۔

اللہ ہی میرے لئے کافی و بہتر کارساز ہے، ساری طاقت و قوت اسی سے ہے جو قدرت و حکمت والا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے، ساری قدرت و طاقت اللہ ہی کے لئے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا، اسی کا سہارا لیتا، اسی سے مدد مانگتا، اور اپنے امور و معاملات اسی کے سپرد کرتا ہوں، اپنا دین، اپنی جان و مال، اپنے والدین برادران و احباب اور تمام محسنین و تمام مسلمانوں اور جس نے بھی مجھ پر یا ان حضرات پر دین و دنیا کی بھلائی یا احسان کیا سبھوں کو ان کی امانت میں دیتا اور ان کی حفاظت کے سپرد کرتا ہوں، پاک ہے وہ ذات کہ جب اس کی امانت میں کوئی چیز دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور بڑا ہی خوب حفاظت کرنے والا ہے۔

فصل - ۱ اخلاص اور حسن نیت:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء (البينة : ۵)
اور ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے، اس کے واسطے
بندگی، ابراہیم کی راہ پر۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم
(الحج : ۳۷)

اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا لہو لیکن اس کو پہنچتا ہے
تمہارے دل کا ادب۔

اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم ”ینالہ النیات“ یعنی
اللہ کو تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں۔

(۲) حضرت عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى فمن
كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله

،ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينجكها
 فهجرته الى ما هاجر اليه“ (متفق عليه)
 عمل کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کیلئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی،
 لہذا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کیا تو اس کی ہجرت
 اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا پانے کی یا
 دوشیزہ سے نکاح کرنے کے لئے ہے تو اس کی ہجرت اسی کیلئے ہے
 جس کے لئے اس نے ہجرت کیا۔

(دیکھئے: بخاری، باب بدأ کوئی حدیث نمبر ۵۴، مسلم، حدیث نمبر ۱۹۰، ابوداؤد حدیث نمبر ۴۳۰ ترمذی حدیث

نمبر ۱۶۳، نسائی حدیث نمبر ۷۵)

یہ حدیث صحیح ہے اس کی صحت پر تمام محدثین کا اتفاق ہے اس کی جلالت شان اور عظمت
 مکان پر ہمارا جماع ہے، اور یہ ان احادیث میں سے ایک ہے جس پر دین اسلام کا مدار ہے۔
 مطالعہ کرنے والوں کی اور درس و تدریس میں انہماک رکھنے والوں کو حسن نیت کی تشبیہ
 کرنے، اس پر توجیہ دینے اور اس کا اہتمام کرنے کے خاطر سلف صالحین اور ان کے بعد کے
 تابعین اپنی تصانیف کی ابتداء اس حدیث سے کرنے کو پسند فرماتے تھے۔

امام ابوسعید عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کتاب
 تصنیف کرنا چاہے، اسے چاہئے کہ اس کی شروعات اس حدیث سے کرے۔

امام ابوسلیمان خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہ ہمارے متقدمین شیوخ الاعمال بالذیہ، والی
 حدیث کو امور دین میں اس کی عام حاجت کے پیش نظر ہر اس دینی امور پر مقدم رکھنا پسند کرتے
 تھے، جس کی ابتداء و افتتاح کیا جا رہا ہو۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ”انسان نیت کے بقدر محفوظ
 رکھا جاتا ہے“، دوسروں کا قول ہے کہ ”لوگوں کو اسکی نیتوں کے بقدر عطاء کیا جاتا ہے“

جلیل القدر محدث حضرت ابوعلی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں

کہ ”لوگوں کی وجہ سے عمل کا ترک کرنا ریا کاری ہے، اور لوگوں کی خاطر عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص یہ ہے کہ ان دونوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔“

امام حارث سبی فرماتے ہیں:

صادق (سچا) وہ ہے جو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو کہ لوگوں کے دلوں میں جو اس کی قدر ہے وہ نکل جائے، اور وہ پسند نہ کرے کہ اس کے حسن عمل کے ادنیٰ جزء پر بھی لوگ مطلع ہوں، اور اس بات کو ناپسند نہ کرے کہ لوگ اس کے برے عمل سے واقف ہو جائیں۔

حدیث عرفی رحمہ اللہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں:

اخلاص یہ ہے کہ بندے کے اعمال ظاہر و باطن میں یکساں ہوں۔ امام وقت استاذ ابوالقاسم القشیری رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: اخلاص نام ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی بالقد طاعت میں یکتا جانے کا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی اطاعت سے محض اللہ کے تقرب کا طالب ہو نہ کہ کسی اور چیز کا، مثلاً مخلوق کیلئے تصنع کرنا، یا لوگوں میں تعریف کئے جانے کی خواہش، یا مخلوق کی طرف سے مدح سرائی کا داعیہ، یا اس طرح کے دیگر تقرب الی اللہ کے مغایر مفہوم و مطالب۔“

جلیل القدر عالم و بزرگ ابو محمد بہل بن عبد اللہ التستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اصحاب فہم و فراست نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں غور و فکر کیا مگر اس کے سوا انہوں نے اور کچھ نہیں پایا کہ بندے کا حرکت و سکون، ظاہر و باطن اور ہر شئی صرف اللہ کیلئے ہو جس میں نفس، خواہشات، اور دنیا داری کا شائبہ اور اس کی ملاوٹ نہ ہو“

علامہ ابو علی الدقاق علیہ الرحمۃ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں:

مخلوق کا دکھاوے سے پرہیز کا نام اخلاص اور نفس کی پیروی سے صفائی کا نام صدق (سچائی) ہے، لہذا مخلص کیلئے دکھاوہ نام کی کوئی چیز نہیں اور صادق کے لئے خود پسندی نہیں۔

ذوالنون مصری علیہ الرحمہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ:

”تین چیزیں اخلاص کی علامت ہیں، عام لوگوں کے مدح و ذم (انچھائی یا یرائی) یا تعریف و

خدمت کا برابر ہونا، اعمال میں ریا کاری کو فراموش کر دینا، اور عمل کے ثواب کا آخرت میں طالب ہونا،
 امام تشریحی علیہ الرحمہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں، صدق کا کمتر درجہ ظاہر و باطن کا برابر
 ہونا ہے۔

ابو محمد اہل البستری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ”اس بندے کو صدق کی بو نہیں لگی جس نے
 نفس وغیرہ کی خواہش کا احترام کیا“
 اس سلسلہ میں بی شمار اقوال ہیں، میں نے اس جگہ جو ذکر کر دیا، اہل توفیق کیلئے وہی کافی ہے۔

فصل - ۲

فضائل اعمال کا علم حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا:

یاد رکھیں کہ جسے فضائل اعمال کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے اسے چاہئے کہ اس پر
 عمل کرے خواہ ایک ہی بار کیوں نہ ہو، تاکہ وہ اس پر عمل کرنے والا شمار کر لیا جائے، اس کیلئے
 مناسب نہیں کہ اسے مطلق نظر انداز کر دے بلکہ جس قدر میر ہو، اسے بجالائے، کیونکہ نبی کریم ﷺ
 سے ایک ایسی حدیث منقول ہے جس کی صحت پر تمام محدثین متفق و متحد ہیں،
 ۳- نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اذا امرتکم بشئى فاتوا منه ما استطعتم“

جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اسے حتی المقدور بجالاؤ۔

(دیکھیں: صحیح بخاری، حدیث نمبر ۲۸۸۸ عن ابی ہریرۃ)

فصل - ۳

ضعیف حدیث پر عمل کرنے کا حکم:

فقہاء و محدثین اور دیگر اہل علم کی رائے ہے کہ ضعیف حدیث اگر موضوع نہ ہو تو فضائل
 اور ترغیب و ترہیب میں اس پر عمل کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، البتہ احکام مثلاً حلال و حرام بیع
 و شرا، نکاح و طلاق وغیرہ میں صرف حدیث صحیح یا حدیث حسن ہی پر عمل کیا جا سکتا ہے، الا اینکه اس

میں کسی طرح کا احتیاط ملحوظ ہو، مثلاً کوئی ضعیف حدیث کسی بیچ یا نکاح کی کراہت کے بارے میں وارد ہوئی ہو تو مستحب ہے کہ انسان اس سے پرہیز کرے مگر ایسا کرنا واجب نہیں۔

اس فصل کا ذکر میں نے محض اس وجہ سے کر دیا کہ زیر نظر کتاب میں احادیث پیش کی جائیگی اور میں اس کی صحت و حسن و ضعف و نکارت کی وضاحت و نشاندہی کرنے کا التزام رکھوں گا، الا اینکه ذہول یا نسیان کی وجہ سے اس کی طرف اشارہ کیئے بغیر میں آگے بڑھ جاؤں اور اس گوشہ پر خاموشی اختیار کرے رہوں، انہی وجوہات کے پیش نظر میری خواہش ہوئی کہ کتاب کے شروع ہی میں ان قواعد کو ذہن نشین کر لیا جائے تاکہ مطالعہ کے وقت ذہن یکسو رہے۔

فصل ۴۔

حلقہ ذکر میں بیٹھنے کی فضیلت:

یاد رکھیں کہ جس طرح ذکر کرنا مستحب ہے اسی طرح ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنا بھی مستحب ہے، اس کی دلیل واضح و بیشار ہیں، انشاء اللہ وہ اپنی جگہ آئیں گی، اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی وہ حدیث کافی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

۴۔ اذا مسرتهم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة

يارسول الله؟ قال: حلق الذكر فان لله تعالى سيارات من

الملائكة يطلبون حلق الذكر فاذا اتوا عليهم حَقَّقوهم

جب تم ریاض الجنہ (جنت کی کیاری) سے گذرو تو چُک لیا کرو،

لوگوں سے دریافت کا، یہ ریاض الجنہ کیا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ

نے ارشاد فرمایا، یہ حلقہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے گردش کرنے

والے فرشتے ہیں، جو حلقہ ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اور جب وہاں

پہنچتے ہیں تو انہیں ڈھک لیتے ہیں۔

(دیکھئے ترمذی حدیث نمبر ۳۵۱، مسند احمد ۱۵۰/۳، البر ۱۶۳/۱، الکام ۴۹۲)

۵- صحیح مسلم میں حضرت معاویہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من اصحابه، فقال: ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، قال: آ الله ما اجلسكم الا ذاك؟ اما اني لم استحلفكم تهمة لكم ولكنه اتانى جبريل فاخبرني ان الله تعالى يباهي بكم الملائكة“

نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ کے ایک حلقہ کے پاس نکل کر آئے اور فرمایا تمہیں کس چیز نے بیٹھا رکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور اس کے ذریعہ ہم پر احسان فرمایا، اس پر ہم اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کیا اللہ کی قسم تمہیں صرف اسی چیز نے بیٹھا رکھا ہے؟ تمہیں مہتمم کرنے کی غرض سے میں نے قسم نہیں لیا بلکہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تم سے فخر فرماتے ہیں۔

(دیکھئے صحیح مسلم حدیث ۲۷۰۱)

۶- اور صحیح مسلم ہی کے اندر حضرت ابوسعید خدریؓ و ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى الا حفتهم الملائكة و غشيتهم الرحمة و نزلت عليهم السكينة و ذكرهم الله تعالى فيمن عنده“

”کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نہیں بیٹھتی مگر یہ کہ فرشتے انہیں ڈھانک لیتے، رحمت انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی اور ان پر سکون

نازل ہوتا ہے اور اللہ اس کا ذکر اپنے پاس والوں (فرشتوں) میں کرتے ہیں“
(دیکھئے صحیح مسلم حدیث ۲۷۰۰)

فصل-۵

ذکر کی کیفیت

ذکر قلب سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی، افضل وہ ہے جو قلب و زبان دونوں سے ہو اور اگر اندونوں میں سے ایک پر اکتفاء کرنا چاہے تو قلب پر اکتفاء کرنا افضل ہے۔ اور قلب کے ساتھ زبان کے ذریعہ ذکر کو ترک کرنا اس خطرہ سے کہ لوگ ریا کاری کا گمان کریں گے مناسب نہیں، بلکہ قلب و زبان دونوں سے ذکر کرے اور صرف ذات باری تعالیٰ کا ارادہ و قصد کرے، فضیل بن عیاض کا قول ہم پہلے نقل کر چکے ہیں کہ ”لوگوں کی خاطر عمل کا ترک کرنا بذات خود ریا کاری ہے۔“

اگر انسان اپنے اوپر لوگوں کے دیکھنے اور ان کے باطل گمانوں کے پیدا ہونے سے احتراز کا دروازہ کھول دے تو نیکی کے بہت سے دروازے اس پر بند ہو جائیں گے اور وہ دین کے بہت سے اہم امور کا بڑا حصہ ضائع کر دیگا اور یہ عارفین کا طریقہ نہیں ہے۔

۷۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت:

”لا تجہر بصلاتک و لاتخافت بها“ (الاسراء ۱۱۰)

”اور اپنی نماز پکار کر مت پڑھ اور نہ چپکے پڑھ“ دعاء کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

فصل-۶

عبادت بھی ذکر ہے

یاد رکھیں کہ ذکر کی فضیلت صرف تسبیح و تہلیل، تہمید و تکبیر وغیرہ ہی میں منحصر نہیں، بلکہ اللہ کے لئے ہر عمل کرنے والا اس کا ذکر کرنے والا ہے۔

حضرت سعید بن جبیر و دیگر علماء سے اسی طرح منقول ہے، حضرت عطاء فرماتے ہیں:

”مجالس ذکر حلال و حرام کی مجلسیں ہیں کہ کس طرح خرید و فروخت کیا جائے اور کس طرح نماز روزہ، نکاح و طلاق اور حج وغیرہ دیگر فرائض و واجبات ادا کئے جائیں۔“

فصل - ۷

ذکر کے فضائل:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”ان المسلمین و المسلمات، الی قوله تعالیٰ: و الذاکرین

اللہ کثیرا و الذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة و اجرا عظیما“

”تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اور یاد کرنے والے مرد

اللہ کو بہت زیادہ اور یاد کرنے والی عورتیں رکھی ہیں اللہ نے ان کے

واسطے معافی اور بڑا ثواب“

۸- صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”سبق المفردون، قالوا: وما المفردون یا رسول اللہ ﷺ

قال: الذاکرون اللہ کثیرا و الذاکرات“

”مفردین سبقت لے گئے، صحابہ نے عرض کیا یہ مفردین کون ہیں؟“

آپ نے فرمایا: اللہ کا خوب خوب ذکر کرنے والے مرد و عورت“

(دیکھیے: صحیح مسلم حدیث نمبر ۳۷۷۶)

یاد رکھیں کہ مذکورہ آیت کریمہ کی معرفت کا اہتمام اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ہر قاری

کتاب کو کرنی چاہئے۔

اس آیت کی تفسیر اور مقدار ذکر میں علماء کا کافی اختلاف ہے، امام ابوالحسن الواحدی

فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن عباسؓ کا قول ہے کہ اس کی مراد نمازوں کے بعد صبح و شام، سوتے

جاگتے، گھر سے نکلتے اور مختلف احوال میں اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ایسا کرنے والا ذاکر ہے۔

اور مجاہد فرماتے ہیں کہ انسان ذاکرین میں تب ہی ہو سکتا ہے جب کہ وہ حالت قیام و قعود، لیٹنے اور چلنے جیسی تمام حالتوں میں اللہ کا ذکر کرے۔

عطاء فرماتے ہیں کہ جس نے پانچوں وقت کی نماز کا حقہ ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے قول:

”الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات“ میں داخل ہے، اسے الواحدی نے نقل کیا ہے۔

۹- حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إذا يقظ الرجل اهله من الليل فصليا او صلي ركعتين

جميعا كتبنا في الذاکرين اللہ کثیرا“

”جب کوئی اپنے اہل خانہ کو رات میں بیدار کرے پھر دونوں

نماز پڑھیں تو انہیں بکثرت اللہ کو یاد کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے“

یہ مشہور حدیث ہے جسے ابو داؤد، نسائی و ابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔

(دیکھئے: ابوداؤد ۱۳۰۹، ترمذی ۳۹۶۵، بحوالہ سنن کبریٰ للنسائی، ابن ماجہ ۱۳۳۵)

امام ابو عمرو بن صلاحؒ سے اس مقدار کے بارے میں دریافت کیا گیا جس سے مؤمن کا

شمار ”الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات“ میں ہونے لگے تو آپ نے فرمایا: جب انسان ان

ماثورا ذکر کی پابندی کرے جو صبح و شام اور شب و روز کے مختلف احوال و اوقات میں کہنے کے لئے

ثابت ہیں (اور جو ”عمل الیوم واللیلہ“ میں مذکور ہیں) تو وہ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں

شامل و داخل ہے۔ واللہ اعلم

فصل - ۸

ناپاکی کی حالت میں ذکر کا حکم

حدیث و جنابت یا حیض و نفاس میں مبتلا مرد و عورت کے لئے قلب و زبان سے ذکر کے

جواز پر علماء کا اجماع ہے اور یہی حکم تسبیح و تہلیل، تمجید و تکبیر اور نبی کریم ﷺ پر درود و سلام بھیجنے یا دعاء

وغیرہ کرنے کا ہے، مگر قرآن کی تلاوت حالت حیض و نفاس یا حالت جنابت میں تھوڑا ہوا یا زیادہ،

آیت کا کچھ حصہ ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے البتہ تلفظ کے بغیر قلب پر قرآن کا اجراء یا قرآن پر نظر ڈالنا اور اسے دل میں اتارنا جائز ہے۔

ہمارے علماء شوافع فرماتے ہیں: جنبی یا حائضہ کے لئے مصیبت کے وقت ”اَنَا لِلّٰهِ وَ اَنَا اِلَيْهِ راجعون“ کہنا اور سواری پر سوار ہوتے وقت ”سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين“ کہنا اور دعاء کرتے ہوئے ”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ کہنا اگر اس سے قرآن کی تلاوت مقصود نہ ہو تو جائز ہے۔ اور جنبی و حائضہ کے لئے ”بِسْمِ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ“ کہنا بھی جائز و درست ہے بشرطیکہ تلاوت قرآن مقصود نہ، ذکر خواہ قصداً ہو یا بلا قصد، گنہگار اسی وقت ہوگا جب کہ مقصود تلاوت قرآن ہونہ کہ ذکر و دعاء۔

ایسی قرآنی آیات جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، اس کی قراءت جائز ہے، مثلاً ”الشیخ و الشیخة اذا زنيا فارجموهما“۔

اگر کسی انسان سے کہا جائے: ”خذ الكتاب بقوة“ (کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو) یا کہا جائے: ”ادخلوها بسلام آمنين“ (امن و سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ) یا اسی جیسے کلمات اگر قراءت قرآن مقصود نہ ہو تو حرام نہیں ہوگا۔

اگر پانی میسر نہ ہو تو یہ دونوں جنابت و حیض سے پاکی حاصل کرنے کے لئے تیمم کریں، اس تیمم کے بعد قراءت قرآن ان کے لئے جائز ہو جائے گا اس کے بعد اگر اسے حدث لاحق ہو جائے تو اس پر قرآن کی تلاوت حرام نہیں ہوگی جس طرح کہ غسل کے بعد حدث لاحق ہونے سے تلاوت حرام نہیں ہوتی، الغرض اس کا تیمم غسل کے قائم مقام ہوگا اور ہر وہ چیز جو غسل کے بعد حلال و مباح ہو جاتی ہے اس تیمم سے حلال ہو جائے گی۔ اس میں کوئی فرق نہیں کہ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے تیمم سفر میں کیا رہا ہے یا حضر میں، تیمم کر لینے کے بعد اس کیلئے قراءت درست و جائز ہے اگرچہ اس کے بعد حدث لاحق ہو جائے۔

ہمارے بعض علماء شوافع فرماتے ہیں کہ ”اگر یہ تیمم حضر و اقامت میں ہے تو اس سے صرف نماز اور نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نماز سے باہر اس کی تلاوت جائز نہیں۔“

لیکن صحیح قول کے مطابق ہر حال میں اس کا جواز ہے، خواہ نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر کیونکہ ماسبق کی تصریح کے مطابق تیمم غسل کے قائم مقام ہے۔

اگر جنبی نے تیمم کیا پھر پانی مل گیا، تو اس وقت پانی کا استعمال اس پر لازم ہوگا، قراءت اور وہ تمام چیزیں جو جنبی پر حرام ہیں اسوقت تک حرام رہیں گی، جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، اور اگر تیمم کر کے نماز پڑھا اور قراءت کیا پھر کسی حدیث کی وجہ سے یا کسی فریضہ کی ادائیگی کیلئے تو حرام نہ ہوگی، یہی صحیح و پسندیدہ مذہب ہے، اس میں ہمارے علماء شوافع کا ایک قول حرام ہونے کا بھی ہے، مگر وہ قول ضعیف ہے۔

اگر جنبی کو نہ پانی مل سکے نہ مٹی تو وہ احترام وقت کی خاطر حسب حال نماز پڑھ لے، مگر نماز سے باہر اس کے لئے قرآن کی تلاوت حرام رہے گی اور نماز میں بھی سورہ فاتحہ سے زیادہ کی تلاوت اس پر حرام ہوگی۔

البتہ سورہ فاتحہ کی تلاوت حرام ہے یا نہیں؟ اس میں دو قول ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ حرام نہیں، بلکہ واجب ہے، کیونکہ (مسلک شافعی میں) اس کے بغیر نماز درست نہیں، اور جس طرح ضرورت کی وجہ سے نماز جائز ہے، اسی طرح ضرورت کی وجہ سے اس کی قراءت بھی جائز ہوگی۔ یہ چند فرعی مسائل ہیں، ذکر سے متعلق ہونے کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا اختصار کیسا تھ تذکرہ کر دوں، ورنہ تو اس کی بحث طویل اور دلائل بیشمار ہیں جو کتب فقہ میں تفصیل سے مذکور ہیں، واللہ اعلم۔

فصل - ۹

ذکر کے آداب

ذکر کرنے والوں کے لئے مناسب ہے کہ وہ مکمل اوصاف حمیدہ کا حامل ہو، لہذا اگر وہ کسی جگہ بیٹھا ہے تو اسے چاہئے کہ قبلہ کا استقبال کرے۔ اور عایت درجہ خشوع و خضوع، عاجزی، و انکساری، اطمینان و وقار کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے، اور اگر اس حالت کے برعکس ذکر کرتا ہے تو بلا کراہت

درست ہے، البتہ اگر کسی عذر کے بغیر ہے تو ایک افضل کو ترک کرنے والا ہوگا، عدم کراہت کی دلیل باری تعالیٰ کا یہ اشارہ ہے :

ان فی خلق السموات و الارض و اختلف الليل و النهار لآیات لا ولی الا للباب
الذین یدکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبہم ، ویتفکرون فی خلق السموت
والارض ” (ال عمران ۱۹۰-۱۹۱)

” بیشک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کو وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔

(۱) صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں:

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئی فی
حجرى وانا حائض فیکرأ القرآن

(دیکھئے: بخاری، حدیث نمبر ۲۹۷۷، مسلم: ۳۰۱)

کہ رسول اللہ ﷺ میری گود میں ٹیک لگائے ہوتے جبکہ میں حیض سے
ہوتی، پھر آپ ﷺ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول بھی مروی ہے۔

انى لاقرا حزبی وانا مضطجعة علی السبریر
میں اپنا وظیفہ پڑھتی حالانکہ میں چار پائی پر لیٹی ہوتی تھی۔

فصل - ۱۰

مقام ذکر

مناسب ہے کہ ذکر کی جگہ پاک و صاف اور وسوساں پیدا کرنے والی چیزوں سے خالی ہو،

کیونکہ ذکر اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے احترام و آداب کیلئے یہ بہت اہم اور ضروری ہے،

اسی وجہ سے مساجد اور اچھے مقامات پر بیٹھ کر ذکر کرنے کی تشہین کی گئی ہے۔

امام ابو میسرہ رحمہ اللہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ”اللہ کا ذکر پاک و صاف جگہوں پر ہی کیا جانا چاہئے“

یہ بھی مناسب ہے کہ منہ پاک و صاف ہو، اگر اس میں تغیر پیدا ہو گیا ہو تو مسواک کے ذریعہ اس کا ازالہ کر کے صاف کر لے اور اگر اس میں نجاست ہو تو پانی سے دھو کر اسے پاک کر لے اور اگر دھوئے بغیر ذکر کرتا ہے تو مکروہ ہوگا۔ حرام نہیں ہوگا۔ منہ کی ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت مکروہ ہے، اس کے حرام ہونے میں علماء کا دو قول ہے اور صحیح قول حرام نہ ہونے کا ہے۔

فصل - ۱۱

بعض حالتوں میں ذکر کی کراہت:

یاد رکھیں کہ ذکر تمام حالتوں میں محبوب و پسندیدہ عمل ہے سوائے ان حالتوں کے جس کے استثناء کے بارے میں شریعت وارد ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لئے بیٹھے ہونے کی حالت میں، جماع کی حالت میں، خطبہ کے وقت اس کو سننے والے کے حق میں نماز کے لئے قیام کی حالت میں، یہ مکروہ ہے، نماز کے لئے اٹھنے کے وقت قراءت میں مشغول رہنا یا اونگھ آتے وقت اللہ کا ذکر کرنا مکروہ ہے۔ راستہ چلتے ہوئے یا غسل خانہ کے اندر ذکر الہی مکروہ نہیں ہے مکروہ بیت الخلاء میں ہے، واللہ اعلم۔

فصل - ۱۲

ذکر کے وقت حضور قلب:

ذکر حضور قلب سے ہو، مناسب ہے کہ ذکر کرنیوالے کا یہی مقصود رہے اور اس کو حاصل کرنے کی خواہش رکھے اور جس کا ذکر کر رہا ہے، اس پر غور و فکر کرے، اور اس کے مفہوم کو سمجھے، ذکر کے اندر تذبذب اور غور و فکر اسی طرح ضروری ہے جس طرح قراءت میں، کیونکہ معنی مقصود میں یہ دونوں مشترک ہے، اسی لئے ”لا الہ الا اللہ“ کو مد کے ساتھ کھینچ کر ادا کرنا صحیح و مختار مذہب

میں ذاکر کے لئے مستحب ہے، کیونکہ اس سے تدریجاً حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں سلف صالحین و ائمہ خلف کے اقوال مشہور و معروف ہیں، واللہ اعلم

فصل: ۱۳

ذکر کی قضاء:

اگر کسی شخص نے رات کے کسی حصہ میں یا نماز کے بعد یا کسی بھی وقت ذکر کا کوئی وظیفہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ چھوٹ جائے تو اسے چاہئے کہ اس کی پابجائی جب بھی موقع ملے کر لے، اور ڈھیل دے کر اسے مت چھوڑ دے، کیونکہ اگر وہ اس کی پابندی کا عادی ہو جائیگا تو اسے فوت نہیں ہونے دیگا اور اگر اس کی ادائیگی میں سستی کریگا تو اس کے لئے اوقات کا فوت ہونا آسان ہو جائیگا۔

۱۱- صحیح مسلم میں حضرت عمر بن الخطابؓ سے ثابت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من نام عن حزیبه او عن شیئی منه ففقرأه ما بین صلاة الفجر

و صلاة الظهر كتب له كانما قرأه من اللیل

(دیکھئے صحیح مسلم: ۷۴۷)

”جو شخص اپنے مقررہ وظیفہ یا اس کے کچھ حصہ سے غافل ہو کر سو جائے

پھر نماز فجر و ظہر کے درمیان اسے پڑھ لے تو اس کیلئے لکھ دیا جاتا ہے

کہ گویا اس نے رات ہی میں اسے پڑھا ہے۔“

فصل: ۱۴

وہ عوارض جو ذکر کرنے والوں کو پیش آتے ہیں:

یہ فصل ان حالات کے بارے میں ہے جو ذکر کو پیش آتے ہیں، اگر ذکر کر نیوالوں کو یہ

حالات پیش آجائیں تو مستحب ہے کہ وہ ذکر کو اس کی وجہ سے موقوف کر دے اور اسکے ختم ہونے

کے بعد پھر ذکر کی طرف لوٹ آئے مثلاً اگر اسے کوئی سلام کرے تو وہ سلام کا جواب دے پھر ذکر میں مشغول ہو جائے، یا اس کے پاس اگر کوئی چھینکے تو وہ اس کے چھینک کا جواب دے پھر ذکر میں مشغول ہو جائے، یا خطیب کو جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے سنے، یا مؤذن کو اذان یا اقامت کہتے ہوئے سنے تو اس کا جواب دے پھر ذکر کی طرف رجوع کرے، اسی طرح اگر کوئی منکر دیکھے تو اسے دور کرے، یا کوئی معروف نظر آئے تو اس کی رہنمائی کرے، یا کسی دریافت کرنیوالے کو پائے تو اس کا جواب دے پھر ذکر کی طرف رجوع کرے، اسی طرح اگر نیند کا غلبہ ہو یا اس جیسا کوئی اور عارضہ ہو تو ذکر کو موقوف کر دے۔

فصل - ۱۵

ذکر کو الفاظ سے ادا کرنے کا حکم:

نماز یا غیر نماز کا مشروع ذکر خواہ واجب ہو یا مستحب اس کا شمار تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا تلفظ، اس طرح نہ کرے کہ کم از کم خود سن سکے، بشرطیکہ اس کی سماعت درست ہو اور اس میں کوئی خلل نہ ہو۔

فصل - ۱۶

ذکر سے متعلق کتابیں:

یاد رکھیں کہ ائمہ کرام کی ایک جماعت نے شب و روز کے اعمال و اوراد سے متعلق اچھی اچھی کتابیں تحریر کی ہیں، جس میں انہوں نے متصل اسانید اور کثرت طرق سے مرویات کو جمع کیا ہے، ان میں سب سے بہتر امام ابو عبد الرحمن النسائی کی ”عمل الیوم واللیلہ“ اور اس سے بھی نفیس و بہتر اور سود مند امام ابو بکر احمد بن حمد بن اسحاق السنی کی کتاب ”عمل الیوم واللیلہ“ ہے، ابن سنی کی کتاب ”عمل الیوم واللیلہ“ کی سماعت ہمیں اس سند سے حاصل ہوئی ہے، قد سمعت انا جمیع کتاب ابن السنی علی شیخنا الامام الحافظ ابی البقاء، خالد بن یوسف بن سعد بن الحسنی رضی اللہ عنہ، قال: اخبرنا الامام العلامة ابو الیمن زید بن

الحسن بن زید بن الحسن الکندی سنة اثنتين و ستمائة، قال : اخبرنا الشيخ الامام ابو الحسن سعد الخیر محمد ابن سهل الانصارى، قال : اخبرنا الشيخ الامام ابو محمد عبد الرحمن بن سعد بن احمد بن الحسن الدونى، قال : اخبرنا القاضى ابو نصر احمد بن الحسين بن محمد بن الكسارى الدينورى، قال : اخبرنا الشيخ ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق السنى رضى الله عنه .

اس جگہ میں نے یہ سند اس لئے ذکر کر دیا کہ ابن سنی کی اس کتاب میں سے میں انشاء اللہ بہت سے اقتباسات نقل کرونگا، اس لئے اس کتاب کی سند کو پہلے بیان کر دینا بہتر سمجھا کیونکہ ائمہ حدیث وغیرہم کے نزدیک سند کا اظہار بہتر و مستحسن عمل ہے اس کتاب کی سند کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کتاب اس فن میں سب سے جامع و مکمل ہے، ورنہ تو میں جو بھی اس مجموعہ میں ذکر کرونگا اس کی روایت ہمیں بجد اللہ شاذ و نادر کے علاوہ سب کی سب سند صحیح، و سماع متصل سے ہی حاصل ہوئی ہے جسے میں ان کتابوں سے نقل کرونگا جو اسلام کی بنیادی کتابیں ہیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم سنن ابی داؤد سنن ترمذی، سنن نسائی، بعض وہ بھی ہیں جو دیگر مسانید و سنن جیسی کتابوں سے میں نقل کرونگا جیسے مؤطا امام مالک، مسند احمد بن حنبل، مسند ابی عوانہ، سنن ابن ماجہ والدارقطنی والبیہقی، وغیرہ دیگر کتب حدیث۔

اور کچھ اجزاء سے بھی نقل کر سکتا ہوں جسے آپ انشاء اللہ آگے دیکھیں گے، ان تمام مرویات کو ہم نے بسند متصل و صحیح ان کے مؤلفین سے روایت کی ہے، واللہ اعلم۔

فصل - ۱۷

اصل مراجع مشہور کتب سہ ہی ہیں :

یاد رکھیں کہ ہم اس کتاب میں جو بھی حدیث ذکر کریں گے اسے ان مشہور و غیر مشہور کتب حدیث سے نقل کریں گے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، پھر جو حدیث صحیحین کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی ہوگی اس میں صرف اس کے انتساب پر اکتفاء کریں گے، کیونکہ مقصود یعنی اس کی

صحت کا علم اسی سے حاصل ہو جاتا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ ان دونوں کے اندر مذکور تمام احادیث صحیح ہیں۔

البتہ وہ احادیث جو ان دونوں کتابوں کے علاوہ کی ہیں تو ہم اس کی نسبت ان کتب سنن اور اس کے مشابہ دیگر کتب کی طرف عموماً، اس کی صحت، حسن اور ضعف، اگر اس میں ضعف پایا جاتا ہو تو، کی وضاحت کے ساتھ کریں گے، اور بسا اوقات اس کی صحت و حسن و ضعف کے بیان میں ہم سے بھول بھی ہو سکتی ہے۔

یاد رکھیں کہ جن کتب حدیث سے ہم نقل کریں گے اس کا بڑا حصہ سنن ابوداؤد سے ہوگا، اور امام ابوداؤد کا قول ہے :

”میں نے اپنی کتاب میں صحیح حدیث، اس کے مشابہ اور اس سے قریب ترین حدیث کو ہی جگہ دی ہے اور جس کے اندر شدید قسم کا ضعف ہے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور جس کے بارے میں میں نے سکوت اختیار کیا اور کچھ وضاحت نہیں کی تو وہ درست و صحیح ہے، اور صحت کے اعتبار سے بعض حدیث بعض سے زیادہ صحیح ہیں، یہ امام ابوداؤد کا قول ہے۔“

اس کتاب کے فوائد غیر معمولی عمدہ ہیں، جس کی ضرورت اسے یا اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے پڑھنے والوں کو پڑتی ہے، یعنی امام ابوداؤد نے اپنی سنن کے اندر جس حدیث کی روایت کی ہے، اور اس کے ضعف کا ذکر نہیں فرمایا ہے وہ روایت گویا ان کے نزدیک یا تو صحیح ہے یا حسن، اور ان ہی دونوں کو احکام کی دلیل کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے، اور جب احکام میں اس کو بطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے تو فضائل میں بدرجہ اولیٰ۔

اس بات کے ثبوت کے بعد آپ جب ابوداؤد کی روایت کردہ کوئی حدیث دیکھیں، اور اس میں اس کی تضعیف نہیں کی گئی ہو تو جان لیں کہ امام ابوداؤد نے گویا اسے ضعیف قرار نہیں دیا ہے، اس لئے وہ یا تو صحیح ہوگی یا حسن۔ واللہ اعلم

میں نے مناسب سمجھا کہ کتاب کے شروع میں مطلق ذکر کی فضیلت کے بارے میں ایک باب لکھ دوں، جس کے اندر مختلف گوشوں کا اختصار کے ساتھ احاطہ کیا گیا ہو، اور بعد میں ذکر کی

جان نبوی باتوں کے لئے عہد ہو، پھر کتاب کے مقاصد کا ذکر اس کے خاص ابواب میں کریں گے اور اختتام انشاء اللہ استغفار کے باب پر بطور ”فال نیک“ ہوگا کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی پر کرے۔ اللہ ہی توفیق دینے والا اور قابل بھروسہ ہے، اسی پر توکل و اعتماد ہے اور سب کچھ اسی کے سپرد اور اسی کے سہارے ہے۔

مختصر باب

وقت کی تحدید کے بغیر فضائل ذکر کے بیان میں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ“ (العنکبوت : ۳۵) اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

”فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ“ (البقرہ ۱۵۲) سو تم یاد رکھو مجھ کو میں دیا رکھوں تم کو۔

ارشاد ربانی ہے :

”فَلَوْلَا اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ، لَلْبَيْتُ فِي بَطْنِہٖ اِلٰی یَوْمِ یَعْتُوْنَ“ (الصف ۱۴۳)

پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو رہنا اسی کی پیٹ میں جس دن تک کہ

مردے زندہ ہونگے۔

فرمان الہی ہے :

یسبحون اللیل والنہار لایفترون“ (الانبیاء : ۲۰) وہ یاد کرتے رہتے ہیں رات و دن نہیں تھکتے۔

۱۲- صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے جن کا میں مختلف اقوال میں سب

سے صحیح قول کے مطابق عبدالرحمن بن صخر نام ہے اور سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والے

صحابی ہیں) وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

”کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان ، حبیبستان الی

الرحمن“ [سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم] دو کلمہ ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، ترازو میں وزنی رحمن یعنی اللہ جل شانہ کو بہت محبوب ہیں، وہ ہیں: ”سبحانہ اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم“ پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی اور اس کی ہی تعریف، پاکی بیان کرتا ہوں بزرگ و برتر اللہ کی۔

یہ حدیث بخاری کی آخری حدیث ہے، (دیکھئے: بخاری ۷۵۶۳، مسلم، ۷۳۱)۔
 ۱۳- صحیح مسلم میں حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا:

الاخبرک باحب الکلام الی اللہ تعالیٰ؟ ان احب الکلام الی اللہ ”سبحان اللہ وبحمده“
 کلام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام ”سبحانہ اللہ وبحمده“ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ کونسا کلام افضل ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”ما صطفى الله لملائكته و لعباده [سبحان الله وبحمده] جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کیلئے کیا ہے، یعنی ”سبحانہ اللہ وبحمده“ (دیکھئے: صحیح مسلم، حدیث نمبر ۲۷۳۱)۔

۱۴- صحیح مسلم میں حضرت سمرہ بن جندب کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”احب الکلام الی اللہ تعالیٰ اربع [سبحان الله، والحمد لله، ولا اله، الا الله، واللہ اکبر] لایضرک بایہن بدات“
 اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کلام چار ہیں: (۱) سبحان اللہ (۲) الحمد للہ (۳) لا اله الا اللہ (۴) اللہ اکبر“ اس میں سے جس سے چاہیں شروع کریں، اس میں کوئی نقصان نہیں۔

(دیکھیے: صحیح مسلم حدیث نمبر: ۲۷۳۷)

۱۵- صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان سبحان
الله والحمد لله تملآن او تملأ ما بين السموات والارض .

(دیکھیے: مسلم ۲۲۳)

پاکی ایمان کا جزو ہے، اور الحمد للہ میزان عمل کو لبریز کر دیتا ہے
اور سبحان اللہ والحمد للہ یہ دونوں بھر دیتے ہیں یا یہ کہا کہ آسمان وزمین
کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔“

۱۶- اور اسی میں ام المؤمنین حضرت جویریہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ان
کے پاس سے صبح سویرے فجر کے بعد نکلے اور وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھیں، پھر چاشت کے وقت
واپس آئے تو وہ اسی جگہ بیٹھی تھیں، (یہ دیکھ کر) نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

مازلت اليوم على الحالة التي فارقتك عليها؟“ کیا تم اب تک اسی حالت پر ہو جس
پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ ام المؤمنین جویریہ نے جواب دیا ہاں، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

میں نے تمہارے (پاس سے جانے کے) بعد چار کلمات تین تین بار کہے ہیں، تم نے آج
شروع دن سے جو ذکر کیا ہے اگر اس کو اس کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ چار کلمات اس پر بھاری
پڑ جائیں (اور وہ چار کلمات ہیں) ”سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة
عرشه ومداد كلماته“ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور اسی کی تعریف کے ساتھ اس کی مخلوق کی
تعداد کے برابر اس کی اپنی رضا کے مطابق اور اس کے عرش کے وزن کے بقدر اور اس کے کلمات
کی سیاہی کے بقدر۔

دوسری روایت میں یہ کلمات اس طرح آئے ہیں:

سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله

زنا عرشہ سبحان اللہ مداد کلماتہ . (صحیح مسلم حدیث نمبر: ۲۷۲۶)
 اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ کی
 پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مرضی کے مطابق اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں
 اس کے عرش کے وزن کے برابر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے
 کلمات کی سیاہی کے بقدر۔

۱۷- ترمذی کی روایت میں یہ حدیث ان الفاظ میں ہیں:

الا اعلمک کلمات تقولہا " کہ تمہیں وہ کلمات میں نہ بتاؤں جسے تم کہا کرو (وہ)

ہیں)

سبحان اللہ عدد خلقہ ، سبحان اللہ عدد خلقہ ، سبحان
 اللہ عدد خلقہ : سبحان اللہ رضائفہ ، سبحان اللہ
 رضائفہ ، سبحان اللہ رضا نفسہ ، سبحان اللہ زنا
 عرشہ ، سبحان اللہ زنا عرشہ ، سبحان اللہ زنا عرشہ ،
 سبحان اللہ مداد کلماتہ ، سبحان اللہ مداد کلماتہ ،
 سبحان اللہ مداد کلماتہ . (دیکھئے: ترمذی حدیث نمبر: ۳۵۵۵)

سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

لان اقول سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، احب الي

مما طلعت عليه الشمس (دیکھئے: سنن ترمذی ۲۶۹۵، وقال: ہذا حدیث صحیح)

سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر " کہنا مجھے ان تمام چیزوں

سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج جلوہ فگن ہوتا ہے۔

۱۹- صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد

فرمایا:

من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله
الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كان ممن
اعتق اربعة انفس من ولد اسماعيل

(دیکھئے: صحیح بخاری: ۶۳۰۳، مسلم: ۲۶۹۲)

جس نے دس بار ”لا اله الا الله وحده“ قدر تک کہا گویا اس نے اسماعیل کی اولاد میں سے

چار کو آزاد کیا۔

۲۰- صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله
الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة ، كانت
له عدل عشر رقاب و كتب له مائة حسنة ومحيت عنه
مائة سيئة ، كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى
ينمسي ولم يأت احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل
اكثر منه .

(دیکھئے: صحیح بخاری: ۶۳۰۳، مسلم: ۲۶۹۲)

جس شخص نے ایک دن میں سو بار لا اله الا الله وحده الخ قدر تک کہا،
اسے دس غلام آزاد کرانے کے برابر ثواب ملے گا، اور اس کیلئے
سونئیاں لکھی جائیں گی اور اس کے سو گناہ مٹائے جائیں گے، اور یہ
شیطان سے اس پورے دن شام تک اس کا محافظ بنا رہے گا اور جو ذکر
اس نے کیا ہے اس سے افضل ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، سوائے
اس شخص کے جس نے یہی عمل اس سے زیادہ کیا۔

من قال: ”سبحان الله وبحمده“ في اليوم مائة مرة ، حطت خطاياہ وان كانت

مثل زبد البحر“

جس نے دن میں سو بار سبحان الله و بحمده کہا اس کے گناہ اگر چہ سمندر کے جھاگ کے برابر

ہوں مٹا دیئے جائیں گے۔

۲۱- ترمذی وابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا:

افضل الذکر لا الہ الا اللہ " سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔

(دیکھئے ترمذی ۳۲۸۳، ابن ماجہ ۳۸۰۰، وقال الترمذی: ہذا حدیث حسن)

۲۲- صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں:

مثل الذی یدکر ربہ والذی لا یدکر مثل الحی والمیت
اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا اور جو نہ کرتا مردہ اور زندہ کی
طرح ہے۔ (دیکھئے: صحیح بخاری: ۶۳۰۷)

۲۳- صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی (دیہاتی) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کا میں ذکر کیا کروں تو آپ ﷺ نے فرمایا، قل: کہو

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا،
والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین لاحول ولا
قوة الا باللہ العزیز الحکیم

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ
بہت بڑا ہے تمام تعریفیں بکثرت اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ جو کہ
سارے جہانوں کا رب ہے، ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ساری
طاقت و قوت اللہ ہی کے لئے ہے جو حکمت و غلبہ والا ہے۔

دیہاتی نے عرض کیا کہ یہ تو اللہ کے لئے ہوا، پھر میرے لئے کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے
فرمایا، قل: کہو۔

اللہم اغفر لی وارحمنی واهدنی وارزقنی

اے اللہ تو مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا اور مجھے

روزی دے۔ (دیکھئے: صحیح مسلم ۲۶۹۶)

۲۴- صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بنی کریم ﷺ کے پاس تھے کہ آپ نے فرمایا:

ایعجزا حمدکم ان یکسب فی کل یوم الف حسنة

کیا تم میں سے کوئی روزانہ ایک ہزار نیکی کمانے سے عاجز ہے؟

اہل مجلس میں سے کسی نے دریافت کیا، ایک ہزار نیکی کیسے کما سکتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے

فرمایا:

یسبح مائة تسبیحة ، فتکتب له الف حسنة او تحط عنه

الف خطیئة (دیکھئے: صحیح مسلم ۲۶۹۸)

سو بار ”سبحان اللہ“ پڑھے ایک ہزار نیکی لکھی جائے گی یا ایک ہزار گناہ مٹایا جائیگا۔

حافظ ابو عبد اللہ الحمیدی فرماتے ہیں کہ مسلم کی تمام روایتوں میں اسی طرح ”یا مٹایا جائیگا“ ہے، مگر امام برقانی کہتے ہیں کہ شعبہ، ابو عوانہ اور یحییٰ القطان نے موسیٰ نامی اسی راوی کے واسطے سے جن سے امام مسلم نے اپنی مخصوص سند سے روایت کیا ہے، روایت کرتے ہیں اور اس میں ”یا مٹایا جائیگا“ کے بجائے ”اور مٹایا جائے گا“ ہے۔

۲۵- صحیح مسلم میں حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

یصبح علی کل سلامی احدکم صدقة فکل تسبیحة

صدقة ، وکل تحميدة صدقة وکل تهلیلة صدقة وکل

تکبیرة صدقة ، و امر بالمعروف و صدقة ونهی عن المنکر

صدقة و یجزی من ذلک رکعتان ترکعهما من الضحیٰ

(دیکھئے: صحیح مسلم ۷۲۰)

تم میں سے ہر کسی کے ایک ایک اعضاء ایک صدقہ کے ساتھ صحیح کرتے ہیں، چنانچہ ہر ایک تسبیح (سبحان اللہ) صدقہ ہے، ہر ایک تحمید (الحمد للہ) صدقہ ہے، ہر ایک تہلیل (لا الہ الا اللہ الخ) صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر (اللہ اکبر) صدقہ ہے، اور بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور دو رکعت نماز جسے تم چاشت کے وقت ادا کرو ان تمام اذکار کی طرف سے کافی ہیں۔

۲۶- صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے سے فرمایا:

الا ادلک علی کنز من کنوز الجنة“ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کیا بیشک، یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہو:
لا حول ولا قوۃ الا بالہ“ (صحیح بخاری ۳۶۸۳، مسلم، ۲۷۸۰۳)
ساری طاقت و قوت صرف اللہ ہی سے ہے۔

۲۷- سنن ابوداؤد و ترمذی میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ہمراہ ایک عورت کے پاس گئے اس کے سامنے گھٹلی یا کنکری رکھی ہوئی تھی جس پر وہ تسبیح پڑھتی تھی، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

الا اخبرک، بما هو ایسر علیک من هذا و افضل؟ فقال:
”سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء و سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض“ و سبحان اللہ عدد ما بین ذلك و سبحان اللہ عدد ما هو خالق و اللہ اکبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ مثل ذلك“

(ابوداؤد: ۱۵۰۰، ترمذی ۳۵۶۸، وقال الترمذی حدیث حسن)

کیا میں نے تمہیں وہ نہ بتاؤں جو تمہارے لئے اس سے آسان اور اس

سے افضل ہو؟ پھر فرمایا: سبحان اللہ الخ، ترجمہ: آسمان کے اندر جتنی مخلوق کو پیدا کیا اس کے برابر سبحان اللہ (یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں) اور زمین کے اندر جتنی مخلوق کو پیدا کیا، اس کے بقدر سبحان اللہ (یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں) آسمان و زمین کے درمیان اور جس قدر وہ تخلیق کرنے والا ہے اس کے بقدر سبحان اللہ اور اللہ اکبر اتنا ہی ہی اور لا حول و لا قوۃ الا باللہ باللہ اتنا ہی۔

۲۸- سنن ابی داؤد میں بسند حسن ایک مہاجر صحابیہ حضرت بسیرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ تکبیر (اللہ اکبر) تہلیل (لا الہ الا اللہ) اور تہلیل (سبحان اللہ) کا اہتمام کریں اور یہ کہ انگلیوں کو باندھا کریں، کیونکہ ان انگلیوں سے سوال کیا جائیگا اور یہ گواہی دیں گی۔

(ابوداؤد: ۱۵۰۱، ترمذی ۳۵۸۳، وقال الترمذی حسن)

۲۹- سنن ابوداؤد، ترمذی و نسائی میں بسند حسن حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو تسبیح میں انگلیوں کو باندھتے دیکھا ہے، ایک روایت میں (بیمینہ) داہنے کا ذکر ہے (کہ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کو باندھا کرتے تھے) (ابوداؤد: ۱۵۰۳،

ترمذی: ۳۲۸۶)

۳۰- سنن ابی داؤد میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من قال: [رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد صلی

اللہ علیہ وسلم رسولا] وجبت له الجنة: (ابوداؤد: ۱۵۲۹)

جس شخص نے کہا: میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور

محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہوں تو جنت اس کیلئے واجب ہوگی۔

۳۱- سنن ترمذی میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن بشرؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام و شرائع ہم پر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں جسے مضبوطی سے تمام کرا سکی پابندی کروں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى:

(سنن ترمذی ۳۳۷۵، وقال الترمذی: هذا حديث حسن)

تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔

۳۲- ترمذی میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ

قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کونسا بندہ مرتبہ میں افضل ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

الذاکرون اللہ کثیراً، بکثرت اللہ کا ذکر کر نیوالا۔

میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی اللہ عزوجل کے راستہ میں جہاد کرنے والے غازی

سے بھی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

لو ضرب بسيف: في الكفار والمشرکين، حتى ينكسرو

يختضب دما لكان الذاکرون اللہ افضل درجة منه .

(ترمذی ۳۳۷۶)

کفار و مشرکین پر خون سے رنگ جانے اور تلوار کے ٹوٹ جانے تک

اگر تلوار مارتا رہے تو بھی اللہ کا ذکر کرنے والے مرتبہ میں اس سے

افضل ہیں۔

۳۳- ترمذی وابن ماجہ میں حضرت ابودرداءؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاهما عند ملیکم وارفعها

فی درجاتکم وخیر لک من انفاق الذهب والورق،

خیر لک من ان تلقوا اعدوکم فتضربوا اعناقهم؟

کیا میں تمہیں نہ بتاؤں (یعنی بتا رہا ہوں) تمہارے بہترین اور

تمہارے مالک (رب) کے نزدیک سب سے پاکیزہ و بڑھانے

والاعمال، اور تمہارے مرتبہ میں سب سے اعلیٰ کے بارے میں جو سونا

چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اس سے بھی کہ تمہارا ڈبھیڑ
دشمنوں سے ہو جائے اور تم اس کی گردن مار دو۔

صحابہ نے عرض کیا، بے شک اے اللہ کے رسول (آپ ضرور بتائیں) تو آپ ﷺ نے
فرمایا: ذکر اللہ تعالیٰ "اللہ کا ذکر، (ترمذی ۳۳۷۷، ابن ماجہ ۳۷۹۰، وقال الترمذی)
حاکم نے اپنی کتاب "المستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا ہے۔
۳۳- ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا:

لَقِيتْ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَيْلَةَ اسْرَاءِ بِي ، فَقَالَ : يَا
مُحَمَّدُ اقْرَأْ امْتِك السَّلَامُ وَاخْبِرْهُمْ اَنْ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التَّرْبَةِ
عَذْبَةُ السَّمَاءِ وَاَنْهَا ؟؟؟.....رَتِيْعَانِ) وَاَنْ غُرَاسِهَا ، سَبْحَانَ
اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

(سنن ترمذی ۳۳۶۲، وقال الترمذی: حدیث حسن)

میں میری ملاقات شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی،
انہوں نے فرمایا: اے محمد! تم اپنی امت کو میرا سلام کہو، اور انہیں بتا دو کہ
جنت خوشگوار مٹی، پیٹھے پانی والی اور ہموار برابر زمین کی ہے اور اس کے
پودے سبحان اللہ الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں۔

۳۵- اسی میں حضرت جابرؓ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

مَنْ قَالَ "سَبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ" غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ

(ترمذی: ۳۳۶۳، وقال الترمذی: حدیث حسن صحیح)

جس نے "سبحان اللہ و بحمدہ" کہا اس کے لئے کھجور کا ایک پودا جنت
میں لگا دیا جاتا ہے۔

۳۶- اسی میں حضرت ابوذرؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے

رسول: کونسا کلام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو آپ نے فرمایا:

ما اصطفي الله تعالى لِملائكته "سبحان ربی وبحمدہ ،

سبحان ربی وبحمدہ" (ترمذی ۳۵۹۳، وقال الترمذی حدیث حسن صحیح)

جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے یعنی "سبحان ربی وبحمدہ ،

سبحان ربی وبحمدہ

اب مقصود کتاب شروع کرنے کا وقت آپہونچا ہے، ہم اسے حالات کی ترتیب کے مطابق
عموماً ذکر کریں گے، اور اس کی ابتداء انسان کا نیند سے بیدار ہونے سے کر رہے ہیں، اس کے بعد
بیداری سے لیکر رات تک علی الترتیب وظائف اور اذکار ذکر کریں گے، پھر شب میں نیند کے دوران
بیداری جس کے بعد دوبارہ سونا ہوتا ہے، کا ذکر آئیگا۔ وباللہ التوفیق۔

(باب-۱)

نیند سے بیداری کے بعد کے اذکار

امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :
 يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَيَّ قَافِيَةَ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَائِمٌ ثَلَاثَ عُقَدٍ ،
 يَضْرِبُ عَلَيَّ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَأَرْقُدْ ، فَإِنْ
 اسْتَيْقَظَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ
 فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ كُلُّهَا فَاصْبِحْ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَالْأُ
 أَصْبَحَ حَيِيَّتَ النَّفْسِ كَسَلْنَا“ (۱)

جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصہ میں تین گرہ لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر کہتا ہے کہ، تیری شب طویل ہے تو سویا رہ، پھر بندہ بیدار ہونے کے بعد اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وضوء کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور جب اس کے بعد نماز پڑھتا ہے تو ساری گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ چست خشاش بشاش صبح کرتا ہے، ورنہ اس کی صبح سست شکستہ دل اور پلید ہوتی ہے۔

یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم کی روایت اس کے ہم معنی ہے۔

۳۸ - صحیح بخاری میں حضرت حدیفہ بن الیمان اور حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے، یہ دونوں

فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب بستر پر لیٹنے کے لئے جاتے تو فرماتے:

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَاوْ أَمُوتْ

اے اللہ تیری ہی نام کے سہارے میں جیتا اور مرتا ہوں۔

اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَآلِيَهُ النُّشُورُ“

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا

اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (اٹھایا جانا ہے)

۳۹ - ابن سنی کی کتاب میں بسند صحیح حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد

فرمایا:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ

رُوحِي وَعَافَانِي فِي جَسَدِي“ (۱)

جب تم میں سے کوئی بیدار ہو تو کہے، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں

جس نے میری روح کو لوٹا دیا اور میرے جسم میں عافیت بخشی۔

۴۰ - اسی میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ عِنْدَ رَدِّ اللَّهِ تَعَالَى رُوحَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ [إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ

مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ“

جب بھی کوئی بندہ اللہ کی طرف سے اس کی روح کو لوٹائے جانے

کے وقت کہتا ہے ”لا الہ الا اللہ“ قدیر (تک، اللہ کے سوا کوئی

معبود نہیں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہی

اور اسی کے لئے حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔)

تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو یقینی طور پر معاف کرتے ہیں، اگرچہ وہ

سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔

۴۱ - اور اسی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ فَيَقُولُ: جَبَّ بِي كَوْنِي فَخُصَّ اِبْنِي نَيْنِدَ مِنْ بِيْدَارِهِ وَكَرَّ كَهْتَا هِيَ:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّوْمَ وَالْيَقِظَةَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
بَعَثَنِي سَالِمًا سَوِيًّا ، أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَوْتِي وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے نیند اور بیداری کو پیدا کیا،
تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے صحیح و سالم اٹھایا، میں
گواہی دیتا ہوں کہ اللہ مردے کو زندہ کرتا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

الا قال الله تعالى، صدق عبدی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے

سچ کہا۔ (۱)

۴۲ - سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ :

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ
كَبَّرَ عَشْرًا ، وَحَمِدَ عَشْرًا ، وَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
عَشْرًا ، وَقَالَ سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا ،
وَهَلَّلَ عَشْرًا ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ
الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا ثُمَّ يَفْتَحُ الصَّلَاةَ“ (۲)

نبی کریم ﷺ جب رات میں اٹھتے تو دس بار ”اللہ اکبر“ کہتے، دس بار
الحمد للہ کہتے اور دس بار سبحان اللہ و بحمہ کہتے، اور دس بار سبحان
القدوس“ کہتے اور دس بار ”استغفار“ پڑھتے (استغفر اللہ کہتے) اور
دس بار لا الہ الا اللہ کہتے، پھر دس بار کہتے

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ الدُّنْيَا وَضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ“

اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی اور روز قیامت کی تنگی سے،
پھر نماز شروع کرتے۔

۴۳۔ سنن ابی داؤد ہی میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رات میں
بیدار ہوتے تو فرماتے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ لِذُنْبِي
وَاسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تَنْزِعْ قَلْبِي
بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ“ (۱)

تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے
اللہ ہم اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی چاہتے ہیں اور تیری رحمت کی
درخواست کرتے ہیں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور جب
کہ تو نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، میرے دل میں کجی مت پیدا
فرما، (راہ اسلام پالینے کے بعد مجھے گمراہ مت کر) اور اپنے پاس
سے مجھے رحمت عطا فرما، بلاشبہ تو بڑا ہی داتا ہے۔

(باب-۲)

کپڑا پہنتے وقت کے اذکار

کپڑا پہنتے وقت ”بسم اللہ“ کہنا اسی طرح مستحب ہے جس طرح ہر اچھے کام کے وقت
بسم اللہ مستحب ہے۔

۴۴۔ ابن سنی کی کتاب میں حضرت ابوسعید خدری سے (جن کا نام سعد بن مالک بن سنان
ہے) مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کبھی کوئی کپڑا زیب تن فرماتے خواہ کرتا ہو یا چادر یا عمامہ تو

آپ فرماتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ. (۱)

اے اللہ میں آپ سے اس کی خیر اور جس کے لئے یہ ہے اس کی
خیریت کا طالب ہوں اور میں آپ کی پناہ لیتا ہوں اس کے شر سے
اور جس کے لئے یہ ہے اس کے شر سے۔

۳۵ - اسی میں حضرت معاذ بن انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
مَنْ لَبَسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ: "جس نے نیا کپڑا پہنا اور کہا:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ
مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ“

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے یہ پہنایا اور میری طاقت
تو ت کے بغیر مجھے وہ عطا کیا۔

غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ؟ تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے،

(باب-۳)

نیا کپڑا یا جو نیا وغیرہ پہنتے وقت کی دعاء:

۳۶ - حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کوئی نیا کپڑا
پہنتے تو اسے اس کے نام عمامہ یا کرتا یا چادر وغیرہ سے موسوم فرماتے پھر کہتے:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا
صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ“ (۲)

(۱) عمل اليوم والليلة لابن سنی: ۱۴، (۲) ویکھیں: سنن ابو داؤد: ۴۰۲۰، ترمذی: ۱۷۶۷،

عمل اليوم للنسائی: ۳۰۹، یہ حدیث صحیح ہے اور امام ابو داؤد نے اسے حدیث حسن قرار دیا ہے۔

اَتْتُونِي بِأَمِّ خَالِدٍ“ ام خالد کو میرے پاس لے کر آؤ۔

مجھے نبی کریم ﷺ کے پاس لایا گیا تو نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھ سے مجھے وہ پہنایا اور دوبار فرمایا: ”أَبْلِي وَأَخْلِقِي“ خوب پہن کر پرانا کرو“ (۱)

۳۹ - سنن ابن ماجہ اور ابن سنی کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عمرؓ کے جسم پر ایک کپڑا دیکھا تو فرمایا ”أَجْدِيدٌ هَذَا أَمْ غَسِيلٌ“ یہ نیا ہے یا دھلا ہوا ہے، حضرت عمرؓ نے جواب دیا دھلا ہوا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا سَعِيدًا“ (۲)

نیا پہنو حمد کہتے ہوئے زندگی گزارو، اور شہادت و نیک نجات کی وفات پاؤ۔

(باب-۵)

کپڑا اور جوتا پہننے یا اتارنے کی کیفیت:

کپڑا، جوتا، پانچامہ کو پہننے میں داہنے سے شروع کرنا مستحب ہے کپڑے میں اس کے داہنے آستین سے اور جوتے یا پانچامے میں داہنے پاؤں سے شروع کرے اور اتارنے میں پہلے بائیں اتارے پھر داہنا، اسی طرح سرمہ لگانے، مسواک کرنے، ناخن تراشنے، مونچھ کاٹنے، بغل کا بال اکھاڑنے، سر کا بال اتارنے، نماز میں سلام پھیرنے، مسجد میں داخل ہونے، بیت الخلاء سے نکلنے، وضوء و غسل کرنے، کھانے پینے اور مصافحہ کرنے، حجر اسود کو چھونے، کسی انسان سے کچھ لینے، یا کوئی ضرورت کی چیز اسے دینے جیسے تمام امور میں داہنے سے شروع کرنا مستحب ہے۔

۵۰ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ:

”كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ“

(۱) صحیح بخاری: ۵۸۷۳

(۲) ابن ماجہ: ۳۵۵۸، وعمل اليوم والليلة، لابن سنی: ۲۶۹، اسنادہ صحیح

فِي طَهُورِهِ وَتَرَحُّلِهِ“ (۱)

بنی کریم ﷺ کو تمام امور میں داہنا پسند تھا۔ (حتی کہ) پاکی حاصل کرنے اور کنگھی کرنے میں بھی۔

۵۱- سنن ابی داؤد وغیرہ میں باسناد صحیح حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں:

كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ الْيَمْنَى لَطَهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَى (۲)

رسول اللہ ﷺ کا داہنا ہاتھ پاکی حاصل کرنے اور کھانا تناول فرمانے کیلئے تھا، اور بائیں ہاتھ قضاء حاجت اور ہر گندی چیز کے لئے تھا۔

۵۲- سنن ابی داؤد بیہقی میں حضرت حفصہؓ سے مروی ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لَطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَتِيَابِهِ وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ. (۳)

رسول اللہ صلعم اپنا داہنا ہاتھ کھانے پینے اور پہننے کیلئے رکھتے، اور بائیں ہاتھ، اس کے علاوہ کیلئے۔

۵۳- حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا لَبَسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدُوا أَيْمَانَكُمْ“ (۴)

جب تم لباس پہنو اور جب وضوء کرو تو اپنے داہنے سے شروع کرو۔

یہ حدیث حسن ہے اس کی روایت امام ابو داؤد، ترمذی ابن ماجہ، اور بیہقی نے کی ہے،

اس کے علاوہ اس باب میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، واللہ اعلم

(۱) صحیح بخاری: ۱۶۸، و مسلم: ۲۶۸

(۲) ابو داؤد: ۳۳

(۳) سنن ابی داؤد: ۳۲، و سنن بیہقی: ۱۱۳/۱

(۴) ابو داؤد: ۴۱۴۱، ترمذی: ۱۷۶۶، ابن ماجہ: ۴۰۲، بیہقی: ۸۶/۱

(باب-۶)

کپڑا تارتے وقت کا ذکر:

۵۴ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت انسؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”سَتَرْمَائِيْنَ اَعْيُنِ الْجِنَّ وَعَوْرَاتِ بَنِي اٰدَمَ اَنْ يَقُوْلَ
الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَطْرَحَ ثِيَابَهُ“ [”بِسْمِ اللّٰهِ
الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ“] (۱)

اولاد آدم کے شرمگاہ اور جنوں کی نگاہ کے درمیان کا پردہ یہ ہے کہ مسلمان شخص جب اپنا کپڑا اتارنا چاہے تو ”بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ“ کہے یعنی شروع اللہ کے نام سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

(باب-۷)

گھر سے نکلنے وقت کی دعاء:

۵۵ - ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ سے (جن کا نام ہند ہے) مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب اپنے گھر سے نکلتے تو کہتے:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ
اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ ، اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَ اَوْ اُظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ ، اَوْ
اُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ“ (۲)

میں نکلتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے

(۱) عمیل الیوم والليلة لابن سنی: ۲۷۴

(۲) ابو داؤد: ۵۰۹۴، ترمذی: ۲۴۲۷، نسائی: ۵۴۸۶، ابن ماجہ: ۳۸۸۴

اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں، بھٹکنے یا بھٹکائے جانے سے، لغزش کرنے
یا کئے جانے سے، ظلم کرنے یا کئے جانے سے، نادانی کرنے یا کئے
جانے سے۔

یہ حدیث صحیح ہے اسے تمام اصحاب سنن نے نقل کیا ہے، امام ترمذی نے اسے حدیث
صحیح قرار دیا ہے، ابوداؤد کی روایت میں ”أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ“ واحد متکلم
کے صیغہ کے ساتھ ہے، اور ترمذی کی روایت میں جمع متکلم کے صیغہ کے ساتھ ”نزل، نضل
نظلم، نجھل“ ہے

ابوداؤد کی پوری حدیث یوں ہے۔

مَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي الْأَرْفَعِ
طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ النَّحِ
نَبِي كَرِيمٍ ﷺ جب بھی میرے مکان سے نکلتے تو اپنی نگاہ آسمان کی
طرف کرتے اور فرماتے، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں انح۔

اس کے علاوہ دیگر روایتوں میں صرف اتنا ہے ”كان اذا خرج من بيتي قال“ کہ
جب میرے مکان سے نکلتے تو فرماتے، اس میں نگاہ آسمان کی طرف کرنے کا تذکرہ نہیں ہے،
واللہ اعلم۔

۵۶ - سنن ابی داؤد، ترمذی و نسائی میں حضرت انسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی
کریم ﷺ نے فرمایا: من قال: جس نے گھر سے نکلتے وقت کہا:

[بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ] يُقَالُ

لَهُ: كُفِّيتَ وَوُقِّيتَ وَهُدَيْتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ“ (۱)

میں اللہ کے نام کے سہارے نکلتا ہوں، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا
اور ساری قوت و طاقت اللہ ہی کے لئے ہے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے،

تم مستغنی کر دیئے گئے بچائے گئے، منزل مقصود پالیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔

امام ترمذی نے اسے حدیث حسن قرار دیا ہے، ابو داؤد کی روایت میں ”فیقول“ کا اضافہ ہے کہ اس دعاء کے بعد شیطان ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ تم کیا کر سکتے جبکہ وہ مستغنی کر دیا گیا بچالیا گیا اور اسے صحیح راستہ دکھا دیا گیا ہے؟

۵۷ - ابن ماجہ و ابن سنی کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب اپنے گھر سے نکلتے تو فرماتے :

”بِسْمِ اللّٰهِ ، التَّكْلَانِ عَلَى اللّٰهِ ، لِأَحْوَالٍ وَ لِأَقْوَامٍ إِلَّا بِاللّٰهِ“ (۱)

اللہ کے نام کے سہارے، اللہ ہی پر مکمل بھروسہ ہے، ساری طاقت و قوت اللہ ہی کے لئے ہے۔

اس کی سند میں موجود راوی عبد اللہ بن حسین کو امام ابو زرہ امام بخاری نیز ابن حبان نے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔

(باب ۸)

گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعاء:

گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہنا، بکثرت اللہ کا ذکر کرنا، وہاں کوئی انسان ہو یا نہ ہو سلام کرنا مستحب ہے کیونکہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً“ (النور: ۶۱)

پھر جب کبھی جانے لگے گھروں میں تو سلام کہو اپنے لوگوں پر نیک دعاء ہے اللہ کے یہاں سے برکت والی سہری۔

۵۸- سنن ترمذی میں حضرت انسؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

”يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ فَسَلِّمْ تَكُنْ بَرَكَاتٍ عَلَيْكَ
وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ“ (۱)

اے میرے بچے جب تم اپنے گھر والوں میں آؤ تو سلام کرو یہ تمہارے
اور تمہارے گھر والوں کے لئے برکت کی چیز ہوگی۔

۵۹- سنن ابی داؤد میں ابوما لک اشعری سے (جن کا نام خارش ہے اور عبید و کعب و عمر و نام
ہونے کے بھی اقوال ہیں) مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ [اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ
الْمَوْلَجِ وَخَيْرِ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ
خَرَجْنَا وَعَلَىٰ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا] تُمْ يُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهِ. (۲)

جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہو تو کہے، اے اللہ! میں آپ سے داخل
ہونے کی بہتری اور نکلنے کی بہتری کی درخواست کرتا ہوں اللہ ہی
کے نام سے میں داخل ہوا اور اللہ ہی کے نام سے میں نکلا اور اللہ جو
کہ ہمارا رب ہے اس پر بھروسہ کیا۔

پھر اسے چاہئے کہ اپنے اہل خانہ کو سلام کرے۔

۶۰- ابو امامہ باہلی (جن کا نام صدی بن عجلان ہے) نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ
آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمُ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، رَجُلٌ يَخْرُجُ

(۱) سنن نورمنی، ۲، ۶۹۸، وقال الترمذی: هذا حديث حسن صحيح

(۲) سنن ابو داؤد، ۵، ۵۰۹۶، امام ابو داؤد نے اس حدیث کی تصحیف نہیں کی ہے اس لئے یہ حدیث ان کے نزدیک یا تو
صحیح ہے یا حسن۔

عَزَّوَجَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ
أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى
اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ
أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى
اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى“ (۱)

تین لوگ، یہ سب کے سب اللہ عزوجل کی ضمانت و حفاظت میں
ہیں، ایک وہ شخص جو اللہ عزوجل کے راستہ میں جہاد کے لئے نکلا تو وہ
اللہ عزوجل کی حفاظت و ضمانت میں ہے تا آنکہ اللہ اسے موت
دیدے اور اسے جنت میں داخل فرمادے، یا جو اس نے اجر و ثواب
اور مال و غنیمت حاصل کیا ہے اس کے ساتھ واپس لوٹا دے، اور
ایک وہ شخص جو مسجد گیا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و ضمانت میں ہے
تا آنکہ اللہ اسے موت دیکر جنت میں داخل فرمادے، یا اس اجر
و ثواب کے ساتھ اسے واپس کر دے جو اس نے حاصل کیا ہے اور
ایک وہ شخص ہے، جو سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہوا تو وہ اللہ
سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت و ضمانت میں ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور کس قدر عظیم تحفہ ہے، ہمیں بھی یہ عطا فرمائے آمین۔

۶۱ - حضرت جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے
سنا آپ فرما رہے تھے:

”إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ
طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ

(۱) ابوداؤد: ۲۴۹۴، یہ حدیث حسن ہے ابوداؤد کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی اسے سند حسن نقل کیا ہے۔

وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمْ
الْمَيِّتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ:
أَدْرَكْتُمْ الْمَيِّتَ وَالْعَشَاءَ“ (۱)

”جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا، اور داخل ہوتے وقت یا
کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ تمہاری شب بھلی
نہ تمہارا کھانا، اور جب وہ داخل ہوتا اور داخل ہوتے ہوئے اللہ کا
ذکر نہیں کرتا تو شیطان (خوش ہو کر) کہتا ہے تم نے لطف شب (اس
کی خوبی کو) پالیا، اور جب کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان
کہتا ہے تم نے خواب اور خورد و نوش کی لذت حاصل کر لی۔

۶۲ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ ﷺ جب دن میں گھر واپس آتے تو فرماتے:

”أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ اسْتَلْكَ أَنْ
تَجِيزَنِي مِنَ النَّارِ“ (۲)

تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھے مستغنی کیا اور پناہ دی، تمام
تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، تمام تعریفیں اللہ
کیلئے ہیں جس نے مجھ پر احسانات کئے، میں درخواست کرتا ہوں
کہ آپ جہنم کی آگ سے مجھے پناہ دیں (نجات دیں)

۶۳ - مؤطا امام مالک میں ایک روایت ہے کہ غیر آباد گھر میں داخل ہوتے وقت اس طرح
کہنا مستحب ہے۔

(۱) اسنادہ ضعیف، عمل اليوم والليلة لابن سنی: ۱۵۷،

(۲) صحیح مسلم: ۲۰۱۸

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: سند کے ضعف کے باوجود اس کی شاہد حدیث موجود ہے جس کی تخریج ابن ابی شیبہ اور بزار نے
بروایت عبدالرحمن بن عوف کی ہے، اس لئے حدیث حسن درجہ کی ہے۔

”السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ (۱)

سلامتی ہو، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔

(باب-۹)

درمیان شب بیدار ہو کر گھر سے نکلنے کی دعا:

جب کوئی شخص رات میں بیدار ہو کر گھر سے نکلے تو مستحب ہے کہ آسمان کی طرف نگاہ

کرے اور سورہ آل عمران کی یہ آخری آیت پڑھے ”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“

اخیر سورت تک ۱۹۰-۲۰۰- (۲)

۶۳ - صحیحین کی روایت سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایسا ہی کیا کرتے تھے، البتہ آسمان کی

طرف نگاہ کرنے کا ذکر صرف بخاری میں ہے نہ کہ مسلم میں۔

۶۵ - صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب رات میں

تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو فرماتے:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَأَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَعَدُّكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنْبِتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي

(۱) موطا امام مالک: ۲/ ۹۶۲

(۲) بخاری: ۴۵۶۹، مسلم، ۷۶۳

مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ
الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُوَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. (۱)

اسے اللہ تیرے لئے ہی تعریفیں ہیں، تو آسمان و زمین اور جو مخلوق اس کے اندر ہے اس کا متولی و منتظم ہے، اور تعریفیں تیرے لئے ہی ہیں، اس کی حکومت و بادشاہت تیرے ہی لئے ہیں، تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں، تو آسمان و زمین اور اس کے اندر والوں کا نور ہے، تعریفیں طیرے لئے ہی ہیں، تو برحق ہے، تیرا وعدہ برحق ہے، تجھ سے ملنا برحق ہے، تیرا کلام برحق ہے، جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے، محمد برحق ہیں، اور قیامت برحق ہے، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے ہی سپرد کیا، تجھ ہی پر ایمان لایا، تجھ ہی پر بھروسہ کیا، تیری ہی طرف جھکا، تیرے ہی سامنے مقدمہ پیش کرتا اور تجھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں، اس لئے تو میری مغفرت فرما، جو میں نے پہلے کیا یا جو میں آئندہ کروں اور جو میں نے راز دارانہ کیا، اور جو میں نے کھلے عام کیا، تو ہی اول ہے اور تو ہی آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

اور بعض روایتوں میں ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم کا اضافہ بھی ہے۔ اور ساری طاقت و قوت اللہ ہی کے سہارے ہے جو بلند و برتر اور بڑا ہی عظمت والا ہے۔

(باب - ۱۰)

بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی دعاء :

۶۶ - صحیحین میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کہتے تھے :

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ“ (۱)

اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں شیاطین ذکور و اناث سے۔

”الخبث“ باء کے سکون اور پیش دونوں کے ساتھ صحیح ہے، باء کے سکون کا انکار غلط اور

ایسا کہنے والے غلطی پر ہیں۔

۶۷ - صحیحین کے علاوہ میں اس طرح ہے :

”بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ

وَالْخَبَائِثِ“ (۲)

شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں شیاطین

ذکور اور شیاطین اناث سے (اس میں بسم اللہ کا اضافہ ہے)

۶۸ - حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

سَتَرْنَا مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنَّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ

الْكَنِيْفَ أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللَّهِ“ (۳)

جنات کی نگاہ اور اولاد آدم کی شرمگاہ کے درمیان جبکہ وہ بیت الخلاء

میں داخل ہو ”بسم اللہ“ کہنا پردہ اور حجاب ہے۔

گذشتہ فصلوں میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا درست

ہے، ہمارے حضرات شوافع فرماتے ہیں کہ صحراء ہو یا آبادی ہر مقام پر اس ذکر کا کہنا مستحب ہے،

ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلے بسم اللہ کہے پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث

والخبائث کہے۔

۶۹ - حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب بیت الخلاء

میں داخل ہوتے تو کہتے:

(۱) صحیح البخاری ۱۴۲، صحیح مسلم ۳۷۵، (۲) ابوداؤد ۴-۵، ترمذی ۵، نسائی ۱۹

(۳) ترمذی ۶۰۶، وقال، سندہ لیس بقوی

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ النَّجِثِ
 الْمُعْتَبِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ (۱)
 اے اللہ میں ناپاک پلید، بدکار فسادی و مردود شیطان ذکر و اناث
 سے تیری پناہ لیتا ہوں۔

(باب-۱۱)

قضاء حاجت کی حالت میں گفتگو یا ذکر کی ممانعت :

قضاء حاجت کی حالت میں خواہ صحراء میں ہو یا بنے ہوئے بیت الخلاء میں گفتگو یا ذکر کرنا مکروہ ہے، گفتگو یا ذکر کی نوعیت جو بھی ہو سب کا حکم ایک ہی ہے، البتہ ضروری بات کرنا اس سے مستثنیٰ ہے۔

بعض حضرات شوافع کا کہنا ہے کہ اگر اس حالت میں چھینک آجائے تو الحمد للہ نہ کہے اور نہ ہی چھینک کا یا اسلام کا جواب دے، اور نہ مؤذن کے کلمات کو دہرائے۔ ایسی حالت میں اگر سلام کیا جائے تو کوتاہی سلام کرنے والے کی طرف سے ہوگی اور وہ جواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ پھر یہ ساری کراہتیں تزیینی ہیں تحریمی نہیں، اس لئے اگر کسی کو چھینک آجائے اور وہ دل ہی دل میں زبان ہلائے بغیر الحمد للہ کہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جماع کی حالت میں بھی اسی طرح کہا جاسکتا ہے۔

۷۰ - حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس سے گذرا اور آپ پیشاب کر رہے تھے، اس شخص نے آپ کو اس حالت میں سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ (۲)

(۱) یہ ابن سنی کی روایت ہے، اور طبرانی نے بھی اسے کتاب الدعاء میں نقل کیا ہے، دیکھیں: عمل اليوم والليلة لابن سنی: ۲۵، الطبرانی: ۳۶۷، حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر اس کی شواہد موجود ہے، دیکھیں: الطبرانی فی الدعاء:

۳۶۵، وسنن ابن ماجہ: ۲۹۹، و الطبرانی: ۳۶۶

(۲) اس کی تحریر امام مسلم نے اپنی صحیح میں کی ہے، دیکھیں: مسلم: ۳۷۰

۷۱ - مہاجر بن قنفذؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا جبکہ آپ پیشاب فرما رہے تھے میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا تا آنکہ وضوء فرمایا پھر جواب دیا، اور مجھ سے معذرت کرتے ہوئے گویا ہوئے

”انسی کرہت ان اذکر اللہ تعالیٰ الاعلیٰ طہر“ مجھے ناگوار معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر بغیر طہارت کے کروں ”روای کو شک ہے کہ علی طہر کہا تھا یا علی طہارة“ کہا تھا معنی ایک ہی ہے۔ (۱)

(باب-۱۲)

قضاء حاجت کے لئے بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرنے کی ممانعت:

حضرات علماء شوافع فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں سلام کرنا مکروہ ہے، اور اگر کر دے تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہوگا، اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت مہاجر کی وہ روایت ہے جو اس سے پہلے والے باب میں گذری۔

(باب-۱۳)

بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کی دعاء:

بیت الخلاء سے نکلنے وقت یہ دعاء پڑھنی چاہئے:

”غُفْرَانِكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْهَبَ عَنِّي الْإِذْيَ وَعَافَانِي“ (۲)

تیری مغفرت کا طالب ہوں، ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس

نے تکلیف دہ چیز کو مجھے سے دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔

۷۲ - سنن ابی داؤد و ترمذی کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ ”غفرانک“ کہا کرتے تھے۔

(۱) یہ حدیث صحیح ہے ابوداؤد نسائی واہن بابہ نے سند صحیح اس کی تخریج کی ہے دیکھیں: ابوداؤد: ۱۷، نسائی: ۳۸، ابن ماجہ: ۳۵۰۰

(۲) دیکھیں: ابوداؤد: ۳۰، ترمذی: ۷، عمل الیوم والليلة، نسائی: ۷۹، ابن ماجہ: ۳۰۱

۷۳ - حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب بیت الخلاء سے نکلتے تو فرماتے:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آذَانِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ وَدَفَعَ عَنِّي آذَاهُ“ (۱)

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے اس کا مزا چکھایا اور اس کی طاقت (وٹامن) کو میرے اندر باقی رکھا اور اس کی تکلیف دہ چیز کو مجھ سے دور کیا۔

(باب-۱۴)

جب وضوء کے لئے یا پینے کے لئے پانی نکالے تو نکالتے وقت ”بسم اللہ“ کہنا مستحب ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس کا ذکر آچکا ہے۔

(باب-۱۵)

وضوء کے وقت کی دعاء:

وضوء کے شروع میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کہنا مستحب ہے اور صرف بسم اللہ کہنا بھی کافی ہے، ہمارے علماء شوافع فرماتے ہیں کہ اگر وضوء کے شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو درمیان میں کہہ لے، اگر فارغ ہونے تک بسم اللہ نہ پڑھا تو گویا اس کا مقام و وقت فوت ہو گیا، اب اسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم اس کا وضوء درست ہوگا، خواہ جان بوجھ کر ترک کیا ہو یا بھول کر، یہی ہمارا اور جمہور علماء کا مذہب ہے۔

بسم اللہ پڑھنے کے سلسلہ میں بہت سی ضعیف احادیث وارد ہوئی ہیں امام احمد بن حنبلؒ سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: وضوء کے اندر بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں ایک بھی صحیح و ثابت حدیث کا مجھے علم نہیں ہو سکا۔ انہی ضعیف احادیث میں سے ایک یہ ہے۔

(۱) رواہ ابن سنی فی عمل الیوم: ۲۵، والطبرانی فی الدعاء: ۳۷۰، اس کا ذکر پہلے حدیث نمبر ۶۹ پر آچکا ہے

۷۴ - حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه“

جس نے وضوء کے لئے بسم اللہ نہیں کہا اس کا وضوء نہیں ہوا۔ (۱)

اسی طرح حضرت سعید بن زید البوسعدی، عائشہؓ، انسؓ بن مالک، سہل بن سعدؓ کی روایات سنن بیہقی وغیرہ میں مروی ہیں، مگر امام بیہقی وغیرہ نے ان سب کی تضعیف کی ہے۔

(فصل)

وضوء میں بسم اللہ کے بعد کیا کہنا چاہئے:

بعض علماء شوافع مثلاً زاہد وقت شیخ ابوالفتح نصر المقدسی فرماتے ہیں کہ وضوء کے شروع

میں بسم اللہ کے ساتھ یہ کہنا بھی مستحب ہے۔

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا

ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

ان کے اس قول میں کوئی حرج نہیں، مگر بروء سنت مطہرہ اس کی کوئی اصل نہیں اور نہ

ہی ہم کسی علماء شوافع یا دیگر علماء کو جانتے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو، واللہ اعلم۔

(فصل)

وضوء کے بعد کا ذکر

وضوء سے فراغت کے بعد یہ کہنا چاہئے:

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

(۱) دیکھیں: ابوداؤد: ۶۰۱۲، مسند احمد، ۴/۱۸۱۲، ابن ماجہ ۲۹۹، طبرانی ۳۷۹

مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَ
 اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“
 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ذات تنہا ہے
 اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے
 بندے اور ان کے رسول ہیں، اے اللہ تو مجھے خوب توبہ کرنے والوں
 اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا، اے اللہ میں تیری
 پاکی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے
 سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف
 توبہ کے ذریعہ رجوع ہوتا ہوں۔

۷۵ - حضرت عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”من
 تَوَضَّأَ وَقَالَ: جَسَّ نِي وَضُوءٌ كَمَا أُورِكُهَا:

[أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ
 يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ]

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس
 کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے
 اور اس کے رسول ہیں۔ تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے
 کھول دیئے جاتے ہیں، وہ اس میں سے جس سے چاہے داخل ہو۔

یہ مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں اور ترمذی کی روایت میں ”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ
 التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ“ کا اضافہ ہے۔ (۱)

۷۶ - امام نسائی نے اس حدیث کو ”سبحانک اللہم وبحمدک“ کے ساتھ اپنی کتاب عمل الیوم واللیلۃ میں اور بعض محدثین نے اپنی دیگر کتابوں میں اسی اضافہ کے ساتھ بسند ضعیف روایت کیا ہے۔

۷۷ - سنن دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: [أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ] قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ“ (۱)

جس نے وضوء کیا پھر بات کرنے سے پہلے کہا: اشہد - رسولہ ، تک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں تو اس کے دو وضوء کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔

۷۸ - مسند امام احمد بن حنبل، سنن ابن ماجہ اور ابن سنی کی کتاب میں حضرت انسؓ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، جَسَّ نَ وَضُوءَ كَمَا وَرُخْبِ اِجْحَى طَرْحَ وَضُوءَ كَمَا۔“

ثُمَّ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“
فَتَبَحَّتْ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مِنْ أَيَّهَا شَاءَ دَخَلَ“ (۲)

پھر تین بار کہا: ”اشہد ان لا الہ الا اللہ“ رسول، تک تو جنت کے آٹھ دروازے اس کے لئے کھول دئے جاتے ہیں وہ ان میں سے

(۱) سنن دارقطنی: ۹۳/۱، واستادہ ضعیف، اس کے خواہ کی تخریج طبرانی نے کتاب الدعاء میں کی ہے، طبرانی ۳۸۷۔

(۲) مسند امام احمد: ۱۳/۲۶۵، ابن ماجہ، ۴۶۹، واستادہ ضعیف

جن سے چاہے داخل ہو جائے۔

۷۹ - کلمہ شہادت کو تین بار دہرانے کی روایت ابن سنی کی کتاب میں حضرت عثمان بن عفانؓ سے بسند ضعیف مروی ہے۔ (۱)

شیخ نصر المقدسی فرماتے ہیں کہ ان اذکار کے ساتھ ساتھ نبی کریم ﷺ اور آپ کی آل و اولاد پر درود و سلام بھی بھیجے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان اذکار کو وضوء سے فراغت کے فوراً بعد قبلہ رخ ہو کر کہے۔

(فصل)

اعضاء وضو کی دعائیں:

جہاں تک ہر اعضاء وضو پر دعاء پڑھنے کی بات ہے تو اس سلسلہ میں نبی کریم ﷺ سے کچھ ثابت نہیں، البتہ فقہاء نے ان دعاؤں کے استحباب کا ذکر کیا ہے جو سلف صالحین سے منقول ہے، اس میں ان حضرات کی طرف سے کمی و زیادتی بھی منقول ہے، ان حضرات نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے والوں کو بسم اللہ کے بعد یہ کہنا چاہئے۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا“

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے پانی کو پاکی کا ذریعہ بنایا

اور کلی کرتے وقت یہ کہے :

”اللَّهُمَّ اسْقِنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

كَأَسَا لَا أَظْمَأُ بَعْدَهُ“

اے اللہ تو مجھے اپنے نبی ﷺ کے حوض سے ایسا جام پلا جس کے بعد

کبھی پیاسا نہ ہوں۔

اور ناک میں پانی ڈالتے وقت کہے:

”اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنِي رَائِحَةَ نَعِيمِكَ وَجَنَّتِكَ“

اے اللہ تو اپنے فضل اور اپنی جنتوں کی خوشبو سے مجھے محروم مت فرما۔
اور چہرہ دھوتے وقت کہے:

”اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ“

اے اللہ جس دن (قیامت کے دن) چہرے روشن ہوں گے یا سیاہ
ہوں گے، اس دن میرے چہرے کو روشن فرما۔

اور دونوں ہاتھوں کو دھوتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ اَعْطِنِي كِسَابِي بِيَمِينِي اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي
بِشِمَالِي“

اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں عطاء فرما، اور اسے
میرے بائیں ہاتھ میں مت عطاء فرما۔

بعض روایتوں میں ”بیمینی“ کے بعد ”وَحَاسِبِي حِسَابًا يَسِيرًا“ اور مجھ سے
آسان حساب لے اور ”بِشِمَالِي“ کے بعد ”وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِي“ اور نہ ہی پیٹھ کے
پیچھے سے) کا اضافہ ہے۔

اور سر کا مسح کرتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشْرِي عَلَى النَّارِ وَأَظْلِنِي تَحْتَ
عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ“

اے اللہ میرے بال و کھال کو آگ پر حرام کر دے اور جس دن تیرے
سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن مجھے اپنے عرش کے سایہ
میں جگہ دے۔

اور دونوں کانوں کا مسح کرتے وقت کہے:

”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ“

اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے کلام کو سنتے اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔
اور دونوں پاؤں کو دھوتے وقت کہے:

”اللَّهُمَّ ثَبِّثْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ“

اے اللہ میرے قدموں کو پل صراط پر ثابت و قائم رکھ۔ واللہ اعلم
۸۰ - امام نسائی و ابن سنی نے اپنی اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں بسند صحیح حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت کی ہے، ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کے لئے وضوء کا پانی لایا، آپ نے وضوء فرمایا: پھر میں نے سنا کہ آپ ﷺ دعاء کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں:
”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي“

اے اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت دے
اور میری روزی میں برکت دے۔

میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے آپ کو اس اس طرح دعاء کرتے ہوئے سنا؟
آپ ﷺ نے فرمایا ”وہل تر کن من شیئی“ کیا کچھ چھوٹ گیا ہے۔
ابن سنی نے اس کے لئے وضوء کے درمیان کہی جانے والی دعاء کا باب باندھا ہے اور
نسائی نے اسے ”وضوء سے فراغت کے بعد کہی جانے والی دعاء“ کے باب میں ذکر کیا ہے، اور
ان دونوں کا احتمال موجود ہے کہ دوران وضوء کہا جائے یا بعد فراغت۔ (۱)

(باب ۱۶)

غسل کرتے وقت کی دعاء:

غسل کرنے والوں کے لئے ان تمام دعاؤں کا کہنا مستحب ہے جسے ہم نے وضوء کے

لیں اور جنت میں داخل فرمادیں۔

یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا ایک راوی وزاع بن نافع العقیلی ہے جس کے ضعیف و منکر ہونے پر سمجھوں کا اتفاق ہے۔

۸۳ - اسی روایت کے ہم معنی ابن سنی کی کتاب میں بروایت عطیۃ العونی حضرت ابوسعید خدری کی روایت نبی کریم ﷺ سے مذکور ہے، اور عطیۃ بھی ضعیف ہیں۔

نوٹ: مگر حافظ ابن حجر نے اسے حدیث حسن قرار دیا ہے اس کی تخریج امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مصنف ۲/۱۳۳، میں ابن ابی شیبہ نے اپنی مسند: ۹۲۵۱، میں اور طبرانی نے دعاء: ۲۲۱، میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن: ۷۷۸، میں کی ہے)

(باب - ۱۹)

مسجد میں داخل ہوتے یا نکلنے وقت کی دعاء:

مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعاء کہنا مستحب ہے:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَلَّى وَسَلَّمْ عَلَيَّ
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ
لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ“

میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی جو عظمت والا ہے، اور پناہ لیتا ہوں اس کے
وجہ کریم اور اس کی ازلی بادشاہت کی مردود شیطان سے، تمام
تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، اے اللہ تو درود و سلام بھیج محمد اور آل
محمد پر، اے اللہ تو بخش دے میرے گناہوں کو اور کھول دے میرے
لئے اپنی رحمت کا دروازہ۔

اس کے بعد بسم اللہ کہتے ہوئے پہلے داہنا پاؤں داخل کرے، اور نکلنے وقت پہلے بائیں

پاؤں نکالے، اور نکلنے وقت بھی یہی دعاء پڑھے، البتہ ”ابواب رحمتک“ کی جگہ ”ابواب فضلک“ کہے (اپنے فضل کا دروازہ کھول دے)

۸۴ - ابو حمید یا ابوالأسیدؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَسْلَمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لِيَقُلْ [اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ] وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: [اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ]

تم میں سے کوئی جب مسجد میں داخل ہو تو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجے پھر کہے اللہم فتح لی ابواب رحمتک (اے اللہ تو میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے) اور جب نکلے تو کہے ”اللہم انی اسئلك من فضلک“ اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا طالب ہوں۔

امام مسلم نے اپنی صحیح میں نیز ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ وغیرہم نے اپنی سنن میں صحیح اسانید سے اس کو روایت کیا ہے، البتہ مسلم کی روایت میں ”فلیسلم علی النبی“ یعنی نبی پر درود بھیجنے کا ذکر نہیں، جبکہ باقی روایتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ (۱)

۸۵ - ابن سنی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے۔

وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَسْلَمْ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَقُلْ: [اللَّهُمَّ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ] (۲)

جب نکلے تو نبی ﷺ پر سلام بھیجے اور کہے: اے اللہ تو مجھے مردود شیطان سے پناہ دے۔

اس زیادتی کی تخریج ابن ماجہ، ابن خزیمہ، اور ابویوحنا تم بن حبان نے بھی اپنی صحیح میں کی ہے۔

(۱) دیکھیں: صحیح مسلم، ۷۱۲، ابوداؤد ۴۶۵، نسائی، ۷۲۹، ابن ماجہ ۷۷۷.

(۲) عمل الیوم والليلة لابن سنی: ۸۵.

۸۶ - حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہتے:

[أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ] قَالَ : إِذَا قَالَ ذَلِكَ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : حَفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ . (۱)

میں پناہ لیتا ہوں اللہ کا جو عظمت والا ہے اور پناہ لیتا ہوں اس کے وجہ کریم اور اس کی ازلی بادشاہت کا شیطان رجیم سے۔ پھر آپ نے فرمایا: جب بندہ یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے، یہ شخص پورے دن مجھ سے محفوظ کر دیا گیا۔

۸۷ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت انسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے :

”بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ“
”شروع اللہ کے نام سے، اے اللہ تو محمد پر درود بھیج“

اور جب نکلتے تو فرماتے:

”بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ“ (۲)

۸۸ - مسجد میں داخل ہوئے یا نکلتے ہوئے رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی روایت ہے۔ (۳)

۸۹ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت عبد بن حسن عن امہ عن جدتہ کی روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مسجد میں داخل ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا حمد بیان کرتے نام لیتے اور فرماتے:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ“

(۱) ابوداؤد: ۴۶۶، بسند جید، حدیث حسن

(۲) عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی، ۸۷، یہ حدیث ضعیف ہے

(۳) ویکھیں: عمل الیوم لابن سنی: ۸۸

اے اللہ تو میری مغفرت فرما اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

اور جب نکلتے تو اسی طرح کہتے اور فرماتے :

”اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ“ (۱)

اے اللہ تو میرے لئے اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔

۹۰ - اسی میں حضرت ابوامامہؓ کی روایت نبی کریم ﷺ سے ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَدَاعَتْ
جُنُودُ إِبْلِيسَ وَأَجْلَبَتْ وَاجْتَمَعَتْ كَمَا تَجْتَمِعُ النَّحْلُ
عَلَى يَعْسُوبِهَا فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ:
[اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ] فَإِنَّهُ إِذَا
قَالَهَا لَمْ يَضُرَّهُ. (۲)

جب تم میں کا کوئی شخص مسجد سے نکلتا ہے تو ابلیس کے کارندے ٹوٹ پرتے اور اچکنے کے لئے شور مچاتے ہوئے اکٹھا ہوتے ہیں جس طرح کہ شہد کی کھیاں اپنی ملکہ کے گرد جمع ہوتی ہیں، اس لئے جب تم میں سے کوئی مسجد کے دروازہ پر کھڑا ہوتا اور کہتا ہے، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ اِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ“ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ابلیس اور اس کے کارندوں (لشکروں) سے تو اس کے یہ کہنے کے بعد شیطان اسے کوئی ضرر نہیں پہنچاتا۔

(۱) عمل الیوم لابن سنی، ۸۶، ترمذی: ۳۱۴، وقال الترمذی: حدیث حسن

(۲) عمل الیوم واللبلة لابن سنی: ۱۰۵۴ اس کی سند ضعیف ہے

(باب ۴۰)

مسجد میں داخل ہونے کے بعد کا ذکر

اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح (سبحان اللہ) و تہلیل (لا الہ الا اللہ) و تحمید (الحمد لله) و تکبیر (اللہ اکبر) وغیرہ بکثرت کرنا اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے، نیز یہ بھی مستحب ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث، علم فقہ اور تمام دیگر علوم شرعیہ کو پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ

فِيهَا بِالْعُدْوِ الْأَصَلِ، رَجَالُ الْخ. (النور: ۳۶)

ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح و شام وہ مرد۔ (الخ)

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ“ (الحج: ۳۲)

اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام لگی چیزوں کا سو وہ دل کی پرہیز گاری کی بات ہے۔

”وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ“ (الحج: ۳۰)

اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی سو وہ بہتر ہے اس کے لئے اپنے رب کے پاس۔

۹۱ - حضرت بریدہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ“ (۱)

مسجد اس کے لئے بنائی گئی ہے جو اس کے بنانے کا مقصد ہے۔

۹۲ - حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس اعرابی (دیہاتی) سے جس نے مسجد میں پیشاب کیا تھا فرمایا:

”إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَالْقَدْرِ

إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ“ (۱)

یہ مساجد اس پیشاب و گندگی جیسی کسی چیز کے لئے مناسب نہیں، یہ تو صرف اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کے لئے ہے۔

(فصل)

اعتکاف کی نیت کرنا:

مسجد میں بیٹھے ہوئے شخص کے لئے اعتکاف کی نیت کر لینا مناسب ہے کیونکہ ہمارے نزدیک چند لمحوں کے لئے بھی اعتکاف درست ہے، بلکہ بعض شوافع حضرات تو اس کے بھی قائل ہیں کہ اگر کوئی بغیر ٹھہرے مسجد کے اندر سے گذرتے ہوئے اعتکاف کی نیت کرے تو درست ہے اس لئے گذرنے والوں کو بھی چاہئے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تاکہ اس کی فضیلت مذکورہ قول کے پیش نظر اسے حاصل ہو جائے۔

افضل یہ ہے کہ چند لمحات ٹھہرے پھر گذر جائے وہاں بیٹھے ہوئے شخص کو چاہئے کہ اگر نیکی کی بات نظر آئے تو اس کا حکم دے اور اگر برائی نظر آئے تو اس سے روکے — یہ حکم یوں تو ہر انسان کے لئے ہے، خواہ مسجد میں ہو یا غیر مسجد میں، لیکن مسجد میں اس کا حکم اس کے احترام و تعظیم و شوکت و رفعت، صیانت و حفاظت کی وجہ سے زیادہ پختہ اور موکم ہے۔

ہمارے بعض علماء شوافع فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور حدت یا مشغولیت یا کسی اور عارضہ کی وجہ سے تحیۃ المسجد نہ پڑھ سکے تو اس کے لئے یہ کلمات چار بار پڑھ لینا بہتر ہے۔ ”سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ بعض سلف

صالحین سے بھی اسی طرح منقول ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔

(باب-۲۱)

مسجد میں خرید و فروخت یا گم شدگی کی آواز لگانے کی ممانعت:

۹۳ - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: [لَا رَدَّه

اللَّهُ عَلَيْكَ] فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ بِهَذَا“ (۱)

جب کوئی شخص کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز کی تلاش کے لئے آواز لگاتے

ہوئے سنے تو کہے: لا ردھا اللہ علیک“ اللہ تمہیں وہ واپس نہ

دلائے، کیونکہ مساجد اس کے لئے نہیں بنائی گئی ہیں۔

۹۴ - صحیح مسلم ہی میں حضرت بریدہؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں گمشدگی کا

اعلان کرتے ہوئے کہا: سرخ اونٹ تک رسائی کے لئے کون میری مدد کر سکتا ہے ”تو نبی کریم

ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا وَجَدَتْ اِنَّمَا بُنِيَتْ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ“ (۲)

نہ پاسکو، مساجد تو اسی چیز کے لئے بنائی گئی ہیں جو اس کے بنانے کا

مقصد ہے۔

۹۵ - سنن ترمذی کتاب البیوع کے اخیر میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرَبِحَ

اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُولُوا: لَا رَدَّهَا

اللَّهُ عَلَيْكَ“ (۱)

جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو کہو
 ”لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ“ اللہ تیری تجارت کو سود مند (نفع بخش)
 نہ بنائے، اور اگر کسی کو گمشدگی کا اعلان کرتے دیکھو تو کہو ”لا ردھا
 اللہ علیک“ اللہ تمہیں وہ واپس نہ دلانے۔

(باب-۲۲)

مسجد میں غیر اسلامی اشعار پڑھنے والوں پر بدعہاء:

ایسے شخص پر بدعہاء کرنا جائز ہے جو مسجد میں اشعار پڑھے جس میں نہ اسلام کی تعریف
 و تحسین ہونے زبرد و تقویٰ کی بات اور نہ ہی اس کے اندر مکارم اخلاق کی تلقین ہو۔
 ۹۶ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت ثوبانؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا:

”مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يَتَشَدُّ شِعْرًا فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ ”فَضُّ
 اللَّهُ فَآك“ ثلاثاً“ (۲)

مسجد میں کسی کو شعر کہتے دیکھو تو اسے تین بار کہو ”فض اللہ فاک“
 اللہ تیرا منہ توڑ دے۔

(باب-۲۳)

اذان کی فضیلت:

۹۷ - حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 ”لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا

(۱) سنن ترمذی ۱۳۲۱، وقال الترمذی: حدیث حسن

(۲) عمل الیوم لابن سنی: ۱۵۷، یہ حدیث ضعیف ہے

إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا“ (۱)
 اگر لوگ اذان اور صرف اول کی فضیلت کو جان لیں پھر اس کو پانے
 کے لئے انہیں مشقت اٹھانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو وہ مشقت
 برداشت کر کے اسے حاصل کرنے کو کوشش کریں۔

۹۸ - حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 ”إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى
 لَا يَسْمَعَ التَّائِبِينَ“ (۲)

جب نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتے ہوئے
 (ریاح خارج کرتے ہوئے) بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے

۹۹ - حضرت معاویہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا:
 ”الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (۳)
 اذان دینے والے قیامت کے دن سب سے اونچی گردن والے ہوں گے۔

۱۰۰ - حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے
 ہوئے سنا۔

”لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنَّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا شَيْءٍ إِلَّا
 شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (۴)

مؤذن کی آواز کو تا حد مسافت جو کوئی جن یا انسان یا کوئی اور چیز سنتی
 ہے وہ قیامت کے روز ضرور اس کے لئے گواہی دے گی۔

اذان کے فضائل میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، علماء شوافع
 کا اس میں اختلاف ہے کہ امامت افضل ہے یا مؤذنی؟ اور اس میں چار اقوال ہیں:

(۱) صحیح البخاری: ۶۹۸، وصحیح مسلم: ۳۸۹

(۱) بخاری: ۶۱۵، مسلم: ۴۳۷

(۲) صحیح بخاری: ۶۰۹

(۳) صحیح مسلم: ۶۰۹

کو ترک کرنے والا ہوگا۔

ایسے نابالغ بچے کی اذان جو امتیاز نہ رکھتا ہو درست نہیں اور احناف کے نزدیک نابالغ بچہ خواہ امتیاز رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو اس کی اذان درست نہیں) اور نہ ہی عورت یا کافر کی اذان درست ہے، البتہ لڑکا اگر ایسا رکھنے والا ہوشیار ہو تو اس کی اذان (فقہ شافعی میں) درست ہے۔

اگر کسی کافر نے اذان دی اور کلمہ شہادت کی ادائیگی کی تو صحیح و راجح مذہب کے مطابق یہ ادائیگی اس کے لئے موجب اسلام ہوگی، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ کلمہ شہادت کی اس طرح ادائیگی موجب اسلام نہ ہوگی، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایسے شخص کی اذان درست نہیں، کیونکہ اگر اس کے اسلام کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو کلمہ شہادت سے پہلے کے کلمات اس کے اسلام لانے سے پہلے (حالت کفر میں) ادا ہوئے ہیں، اس بات کی جزئیات بے شمار ہیں جو فقہ کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں یہ مقام اس کو بیان کرنے کا نہیں۔

(باب-۲۵)

اقامت کا طریقہ :

(امام نووی اپنے مذہب شافعی کے مطابق فرماتے ہیں) میرے نزدیک وہ صحیح مذہب جس کے بارے میں صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، یہ ہے کہ اقامت کے کلمات گیارہ ہیں، یعنی:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ، حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، (احناف کے نزدیک اقامت کے کلمات بیعتہ وہی ہیں جو اذان کے ہیں) وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(فصل-۱)

اذان و اقامت کا حکم :

یاد رکھیں کہ ہمارے علماء شوافع کے نزدیک اذان و اقامت سنت ہے خواہ جمعہ کے لئے

ہو یا غیر جمعہ کے لئے، البتہ بعض علماء شوافع کا قول ہے کہ یہ دونوں فرض کفایہ ہیں اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ جمعہ کے لئے تو فرض کفایہ ہے نہ کہ دیگر ایام و اوقات کے لئے۔

اگر ہم اس کو فرض کفایہ مان لیں تو ایسی صورت میں اگر کسی شہر یا محلے والے اسے ترک کر دیں تو اس کے ترک کرنے کی وجہ سے ان سے جنگ کی جائے گی اور اگر ہم اسے سنت قرار دیں تو صحیح مذہب کے مطابق ان سے قتال نہیں کیا جاسکتا۔ بعض علماء شوافع کا خیال ہے کہ سنت ہونے کے باوجود ان سے قتال کیا جائے گا کیوں کہ یہ اسلام کا ایک واضح شعار ہے۔

(فصل-۲)

اذان و اقامت کے آداب:

اذان ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز سے اور اقامت تیزی سے (جلدی جلدی) اور اذان کے نسبت دھیمی آواز سے دینا مستحب ہے، بہتر ہے کہ مؤذن خوش الحان، ثقہ، امین اور اوقات سے باخبر اور نیک و صالح ہو، اذان و اقامت حالت طہارت میں اونچی جگہ سے قبلہ رو ہو کر دینا مستحب ہے، اگر قبلہ رخ ہوئے بغیر یا قبلہ کی طرف پشت کر کے یا بیٹھ کر یا لیٹ کر یا حالت حدیث و جنابت میں اذان دے تو اذان درست ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگا، جنبی کی کراہت محدث سے زیادہ سخت ہے، اسی طرح اقامت کی کراہت اذان کے نسبت زیادہ بدترین ہے۔

(فصل-۳)

اذان صرف نماز پنجگانہ ہی کے لئے مشروع ہے :

اذان صرف نماز پنجگانہ کے لئے ہی مشروع ہے مثلاً فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے لئے، یہ نمازیں خواہ اداء ہوں یا قضاء، مقیم ہو یا مسافر، منفرد ہو یا باجماعت حکم میں سب برابر ہیں اگر ایک شخص نے اذان دے لی تو یہی بقیہ لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی اگر چند نوت شدہ نمازوں کی قضاء ایک وقت میں کر رہا ہے تو پہلی نماز کے لئے اذان کہے اور بقیہ ہر ایک کے لئے اقامت، اور اگر دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ رہا ہے (جن کے نزدیک بعض

حالات میں جمع بین الصلاحتین جائز ہے) تو پہلی کے لئے اذان کہے اور ہر ایک کے لئے علیحدہ علیحدہ اقامت کہے ان پانچ فرض نمازوں کے سوا کسی اور نماز کے لئے بالاتفاق اذان مشروع نہیں۔

البتہ ان نمازوں میں بعض وہ ہیں جسے باجماعت ادا کرتے وقت ”الصَّلَاةُ جَامِعَةً“ کہنا مستحب ہے جیسے عیدین، سورج گرہن، چاند گرہن اور استسقاء (طلب بارش) کی نماز اور بعض وہ ہیں جس میں یہ کہنا بھی مستحب یا مشروع نہیں جیسے عام نوافل اور فرض نمازوں کی سنتیں اور بعض وہ بعض وہ ہیں جس میں علماء کا اختلاف ہے جیسے نماز تراویح یا نماز جنازہ، میرے نزدیک زیادہ صحیح و راجح یہ ہے کہ تراویح میں ”الصَّلَاةُ جَامِعَةً“ کہنا مستحب ہے نہ کہ نماز جنازہ میں۔

(فصل-۴)

اوقات اذان و اقامت:

اقامت تب ہی صحیح ہے جب کہ وقت کے اندر ہو اور نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کر چکا ہو اور اذان اسی وقت درست ہے جب کہ نماز کا وقت ہو چکا ہو سوائے نماز فجر کے کیوں کہ (فقہ شافعی میں) فجر کی اذان دخول وقت سے پہلے بھی درست ہے البتہ (حضرات شوافع کے درمیان) اس میں اختلاف ہے کہ رات کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں قبل از وقت فجر کی اذان درست ہوگی۔ میرے نزدیک زیادہ صحیح قول آدمی رات کے بعد جائز ہونے کا ہے ایک قول وقت سحر کا ہے اور ایک قول رات میں کسی بھی وقت کا ہے مگر یہ لغو و مہمل ہے، ایک قول دو تہائی شب کے بعد کا ہے، مگر راجح و چنیدہ قول پہلا ہے۔ (احناف کے نزدیک وقت سے پہلے اذان درست نہیں)

(فصل-۵)

عورتوں کی اذان و اقامت کا حکم:

عورت اور خنثی مشکل (ایسا ہجرا جس کے مرد و عورت ہونے کی علامات برابر ہوں) کا

اقامت کہنا درست ہے، مگر ان کا اذان دینا جائز نہیں کیوں کہ ان کیلئے آواز بلند کرنا ممنوع ہے۔

(باب-۲۶)

اذان و اقامت کی آواز سننے والوں کو کیا کہنا چاہئے؟

اذان و اقامت کی آواز سننے والوں کے لئے انہی الفاظ کا اعادہ کرنا مستحب ہے سوائے ”حَسْبِيَ عَلَى الصَّلَاةِ“ اور ”حَسْبِيَ عَلَى الْفَلَاحِ“ کے، کہ ان کلمات کے بعد ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کہے، اور ”الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ کے بعد ”صَدَقَتْ وَبَرَزَتْ“ کہے، بعض حضرات کا قول ہے کہ اس کے بعد ”صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ“ کہے۔

اقامت کے کلمات کے بعد ”أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا“ کہنا ماثور ہے اور ”أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“ کہا جائے پھر ”رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا“ کہے اور پوری اذان میں جب مؤذن کی متابعت اور کلمات اذان کو دہرانے سے فارغ ہو تو نبی کریم ﷺ پر درود و سلام بھیجے پھر کہے:

”اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ“

اے اللہ! اس ہمہ گیر دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آپ محمد ﷺ کو وسیلہ اور فضل عطاء فرمائیں اور انہیں اس مقام پر فائز فرمائیں جس کا آپ نے وعدہ کر رکھا ہے“ (۱)

یعنی جس نے ان دعائیہ کلمات کو ادا کر لیا قیامت کے دن اس کے لئے شفاعت واجب ہوگی۔ اس دعاء کے بعد دنیا و آخرت سے متعلق جتنا چاہے اللہ سے دعاء کرے۔

(۱) ابوداؤد کی روایت میں ”الاحلت له الشفاعة يوم القيامة“ کا اضافہ ہے

۱۰۱۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ“

”جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے“

۱۰۲۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا:

”إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ اسْأَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا عِنْدَ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ لَا تَبْغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ“

جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو پھر میرے اوپر درود و سلام بھیجو کیونکہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس کے بدلے دس بار اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں پھر میرے لئے اللہ سے وسیلہ کی درخواست کرو کیوں کہ یہ جنت میں ایک مقام ہے اور اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کو اس کی رسائی ہوگی اور میری آرزو ہے کہ وہ بندہ میں بنوں تو جو شخص میرے لئے وسیلہ کی درخواست کریگا اس کے لئے شفاعت واجب ہو جائے گی۔

۱۰۳۔ حضرت عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا:

جب مؤذن اللہ اکبر اللہ کبیر کہے اور سننے والا اس کے جواب میں ”اللہ اکبر اللہ اکبر“ کہے، پھر مؤذن جب ”اشھد ان الا الہ الا اللہ“ کہے تو وہ بھی ”اشھد ان الا الہ الا اللہ“ کہے اور مؤذن جب ”اشھد ان محمد رسول اللہ“ کہے تو وہ بھی

اشہد ان محمدا رسول اللہ“ کہے پھر مؤذن جب ”حسی علی الصلاة“ کہے تو وہ
 ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کہے، پھر مؤذن جب ”حسی علی الفلاح“ کہے تو وہ
 ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کہے، پھر مؤذن جب ”اللہ اکبر اللہ اکبر“ کہے تو وہ
 بھی ”اللہ اکبر اللہ اکبر“ کہے، اور جب مؤذن ”لا الہ الا اللہ“ کہے تو وہ بھی
 ”لا الہ الا اللہ“ کہے، اور یہ سارے کلمات دل سے کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (۱)

۱۰۴ - حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس شخص
 نے اذان کی آواز سنا اور کہا:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا
 وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا
 کوئی شریک نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ
 کے رب ہونے، محمد ﷺ کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے
 پر راضی و خوش ہوں، تو اس کے گناہ بخش دئے جائیں گے۔

ایک روایت میں اس طرح ہے:

”مَنْ قَالَ حِينَ يُسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ“ (۲)

جس نے مؤذن کی آواز سنا کر کہا: اور میں بھی گواہی دیتا ہوں۔

۱۰۵ - سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہؓ سے سند صحیح مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مؤذن کو
 کلمہ شہادت ادا کرتے ہوئے سنتے تو فرماتے ”وانا وانا“ اور میں بھی گواہی دیتا ہوں، میں
 بھی گواہی دیتا ہوں)

۱۰۶ - حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مَنْ قَالَ

حين يسمع النداء: جس نے اذان کی آواز سن کر کہا:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ ، آتِ
مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي
وَعَدْتَهُ“

حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، تو اس کے لئے قیامت کے دن میری شفاعت

واجب ہوگی۔ (۱)

۱۰۷ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت معاویہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مؤذن کو
”حی علی الصلاة“ کہتے ہوئے سنتے تو فرماتے: ”اللهم اجلنا مفلحین“ اے اللہ تو
ہمیں فلاح پانے والا بنا دے۔ (۲)

۱۰۸ - سنن ابی داؤد میں حضرت ابوامامہ یا کسی دوسرے صحابہ رسول ﷺ سے مروی ہے کہ
حضرت بلالؓ نے اقامت کہتے ہوئے جب ”قد قامت الصلاة“ کہا تو رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا ”اقامها الله وادامها“ اللہ اسے قائم و دائم رکھے، البتہ اقامت کے باقی سارے الفاظ
اسی طرح دہراتے جائیں جس طرح کہ اذان سے متعلق حضرت عمر فاروقؓ کی روایت کی
روایت میں بیان کیا گیا۔ (۳)

۱۰۹ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ وہ جب مؤذن کو اقامت کہتے
ہوئے سنتے تو فرماتے:

”اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ سَوْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“

اے اللہ اس ہمہ گیر و مکمل دعوت اور قائم ہونے والی اس نماز کے
رب، درود و سلام بھیج محمد ﷺ پر اور قیامت کے دن ان کی مطلوبہ
شئی انہیں عطا فرما۔ (۴)

(۲) عمل الیوم واللیلة لابن سنی: ۹۰

(۱) صحیح بخاری: ۶۱۴

(۳) عمل الیوم واللیلة لابن سنی: ۱۰۳

(۴) ابواؤد: ۵۲۸

(فصل)

حالت نماز میں اذان کا جواب دینے کا حکم :

اگر نماز کی حالت میں مؤذن کو اذان دیتے یا اقامت کہتے ہوئے سنے تو اس کا جواب نہ دے، البتہ سلام پھیرنے کے بعد اس کا جواب غیر نمازی کی طرح دے، اگر نماز کے اندر اس نے جواب دیدیا تو مکروہ ہوگا، مگر نماز باطل نہیں ہوگی، اسی طرح اگر وہ اذان و اقامت کو قضاء حاجت کی حالت میں سنے تو اس حالت میں جواب نہ دے، بلکہ فارغ ہو کر باہر آجانے کے بعد ذمے۔ ہاں اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یا تسبیح پڑھ رہا ہے، یا حدیث یا کسی اور دینی علوم میں مشغول ہے تو اسے ترک کر کے پہلے اس کا جواب دے پھر اپنے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ کیونکہ مشغول رہنے سے جواب دینا فوت ہو جائے گا جبکہ وہ ذکر جس میں وہ مشغول تھا عموماً اس کے فوت ہونے کا خطرہ نہیں۔

اگر کوئی شخص مؤذن کی متابعت نہ کر سکے (اور اس کے ساتھ کلمات اذان و اقامت کو نہ دہرا سکے) یہاں تک کہ مؤذن اذان یا اقامت سے فارغ ہو جائے تو بھی مستحب ہے کہ فراغت کے بعد ہی اس کا تدارک کر لے بشرطیکہ زیادہ وقفہ نہ گزرا ہو۔

(باب - ۲۷)

اذان کے بعد کے اذکار:

۱۱۰ - حضرت انسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا يُؤْتِي الدُّعَاءَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ“ (۱)

اذان و اقامت کے درمیان دعاء رد نہیں کی جاتی، یعنی ضرور قبول کی

جاتی ہے۔

(۱) دیکھیں: سنن ابی داؤد: ۵۲/۱، سنن ترمذی: ۲۱۲، عمل الیوم للنسائی: ۶۷، عمل الیوم لابن سنی:

۱۰۰، اسے امام ترمذی نے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔

اور ترمذی کی روایت جو کتاب الدعوات: ۳۵۹۴ میں آئی ہے اس کے اندر یہ اضافہ بھی ہے۔

قَالُوا : فَمَاذَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

صحابہ نے عرض کیا، تو اے اللہ کے رسول! ہمیں کیا کہنا چاہئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ سے دنیا و آخرت میں اپنی عافیت مانگو۔

۱۱۱ - حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! مؤذن لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے (فضیلت میں) آپ ﷺ نے فرمایا:

”قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ“ (۱)

جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اور جب ختم کرو تو اللہ سے مانگو (دعاء کرو) دئے جاؤ گے۔

۱۱۲ - سنن ابی داؤد ہی میں کتاب الجہاد کے اندر سند صحیح حضرت سہل بن سعدؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ثَنَانٌ لِاتْرِدَانٍ ، أَوْ قَالَ : مَا تَرِدَانِ الدُّعَاءَ عِنْدَ الْبِنَاءِ وَعِنْدَ
الْبَاسِ ، حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا“

دو دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتیں، راوی کو شک ہے کہ لاتریدان کہا یا ماتریدان، (نقی کا صیغہ استعمال کیا یا نہیں) کا اذان کے وقت کی دعاء اور جنگ کے وقت کی دعاء جبکہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔

میرا خیال ہے کہ بعض روایات میں يُلْحِمُ ”حاء“ کے ساتھ ہے اور بعض میں ”جیم“ کے ساتھ دونوں کا مفہوم واضح ہے یعنی ایک دوسرے میں گتہ جانا۔

(باب - ۲۸)

فجر کی سنت کے بعد دعاء:

۱۱۳ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت ابوالسلیح (جن کا نام عامر بن اسامہ ہے) کی روایت اپنے والد سے ہے کہ انہوں نے فجر کی دو رکعت نماز سنت ادا کی جبکہ نبی کریم ﷺ نے بھی ان کے قریب ہی ہلکی سی دو رکعت نماز ادا کی پھر نبی کریم ﷺ کو بیٹھے بیٹھے تین بار پڑھتے ہوئے سنا۔

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَاسْرَافِيلَ وَمِيكَائيلَ وَمُحَمَّدًا النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ (۱)

اے جبریل، اسرافیل، میکائیل اور پیغمبر محمد ﷺ کے رب میں آپ کی پناہ لیتا ہوں جہنم کی آگ سے۔

۱۱۴ - اور اسی میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتَّوْبَ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ
غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ (۱)

جس نے جمعہ کی صبح میں فجر کی نماز سے پہلے تین بار یہ کلمات کہے،
”اسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَاتَّوْبَ
إِلَيْهِ“ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور
جو ”حی و قیوم“ ہے اور اسی کی طرف توبہ کے ذریعہ رجوع ہوتا
ہوں تو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اگر چہ وہ سمندر کے جھاگ کے
برابر ہو بخش دیتا ہے۔

(۱) عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی: ۱۰۱، وقال الحافظ حدیث حسن۔

(۲) عمل الیوم لابن سنی: ۸۲، قال الحافظ: حدیث غریب وسندہ ضعیف وله شاهد حسن عند

الترمذی وابی داؤد۔

(باب -۳۴)

صف میں ملنے کے وقت کی دعاء :

۱۱۵ - حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نماز کو آیا، نبی کریم ﷺ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ صف میں ملا تو اس نے کہا :

”اللَّهُمَّ آتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ“

اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو عطا فرماتا ہے اس سے افضل مجھے عطا فرما۔

جب نبی کریم ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا: ”مَنْ أَلْمَسَكَ لَمْ أَنْفَأْ“ ابھی کس نے بات کی تھی، اس شخص نے جواب دیا میں نے اے اللہ کے رسول: تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَنْ يُعْفَرَ جَوَاذِكُمْ وَتَسْتَشْهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ (۱)

پھر تو تیرے گھوڑے کی کوچ کاٹی جائیگی اور تو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا۔

نوٹ: اس کے اندر جہاد کی فضیلت و عظمت کا ذکر ہے کہ یہ عبادت فضائل میں سب سے افضل عبادت ہے، یہ وہ فضیلت ہے جسے اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، مگر پہلے گزر چکا ہے کہ یہ اور اس طرح کی احادیث مختلف احوال پر محمول ہیں ورنہ درحقیقت نماز تمام اعمال سے خواہ جہاد ہو یا کچھ اور افضل و برتر ہے، اس کی کچھ تفصیل فضائل ذکر میں گزر چکی ہے کہ ذکر افضل ہے یا جہاد۔

اس حدیث کی روایت امام نسائی و ابن سنی نے نیز امام بخاری نے تاریخ کے اندر محمد بن مسلم بن عائذ کی سیرت میں نقل کیا ہے۔

(۱) عمل الیوم للنسائی: ۹۳، عمل الیوم لابن سنی: ۱۰۴، بخاری فی تالیحہ: ۶۹۶، ترجمہ محمد بن مسلم بن عائذ

(باب - ۳۰)

نماز کے لئے جب کھڑا ہو تو کیا کہے :

۱۱۶ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت ام رافع سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے پر اللہ عز و جل مجھے خوب اجر دے، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

يَا اُمَّ رَافِعِ اِذَا قُمْتِ اِلَى الصَّلَاةِ فَسَبِّحِي اللّٰهَ تَعَالٰى
عَشْرًا وَهَلِّلِيْهِ عَشْرًا ، وَاحْمَدِيْهِ عَشْرًا وَكَبِّرِيْهِ عَشْرًا ،
وَاسْتَغْفِرِيْهِ عَشْرًا فَاَنْتِ كِ اِذَا سَبَّحْتِ ، قَالَ : هَذَا لِيْ ،
وَ اِذَا هَلَّلْتِ قَالَ : هَذَا لِيْ ، حَمِدْتِ قَالَ : هَذَا لِيْ ، وَ اِذَا
كَبَّرْتِ قَالَ : هَذَا لِيْ ، وَ اِذَا اسْتَغْفَرْتِ قَالَ : فَقَدْ
فَعَلْتِ : (۱)

اے ام رافع جب تو نماز کے لئے کھڑی ہو تو دس بار سبح (یعنی سبحان اللہ) کہو، دس بار الحمد للہ کہو، دس بار لا الہ الا اللہ کہو، دس بار اللہ اکبر کہو، دس بار استغفار، (استغفر اللہ الخ) کہو کیونکہ تو جب پاکی بیان کریگی (سبحان اللہ کے ذریعہ) تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ تو میرے لئے ہوا، اور تو جب لا الہ الا اللہ الخ کہے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو میرے لئے ہوا اور جب تو حمد بیان کریگی تو اللہ فرمائیں گے، یہ تو میرے لئے ہوا اور تو جب اللہ اکبر کے ذریعہ کبریائی بیان کریگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو میرے لئے ہوا اور تو جب مغفرت چاہے گی (استغفار کرے گی) تو

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے یقیناً کر دیا، یعنی بخش دیا۔

(باب -۳۱)

اقامت کے وقت کی دعاء:

۱۱۷ - امام شافعی علیہ الرحمہ نے کتاب ”الام“ میں اپنی سند سے ایک مرسل حدیث روایت کی ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ التَّقَاءِ الْجُيُوشِ ، وَاقَامَةِ
الصَّلَاةِ وَنُزُولِ الْغَيْثِ (۱)

دعاء کی قبولیت کے متلاشی رہو، (امید رکھو) دشمن سے ڈبھیر، نماز کی
اقامت اور نزولِ بارش کے وقت۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ مجھے بہتوں کے بارے میں یاد ہے کہ وہ بارش و اقامت کے
وقت دعاء کی قبولیت کی امید میں دعائیں کیا کرتے تھے۔

کتاب اذا کار الصلاة

(باب-۱)

نماز میں داخلے کے وقت کے اذکار

یہ وسیع ترین باب ہے، اس کے اندر بہت سی صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، اور اس کی جزئیات بہت زیادہ ہیں، جو کتب فقہ میں مذکور ہیں، ہم اس جگہ اس کے اصول و مقاصد کا ذکر کریں گے، اس کی باریکی یا انفرادیت سے پہلو تہی کریں گے، کیونکہ یہ کتاب بیان دلائل کے لئے نہیں اس کے اندر تو صرف اس کا ذکر ہے جس پر عمل کرنا چاہئے۔

(باب-۲)

تکبیر تحریمہ کا حکم

یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی، خواہ فرض ہو یا نفل، امام شافعی اور اکثر علماء کے نزدیک تکبیر کہنا نماز کا جز اور اس کا ایک رکن ہے، امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک یہ شرط ہے اس کا جزء نہیں۔

تکبیر کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر، یا اللہ الاکبر، یہ دونوں الفاظ امام ابوحنیفہؒ و شافعیؒ، وغیرہما کے نزدیک جائز ہیں، امام مالک نے دوسرے لفظ کی ممانعت کی ہے، اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ انسان پہلے لفظ یعنی اللہ اکبر ہی کے ذریعہ تکبیر کہے، تاکہ اختلاف سے بچا

رہے ان دونوں الفاظ کے علاوہ کسی اور الفاظ کے ذریعہ تکبیر کہنا امام شافعیؒ کے نزدیک جائز نہیں، اس لئے اگر کوئی شخص اللہ العظیم، اللہ المتعال، اللہ اعظم یا اجل یا اعز یا اس کے مشابہ الفاظ کے ذریعہ تکبیر کہے تو امام شافعی کے نزدیک اس کی نماز درست نہیں، مگر امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک درست ہے، اور اگر ”اکبر اللہ“ کہے تو شوافع کے نزدیک صحیح قول کے مطابق نماز درست نہیں ہوگی، اور بعض حضرات شوافع کا خیال ہے کہ درست ہو جائیگی، جس طرح کہ نماز کے اخیر میں ”علیک السلام“ کہنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔

تکبیر ہو یا دیگر اذکار یہ تب ہی صحیح ہے، جب کہ اس کی ادائیگی زبان سے اس طرح کی جائے کہ تلفظ کرنے والا اگر اس کے سماع میں خلل نہ ہو تو خود سن لے، اس کی تفصیل شروع کتاب کے تمہیدی فصلوں میں گزر چکی ہے۔

اگر گونگا ہے یا اس کی زبان میں کوئی عیب یا عارضہ ہے تو بقدر استطاعت زبان کو حرکت دے، اور اس طرح ہلانے کے بعد اس کی نماز درست ہو جائیگی۔ جو شخص عربی الفاظ کی ادائیگی پر قادر ہو، اس کے لئے غیر عربی الفاظ میں تکبیر کہنا درست نہیں، البتہ جو اس پر قادر نہ ہو، اس کے لئے جائز ہے، مگر اس پر عربی سیکھنا واجب ہے، اور اگر وہ اس کے سیکھنے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، جتنی مدت اس نے کوتاہی میں گزارا، ان تمام مدتوں کی نماز کو لوٹانا اس پر واجب ہے۔

تکبیر تحریمہ کی ادائیگی میں صحیح مذہب یہ ہے کہ اس کو نہ کھینچا جائے اور نہ طول دیا جائے بلکہ بلا تکلف عجلت کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے، بعض حضرات نے کھینچ کر ”مد“ کے ساتھ ادا کرنے کو کہا ہے، مگر پہلا قول ہی صحیح ہے۔ باقی تکبیرات کو صحیح قول کے مطابق اتنا کھینچنا مستحب ہے کہ اس کے بعد دوسرے رکن تک اسے کہتے ہوئے پہنچ جائے۔ بعض حضرات نے ان تکبیرات کو بھی کھینچ کر کہنے سے منع کیا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ جس جگہ کھینچا جاتا ہے اسے اگر نہ کھینچے یا جسے نہ کھینچا جاتا ہے اسے کھینچ کر ادا کرے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، صرف افضلیت کو ترک کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ”مد“

کا (یعنی کھینچنے کا) مقام لفظ ”اللہ“ میں لام کے بعد ہے، اس کے علاوہ حروف میں مد نہیں ہے۔

(فصل)

تکبیر باواز بلند کہنا چاہئے :

امام کے لئے تکبیر تحریر یہ یادگیر تکبیرات کا زور سے کہنا سنت ہے تاکہ مقتدی اسے سن سکے، اور مقتدی اسے اتنا آہستہ کہے کہ خود سن لے۔ اگر مقتدی زور سے یا امام آہستہ سے تکبیر کہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی تکبیر کو صحیح طور پر ادا کر نیکا اہتمام رکھے، جہاں مد نہ کرنا ہونہ کرنے، اگر ”اللہ“ کے الف (ہمزہ) کو مد کے سات کھینچ کر یا ”اکبر“ کے یا کو اشباع کے ساتھ (امالہ کے ساتھ) اس طرح پڑھے کہ ”اکبار“ ہو جائے تو نماز درست نہیں ہوگی۔

(فصل)

نماز میں تکبیرات کی تعداد:

دو رکعت والی نماز میں گیارہ تکبیرات تین رکعت والی میں سترہ تکبیرات، اور چار رکعت والی میں بائیس تکبیرات مشروع ہیں، کیونکہ ہر رکعت میں پانچ تکبیرات ہیں ایک رکوع کے لئے چار دونوں سجدوں میں جانے اور اس سے اٹھنے کے لئے اور ایک تکبیر تحریر یہ اور ایک تشہد اول سے اٹھتے ہوئے۔

پھر یہ تمام تکبیرات سنت ہیں، اس لئے اگر کوئی جان بوجھ کر یا بھول سے اسے ترک کر دے تو نہ اسکی نماز باطل ہوگی، نہ ایسا کرنا حرام ہوگا، اور نہ ہی اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، البتہ تکبیر تحریر یہ (فرض یا شرط ہونے کی وجہ سے) ضروری ہے اس کے بغیر بالاتفاق نماز درست نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم

(باب-۳)

تکبیر تحریمہ کے بعد کی دعاء

تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنے والی دعاؤں کے بارے میں متعدد احادیث میں مختلف دعاؤں کا ذکر آیا ہے، ان تمام کے مجموعہ کا خلاصہ اس طرح سب کو جمع کر کے پڑھنا ہے۔

۱۱۸ - اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ، وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَأَعْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، جَمِيعًا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ ، لِيَبْكُكَ وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَابُكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“ (۱)

اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہی کے لئے بکثرت تعریفیں ہیں، اللہ کے لئے پاکی ہے، صبح و شام، میں اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، باطل ادیان کو چھوڑ کر دین کو اختیار کر کے اور اسلام کا تبع بن کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے

نہیں ہوں، بلاشبہ میری نماز میری عبادت میری زندگی اور موت اللہ ہی سے اور اللہ ہی کے لئے ہے، جو سارے جہان کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، اے اللہ تو ہی بادشاہ مطلق ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا معترف ہوں تو میرے سارے گناہ بخش دے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، اور تو مجھے سب سے اچھے اخلاق کی ہدایت دے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی اس کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ہم سے اخلاق کی برائی کو دور فرما تیرے سوا اور کوئی اسے دور نہیں کر سکتا، میں حاضر ہوں اور تجھ سے خوش ہوں اور ساری بھلائی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے اور ہم برائی تیری طرف منسوب نہیں کرتے، میں تیرے ہی سہارے ہوں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تیری ذات پاک و برتر ہے، میں تجھ سے مغفرت چاہتا اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔

اور اس کے ساتھ یہ بھی کہے:

۱۱۹ - "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقِي الثَّوْبَ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالْبَرَدِ" (۱)

اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری فرما جس طرح کہ مشرق و مغرب کے درمیان فرمایا ہے، اے اللہ تو مجھے

گناہوں سے دھو کر صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا گندگی سے
دھو کر صاف کیا جاتا ہے، اے اللہ تو میرے گناہوں کو برف، پانی اور
اولوں سے دھو دے۔

یہ ساری دعائیں صحیح احادیث رسول ﷺ سے ثابت ہیں، اس کے علاوہ بھی اس باب
میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے:

۱۲۰ - حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نماز شروع کرتے تو کہتے:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“ (۱)

میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اے اللہ، تیری حمد و ثناء کے ساتھ تیرا
نام بہت برکت والا اور تیری شان بہت بلند و برتر ہے اور تیرے سوا
کوئی اور لائق عبادت نہیں۔

اس کی روایت امام ترمذی ابو داؤد و نسائی نے بسند ضعیف کی ہے اور ان حضرات کے
علاوہ امام بیہقی نے بھی اس کی تخریج کرنے کے بعد اس کی اور ابو سعید خدری کی روایت کو
ضعیف قرار دیا ہے۔ (۲)

امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ“ کے ساتھ نماز شروع
کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور حضرت انسؓ سے مرفوعاً روایت منقول ہے،
مگر وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اس میں سب سے صحیح روایت وہ ہے جو حضرت عمر بن الخطابؓ
سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تکبیر کہا پھر فرمایا:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“

(۱) سنن ترمذی، ۲۳۳، سنن ابی داؤد، ۷۷۶، سنن ابن ماجہ، ۸۰۶

(۲) دیکھئے: ابو داؤد، ۷۷۵، ترمذی، ۲۳۲، نسائی، ۸۹۹، ابن ماجہ، ۸۰۲، بیہقی، ۳۳/۷

میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اے اللہ تیری حمد و ثناء کے ساتھ،
تیرا نام بہت برکت والا، اور تیری شان بہت بلند و برتر ہے، اور
تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

۱۲۱ - بیہقی کی روایت ہے کہ حارثؓ، حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
جب نماز شروع کرتے تو فرماتے :

”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَعَمِلْتُ سُوءًا
فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَجْهْتُ وَجْهِي“ (۱)
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں نے
اپنے اوپر ظلم کیا اور برا عمل کیا، تو مجھے بخش دے کیونکہ گناہوں کو تیرے
سوا کوئی اور بخش نہیں سکتا، میں اپنا رخ تیری طرف پھیرتا ہوں، اے الخ۔

یہ حدیث ضعیف ہے اس کے راوی ”حارث اعور“ ہیں، ان کے ضعیف ہونے پر
تمام محدثین کا اتفاق ہے، امام شعبی فرماتے ہیں کہ حارث کذاب (جھوٹا) ہے، البتہ یحییٰ بن
معین نے ان کی توثیق کی ہے۔ اوپر کی حدیث میں ایک لفظ ”وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ“ آ رہا
ہے، کہ شر تیری طرف طرف نہیں، اس لئے اس کی وضاحت ضروری ہے۔

تمام اہل حق، محدثین، فقہاء و متکلمین، صحابہ و تابعین اور ان کے بعد والے تمام علماء
اسلام کا مذہب یہ ہے کہ ساری کائنات خیر ہو یا شر، نفع ہو یا نقصان سب کچھ اللہ کی طرف سے
ہے، اور اس کی تقدیر و مشیت اور علم و ارادے سے ہے، اور جب یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے
ہے تو اس حدیث کی تاویل ضروری ہے، علماء نے اس کے کئی جوابات تحریر فرمائے ہیں اس میں
سے ایک مشہور قول جس کے قائل نصر بن شمیل اور ان کے بعد کے ائمہ ہیں یہ ہے کہ: اس کا
مفہوم اسی طرح ہے: ”کہ شر و برائی کے ذریعہ آپ کا تقرب حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔“

دوسرا قول یہ ہے کہ: ”برائی نیکیوں کی طرح آپ کی طرف نہیں بھیجی جاتیں، بلکہ آپ

کی طرف نیکیاں اٹھا کر لے جائی جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَصْعَدُهَا“

تیسرا قول یہ ہے کہ برائی کی نسبت آپ کی طرف کرنا ادباً مناسب نہیں جیسے آپ کو خالق شر، (شر کو پیدا کرنے والا) کہنا مناسب نہیں، اگرچہ شر کا خالق بھی وہی ہے جس طرح کہ وہ خیر کا خالق ہے، یا جس طرح ”خالق خنزیر“ (سور کو پیدا کرنے والا) کہنا مناسب نہیں اگرچہ اس کا پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے۔

اور چوتھا قول یہ ہے کہ: ہم جسے شر کہہ رہے ہیں یا شر سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی حکمت کے اعتبار سے برائی نہیں، کیونکہ آپ کسی چیز کو بیکار و عبث پیدا نہیں فرماتے واللہ اعلم۔

(فصل)

یہ تمام دعائیں کس کیلئے مناسب ہیں اور کس کیلئے نامناسب :

یہ وہ اذکار ہیں جو شروع نماز کی دعاؤں میں وارد ہوئی ہیں، اس لئے تنہا نماز پڑھنے والوں کو یا اگر مقتدی اجازت دیں تو امام کو ان تمام دعاؤں کو بجالانا مستحب ہے اگر مقتدی کی اجازت نہ ہو تو امام کا اس کے ذریعہ نماز کو طول دینا مناسب نہیں، بلکہ صرف بعض دعاؤں پر ہی اکتفاء کرنا افضل ہے۔

امام یا ایسا منفر دجو ہلکی نماز پڑھنے کو ترجیح دے رہا ہو، اس کا ”انسی وجہت وجہی۔

من المسمین تک“ پر ہی اکتفاء کرنا مستحب ہے۔

یاد رکھیں کہ نماز فرض ہو یا نقل یہ اذکار ان سب میں مستحب ہیں، لہذا اگر اسے پہلی رکعت میں جان بوجھ کر یا بھول کر چھوڑ دے تو بعد والی رکعات میں اسے نہ پڑھے، کیونکہ اس کا مقام جو کہ پہلی رکعت کی ابتدا تھی، فوت ہو چکا ہے، اور اگر درمیان میں پڑھ لیتا ہے تو مکروہ ہوگا، نماز باطل نہیں ہوگی، اسی طرح اگر اس نے تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد اسے ترک کر دیا یہاں تک کہ امام نے قراءت یا تعوذ شروع کر دیا تو بھی اس کا مقام فوت ہو گیا اب اسے نہ پڑھے، اور اگر پڑھ لیتا

ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔

اگر مقتدی مسبوق ہے، درمیان کی کسی رکعت میں آکر امام کے ساتھ ملتا ہے تو شروع کرتے وقت اسے پڑھ لے بشرطیکہ اس میں مشغول ہونے سے سورہ فاتحہ کے فوت ہونے کا خطرہ نہ ہو، اگر اس کا خطرہ ہو تو اسے ترک کر دے اور سورہ فاتحہ پڑھے کیونکہ وہ زیادہ مؤکد و واجب ہے، (یہ مسلک شوافع میں ہے نہ کہ احناف کے نزدیک) جبکہ مذکورہ دعائیں سنت ہیں۔

اور اگر مقتدی امام سے قیام کے علاوہ کسی اور حالت میں ملے مثلاً رکوع سجود یا تشہد وغیرہ میں تو امام کے ساتھ تحریمہ باندھ کر وہی دعاء پڑھے یا ذکر کرے جو اس حالت میں امام پڑھ رہا ہے اور نماز شروع کرتے وقت کی دعاء افتتاح اس حالت میں یا اس کے بعد نہ پڑھے۔

نماز جنازہ کے اندر دعاء افتتاح کے مستحب ہونے یا نہ ہونے میں حضرات شوافع کے درمیان اختلاف ہے، اور صحیح قول کے مطابق مستحب نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ مبنی بر تخفیف و اختصار ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ دعاء افتتاح سنت ہے نہ کہ واجب، اس لئے اگر وہ چھوٹ جائے یا چھوڑ دے تو اس پر سجدہ سہولاً لازم نہیں اسے آہستہ پڑھنا مستحب ہے، اگر زور سے پڑھے تو مکروہ ہوگا مگر نماز باطل نہیں ہوگی۔

(باب -۴)

دُعَاءِ اسْتِفْتَا حِ كِ بَعْدِ تَعْوِذِ پڑھنا:

دُعَاءِ اسْتِفْتَا حِ كِ بَعْدِ تَعْوِذِ (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) پڑھنا بالاتفاق سنت ہے، اور یہ قراءت سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

جمہور علماء کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کا ارادہ ہو تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ ضرور پڑھ لیا جائے، اس کے منتخب الفاظ یہ ہیں:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں مردو شیطان سے۔

تیزیہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔

”أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“

میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو خوب سنے والا اور خوب علم والا ہے، مردود

شیطان سے۔

مگر مشہور منتخب قول پہلا ہی ہے۔

۱۳۲ - سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ و بیہقی، وغیرہ میں مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز میں قراءت سے قبل کہا کرتے تھے:

”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمَزِهِ“

میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، مردود شیطان اور اس کے غرور و وساوس سے

جنون و خطرات اور اس کے اشعار و فریب سے۔

ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں :

۱۳۳ - ”أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ هَمَزِهِ

وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ“ (۱)

میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی جو خوب سنے والا اور خوب علم والا ہے، مردود شیطان

اور اس کے وساوس اس کے جنون تکبر، اور اس کے فریب و سحر سے۔

حدیث کی کتابوں میں اس کی تفسیر یوں آئی ہے کہ ”ہمزہ“ سے مراد جنون، اور

”نفخہ“ سے مراد کبر و غرور اور ”نفثہ“ سے مراد اشعار ہیں۔

(۱) دیکھیے: ابوداؤد: ۷۶۳-۷۷۵، ترمذی: ۲۳۲، تحفہ: ۲۲۵۲، بحوالہ نسائی، ابن ماجہ:

(فصل)

تعوذ کا حکم :

تعوذ پڑھنا مستحب ہے نہ کہ واجب، اس لئے اگر اسے ترک کر دے خواہ عمداً ہو یا سہواً تو وہ گنہگار ہوگا نہ اس کی نماز باطل ہوگی اور نہ سجدہ سہو ضروری ہوگا، یہ تمام نمازوں میں خواہ فرض ہو یا نفل مستحب ہے، نماز جنازہ میں بھی صحیح قول کے مطابق یہ مستحب ہے، نماز سے باہر قرآن کی تلاوت کرنے سے ہر شخص کے لئے یہ بالاجماع مستحب ہے۔

(فصل)

مقام تعوذ

تعوذ پہلی رکعت میں بالاتفاق مستحب ہے، اگر پہلی رکعت میں نہ پڑھ سکے تو دوسری رکعت میں پڑھ لے، اگر اس میں نہ پڑھ سکے تو اس کے بعد پڑھ لے، اگر پہلی رکعت میں پڑھ چکا ہے تو دوبارہ دوسری رکعت میں پڑھنا مستحب ہے یا نہیں؟ اس میں علماء شوافع کے دو قول ہیں، اور صحیح قول یہ ہے کہ دوسری میں بھی مستحب ہے مگر پہلے کی تاکید زیادہ ہے۔

جس نماز میں آہستہ قراءت کی جاتی ہے، اس میں تعوذ آہستہ کہے اور جس میں باواز بلند کی جاتی ہے اس میں تعوذ آہستہ کہے یا بلند آواز سے؟ اس میں بھی علماء شوافع کا اختلاف ہے، کچھ علماء آہستہ پڑھنے کو کہتے ہیں، مگر جمہور علماء شوافع اور خود امام شافعی علیہ الرحمہ کا ایک قول یہ ہے کہ آہستہ یا زور سے پڑھنا یکساں ہے جس طرح چاہے پڑھے، امام شافعی کا یہ قول ”الام“ کی تصریح ہے، امام صاحب کا دوسرا قول یہ ہے کہ زور سے پڑھنا سنت ہے اور یہ ”الاعلاء“ کی تصریح ہے۔

انہی علماء میں سے بعضوں کا دو قول اور ہے، ایک یہ کہ باواز بلند کہا جائے، اس کو عراقی علماء شوافع کے امام شیخ ابو حامد الاسفرائینی اور ان کے شاگرد حاکمی وغیرہ نے درست قرار دیا ہے،

اور اسی پر حضرت ابو ہریرہ کا عمل تھا، جبکہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے آہستہ کہا کرتے تھے، اور یہی آخری بات جمہور علماء شوافع اور احناف کے نزدیک زیادہ صحیح اور پسندیدہ ہے، واللہ اعلم۔

(باب-۵)

تعوذ کے بعد قراءت

نماز میں قرآن کی تلاوت ظاہری نصوص اور اجماع امت سے واجب ہے، ہمارا اور جمہور کا مذہب ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے پر قادر شخص کا دوسری آیات و سورتوں کا پڑھنا فاتحہ کے قائم مقام نہیں ہوگا، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

“لَا تُجْزِي صَلَاةً لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ”
وہ نماز کافی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔

(اس کی روایت ابن خزیمہ و ابن حبان نے اپنی صحیحین میں بسند صحیح کر کے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

“لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ”
سورہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں۔

احناف کی رائے بھی یہی ہے کہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک مکمل آیت ہے۔ سورہ فاتحہ کو تمام حروف و تشدیدات کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اس صورت میں چودہ تشدیدات ہیں، تین بسم اللہ ہیں اور باقی گیارہ اس کے بعد الحمد سے الضالین تک کسی ایک حرف شدہ میں بھی اگر کسی نے غلطی کی تو اس کی قراءت باطل ہو جائے گی۔

قرآن کو ترتیب سے پے درپے پڑھنا چاہئے، اگر ترتیب یا موالاتہ (پے درپے کرنا)

ترک کر دے تو قراءت درست نہ ہوگی، البتہ سانس لینے کی حد تک قراءت کے درمیان خاموش رہنا عذر تصور کیا جائے گا، اگر مقتدی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے دوران امام کے سجدہ تلاوت کرنے کے ساتھ سجدہ کیا یا آمین کے ساتھ آمین کہا، یا امام کی قراءت کے دوران رحمت کا سوال یا جہنم سے پناہ مانگی تو اسکی سورہ فاتحہ کی قراءت صحیح قول کے مطابق منقطع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان حالات میں معذور ہے۔

(فصل)

لحْن کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنا:

اگر سورہ فاتحہ لحن کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ اس کا مفہوم بگڑ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائیگی، اگر مفہوم نہ بگڑے تو قراءت درست ہوگی، مفہوم بگڑنے کی صورت یوں ہو سکتی ہے، کہ مثلاً ”اَنْعَمْتَ كُو اَنْعَمْتُ يَا اَنْعَمْتِ“ پڑھے، یا ”ایاک نعبد“ کو کاف کے زیر کے ساتھ پڑھے — اور مفہوم نہ بگڑنے کی صورت یوں ہے کہ مثلاً ”رب العالمین“ میں ب کو ز بر یا پیش کے ساتھ پڑھے، یا ”نستعین“ میں دوسرے نون کو پیش کے بجائے ز بر یا زیر کے ساتھ پڑھے۔

اگر ”ضالین“ کے ضاد کو ”طاء“ کے مخرج سے پڑھتا ہے تو اس کی نماز راجح قول کے مطابق باطل ہو جائے گی الا یہ کہ وہ ضاد کا مخرج تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ادا کرنے سے قاصر رہے، تو ایسی صورت میں اسے معذور سمجھا جائے گا۔

(فصل)

سورہ فاتحہ اچھی طرح نہ پڑھنے والے کا حکم:

اگر سورہ فاتحہ اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو تو اس کے بعد دوسری آیت پڑھے اگر قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ پڑھ سکتا ہو تو سورہ فاتحہ کے بقدر دوسرے اذکار تسبیحات، اور تحمید و تہلیل پڑھے،

اور اگر ان اذکار و تسبیحات کو بھی اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہو اور تنگی وقت کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے کی گنجائش نہ ہو تو قراءت کے بقدر کھڑا رہے، پھر رکوع کرے اور اس طرح اس کی نماز ادا ہو جائیگی، بشرطیکہ اس نے تعلیم حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کی ہو۔

اگر اس نے تعلیم حاصل کرنے میں کوتاہی کی، تو نماز کو لوٹانا واجب ہوگا، بہر حال جب اسے تعلیم حاصل کرنے پر قدرت ہو، وہ سورہ فاتحہ کو سیکھے، اگر وہ سورہ فاتحہ کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ادا کر سکتا ہو اور عربی میں اداء نہیں کر سکتا تو غیر عربی میں سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا اس کے لئے جائز نہیں، بلکہ ایسی حالت میں اسے معذور شمار کیا جائے گا، اس کے بدلے وہ ان اذکار و تسبیحات کو پڑھے جس کا اوپر ذکر ہوا۔

(فصل)

سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت یا آیت ملانا :

سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کسی سورت کا کچھ حصہ پڑھے، اور اس کو ملانا سنت ہے اگر کوئی شخص اسے ترک کر دے تو اس کی نماز درست ہوگی اور اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا خواہ نماز نفل ہو یا فرض یا واجب۔

نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورہ یا آیت کو ملانا صحیح قول کے مطابق مستحب نہیں، کیونکہ یہ تخفیف و اختصار پر مبنی ہے، سورت ملانے میں نمازی کو اختیار ہے چاہے تو کوئی مکمل سورت پڑھے یا کسی سورت کا کچھ حصہ، البتہ بڑی سورت کے کچھ حصہ کو پڑھنے سے افضل چھوٹی مکمل سورت پڑھنا ہے، اسی طرح قرآن کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورت کا پڑھنا مستحب ہے (جبکہ احتیاف کے نزدیک واجب ہے) لہذا دوسری رکعت میں وہ سورت پڑھے جو پہلی رکعت میں پڑھی گئی سورت کے بعد ہو، اور اگر اس کے برخلاف پڑھے تو (شوائف کے نزدیک) جائز مگر خلاف اولیٰ ہے۔ سنت یہ ہے کہ کسی سورت کی قراءت سورہ فاتحہ کے بعد ہو اگر سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھے تو یہ سورت کا ملانا شمار نہ ہوگا۔

یاد رکھیں کہ سورت ملانے کے استحباب کا ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ امام منفرد یا ایسے مقتدی کے لئے ہے جو سری نماز میں امام کے پیچھے ہو، البتہ اگر نماز جہری ہے، جس میں امام باواز بلند قراءت کر رہا ہے تو اس میں اگر وہ امام کی آواز سن رہا ہے تو صرف سورہ فاتحہ کے پڑھنے پر اکتفاء کرے، اور اگر امام کی آواز نہیں سن رہا، یا صرف اس کی گنگا ہٹ سن رہا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو صحیح قول کے مطابق اس کے لئے سورت کا ملانا بایں طور مستحب ہے کہ دوسروں کو اس سے الجھن نہ ہو۔

احناف کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ہو یا کسی اور سورت کی قراءت نماز جہری ہو یا سری درست نہیں۔

(فصل)

مقدار قراءت:

سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں طوال مفصل، عصر و عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں قصار مفصل کی قراءت کرے، اگر امامت کر رہا ہو تو اس میں تخفیف سے کام لے کر ہلکی نماز پڑھائے الا ینکے اسے علم ہو کہ مقتدی حضرات لمبی نماز کو ترجیح دیتے ہیں۔

اور یہ بھی سنت ہے کہ جمعہ کے روز فجر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ آلم تنزیل (السجدہ) اور دوسری رکعت میں ”ہل اتسی علی الانسان“ (المدھر) پڑھے، اور دونوں سورتوں کو مکمل پڑھے۔ بعض حضرات کا ان دونوں سورتوں کے بعض حصہ کی تلاوت پر اکتفاء کرنا خلاف سنت عمل ہے۔

عیدین اور استقواء کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ”قی“ اور دوسری رکعت میں سورہ ”القمر“ (اقتربت الساعة) پڑھنا مسنون ہے، اگر چاہے تو پہلی رکعت میں ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“ اور دوسری رکعت میں ”ہل اتساک حدیث الغاشیہ“ پڑھے کیونکہ یہ بھی سنت ہے۔

نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ المنافقون پڑھنا سنت ہے، اور اگر چاہے تو پہلی رکعت میں ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“ اور دوسری رکعت میں ”هل اتاک حدیث الغاشیہ“ پڑھے یہ بھی سنت ہے، ان مواقع اور ان نمازوں میں سورت کے بعض حصوں پر اکتفاء کرنے سے پرہیز کرے۔ اگر تخفیف اور ہلکی نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو روانی سے جلد بازی کے بغیر پڑھے۔

نماز فجر کی دو رکعت سنت کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد

”قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا“ اور دوسری رکعت میں ”قل یا اهل الكتاب تعالوا الی کلمۃ سواء“ پڑھنا سنت ہے، اگر چاہے تو پہلی رکعت میں ”قل یا ایہا الکافرون“ اور دوسری رکعت میں ”قل هو اللہ احد“ پڑھے۔

۱۲۶ - صحیح مسلم میں دونوں طرح سے پڑھنا صحیح نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے، (۱) اور مغرب کے بعد کی دو رکعت سنت، طواف کے بعد کی دو رکعت واجب، اور نماز استحارہ کی پہلی رکعت میں ”قل یا ایہا الکافرون“ اور دوسری رکعت میں ”قل هو اللہ احد“ پڑھنا سنت ہے۔
(۱) دیکھئے: مسلم ۷۲۷-۷۲۶

۱۲۷ - وتر اگر تین رکعت پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“ دوسری رکعت میں ”قل یا ایہا الکافرون“ اور تیسری رکعت میں ”قل هو اللہ احد“ معوذتین (قل اعوذ برب الفلق اور قول اعوذ برب الناس) کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔

میں نے جو کچھ اس جگہ ذکر کیا ہے اس سے متعلق صحیح مشہور احادیث کتب صحاح اور دیگر کتب حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ (۱)

اس کی شہرت کی بنا پر میں نے اس کے ذکر کو نظر انداز کر دیا ہے۔

(فصل)

پہلی رکعت کی قراءت کا تدارک دوسری رکعت میں کرنا:

اگر نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ چھوٹ جائے تو دوسری رکعت میں سورہ منافقون کے ساتھ پہلے اسے پڑھے اسی طرح عیدین، استسقاء، وتر، فجر کی سنت وغیرہ میں جس کا ذکر اوپر ہوا، اگر پہلی رکعت کی مسنون سورت چھوٹ جائے تو دوسری رکعت کی سورت کے ساتھ پہلے اسے پڑھے تاکہ وہ نماز ان دونوں سورتوں سے خالی نہ رہ جائے اور اگر نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ ”المنافقون“ پڑھ لیا تو دوسری رکعت میں (فقہ شافعی میں اس کی اجازت ہے نہ کہ فقہ حنفی میں) سورہ جمعہ پڑھے اور ”منافقون“ کو دوبارہ نہ پڑھے، ایسا کیوں کرنا چاہئے؟ اس کی تفصیل مع دلائل میں نے ”شرح المہذب“ میں درج کر دی ہیں۔

(فصل)

پہلی رکعت کو لمبا کرنا:

۱۲۸ - حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز فجر یا دیگر نمازوں کی دوسری رکعت کو جتنا طویل کرتے اس سے کہیں زیادہ پہلی رکعت کو طویل دیتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطَوِّلُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ وَغَيْرِهَا مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ.

رسول اللہ ﷺ فجر اور غیر فجر کی نمازوں میں پہلی رکعت کو اتنا طویل کرتے تھے جتنا دوسری رکعت کو نہیں کرتے تھے۔

ہمارے بعض علماء شوافع نے اس کی تاویل کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مفہوم ہے

”ان لا يطول الاولى على الثانية“ پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے زیادہ طویل نہ کرے، لیکن محققین علماء نے اسی صحیح حدیث کی وجہ سے پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے بنسبت زیادہ

طویل کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، اور ان سبھوں کا اتفاق ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت پہلی اور دوسری رکعت سے چھوٹی و مختصر ہو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ تیسری و چوتھی رکعت میں سورت ملانا مستحب ہے، ہی نہیں، اور اگر مستحب کہا بھی جائے تو تیسری رکعت چوتھی کی طرح اور اس کے برابر ہوگی، بعض حضرات نے تیسری کو چوتھی سے قدرے لمبا کرنے کے بارے میں بھی کہا ہے۔

(فصل)

نماز میں جہر و اخفاء کا مقام:

تمام علماء کا اجماع ہے کہ نماز فجر اور مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعت میں جہر کیا جائے گا (باواز بلند قراءت کی جائے گی) اور ظہر، عصر اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری و چوتھی رکعت میں آہستہ قراءت کی جائے گی۔ جمعہ عیدین، تراویح اور تراویح کے بعد وتر میں جہر کیا جائے گا، یہ امام و منفرد ہر ایک کے لئے مستحب ہے، اللہ مقتدی بالا اجماع اس میں سے کسی کے اندر جہر نہیں کر سکتا۔

چاند گرہن کی نماز میں جہر کرنا، سورج گرہن کی نماز میں اخفاء کرنا نماز استسقاء (طلب بارش کی نماز) میں جہر کرنا اور نماز جنازہ دن میں ہو یا رات میں صحیح قول کے مطابق آہستہ پڑھنا مسنون ہے۔ اور دن کی نفل نمازوں میں جہر کرنا درست نہیں، سوائے ان نمازوں کے جس کا ذکر اوپر آیا یعنی عیدین و استسقاء کی نمازیں۔

رات کی نوافل کے بارے میں علماء شوافع کا اختلاف ہے کہ اس میں جہر ہوگا یا نہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ جہر نہیں کیا جائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ کیا جائیگا، اور تیسرا راجح قول جسے قاضی حسین اور امام بغوی نے قول فیصل قرار دیا ہے، یہ ہے کہ نہ بالکل زور سے پڑھے اور نہ ہی بالکل آہستہ، بلکہ جہر و اسراء کے درمیان کا راستہ اختیار کرے (احناف کے نزدیک نمازی کو اختیار ہے، مگر آہستہ پڑھنا افضل ہے) اور اگر رات کی نوافل شدہ نماز کی قضاء دن میں کر رہا ہے

یادوں کی فوت شدہ نماز کی قضاء رات میں کر رہا ہے تو اس میں فوت کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا، یا قضاء کے وقت کا؟ اس میں دو قول ہے، قول ظاہر یہ ہے کہ قضاء کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا اور دوسرا قول مطلقاً آہستہ پڑھنے کا ہے۔

(احناف کے نزدیک دن کی فوت شدہ نماز کی قضاء آہستہ پڑھ کر کریگا خواہ قضاء دن میں کر رہا ہو یا رات میں، اور رات کی نماز کی قضاء خواہ دن میں کرے یا رات میں نمازی کو اختیار ہے کہ آہستہ پڑھے یا باواز بلند، البتہ اس کی اصلی حالت پر یعنی جہر کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اگر قضاء باجماعت کر رہا ہے تو اعتبار فوت کے وقت کا ہے نہ کہ قضاء کے وقت کا) یہ بات ذہن میں رہے کہ جہر کے اوقات میں جہر کرنا یا سر کے (آہستہ کے) اوقات میں کرنا سنت ہے واجب نہیں، اگر سسر کی جگہ جہر کرے، یا جہر کی جگہ آہستہ پڑھے تو اس کی نماز درست ہوگی، مگر مکروہ تنزیہی کا مرتکب ہوگا اور سجدہ سہو ضروری نہیں ہوگا، (احناف کے نزدیک چونکہ دن کی نماز میں سر کرنا اور رات کی نماز میں جہر کرنا واجب ہے، اس لئے اس کے برعکس کرنے کی صورت میں نماز کی درستگی کے لئے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے) اور پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ نماز میں آہستہ پڑھنا خواہ قرآن کا ہو یا دیگر اذکار کا تب ہی معتبر ہے جبکہ کم از کم خود سن سکے اور سماع میں کسی خلل کے نہ ہونے کے باوجود اگر خود بھی نہ سن سکے تو اس قراءت یا ذکر کا اعتبار نہیں۔

(فصل)

نماز میں مشروع سکتوں کی تعداد:

شوافع کے نزدیک جہری نماز میں امام کے لئے چار سکتے کرنا (تھوڑی خاموشی اختیار کرنا) مستحب ہے، ایک تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد دعاء افتتاح (نماز شروع کرنے کی دعاء پڑھنے) کے لئے دوسری سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد معمولی سکتہ فاتحہ اور آمین کے درمیان فصل کرنے کے لئے، یعنی اس بات کے اظہار کے لئے آمین سورہ فاتحہ کا جزء نہیں تیسرے آمین کے بعد اتنا لبا سکتے

کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکے اور چوتھا سورہ کی قراءت سے فارغ ہو کر رکوع میں جانے کی تکبیر اور قراءت کے درمیان فصل کرتے ہوئے۔

نوٹ: شوافع کے مذکور قول کی کہ نماز میں چار سکتات ہیں، اس کی کوئی واضح دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں، اسی طرح امام مالک کا قول کہ نماز میں کوئی سکتہ نہیں اور امام پردعاء استفتاح نہیں خلاف سنت ہے، اس کے اندر صحیح و راجح قول دو ہیں، ایک یہ کہ نماز میں صرف ایک سکتہ ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد دعاء استفتاح پڑھنے کے لئے اور یہی احتیاف کا مذہب ہے ان کی دلیل یہ احادیث ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً
قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَبَايَ أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ
سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ : قَالَ : أَقُولُ ،
اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا خَلَقْتَ

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز میں تکبیر تحریمہ کہتے تو قراءت سے پہلے تھوڑی دیر رکتے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ تکبیر و قراءت کے درمیان اپنے سکوت میں کیا پڑھتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا میں کہتا ہوں اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری فرما، (پھر پوری دعاء بے الثلج و الماء والبر تک ذکر کیا)

ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ سَكْنَةٌ إِذَا

(۱) متفق علیہ، واللفظ لمسلم بخاری، ۱۳۲، فتح الباری: ۷۳۳، مسلم ۹۶/۵

اَفْتَحَ الصَّلَاةَ.

کہ رسول اللہ ﷺ کا صرف ایک سکتہ ہوا کرتا تھا جبکہ نماز شروع کرتے۔

اس کے علاوہ باقی سکتات کی حیثیت آیات کے درمیان توقف کرنے کی ہے، اور جن احادیث میں ایک سے زیادہ یا تین بار سکتہ کرنے کا ذکر ہے اس سے مراد طویل سکتہ نہیں بلکہ سانس لینے کے بقدر دو آیتوں کے درمیان توقف والا سکتہ ہے۔

جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ امام فاتحہ کے بعد اتنا طویل سکتہ کرے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکے، اس کے بارے میں حافظ ابن قیم فرماتے ہیں:

”وَبِالْجَمَلَةِ : فَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ أَنَّهُ كَانَ سَكَتَ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ حَتَّى يَقْرَأَهَا مِنْ خَلْفِهِ ، وَلَيْسَ فِي سَكَوتِهِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْمَخْتَلَفُ فِيهِ كَمَا رَأَيْتَ وَلَوْ كَانَ يَسْكَتُ هُنَا سَكْتَةً طَوِيلَةً يُدْرِكُ فِيهَا قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لَمَا اخْفَتَى ذَلِكَ عَلَى الصَّحَابَةِ وَلَكِنْ مَعْرِفَتُهُمْ بِهِ وَنَقْلُهُمْ إِيَّاهُمْ مِنْ

سَكْتَةِ الْاِفْتِاحِ“ (۱)

خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سے نہ کسی صحیح حدیث سے اور نہ ہی کسی ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ سورہ فاتحہ کے بعد سکوت اختیار کرتے ہوں کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آپ کے سکوت سے متعلق صرف یہی حدیث ہے (حمید الطویل والی) جو مختلف فیہ ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا، اگر آپ اس جگہ اتنا طویل سکتہ کبھی کرتے کہ اس میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکے تو یہ بات صحابہ سے مخفی نہیں رہتی، اور افتتاح کے سکتہ سے بڑھ کر انہیں اس کا علم ہوتا اور اس سے زیادہ

اہمیت کے ساتھ اسے نقل کیا جاتا، مگر ایسا کسی بھی صحابی نے نہیں کیا۔

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں:

ومعلوم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان یسکت سکتہ
تتسع لقراءة الفاتحة لکان هذا مما تتوفر اللہم والدواعی
علی نقله فلما لم ینقل هذا احد علم انه لم یکن .

اور معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ اگر اتنا طویل سکتہ فرماتے کہ لوگوں کے
لئے فاتحہ پڑھنے کی گنجائش ہوتی تو صحابہ اسے نقل کرنے کے لئے ضرور
کمر بستہ ہوتے، اور جبکہ کسی بھی صحابی نے اسے نقل نہیں کیا تو اس سے
پتہ چلا کہ یہ ثابت نہیں (بعد کی پیدا کی ہوئی بات ہے)

حافظ ابن تیمیہ آگے فرماتے ہیں:

فلو كانت الصحابة کلہم یقرأون الفاتحة خلفه اما فی
السکتہ الاول واما فی السکتہ الثانية لکان هذا مما
تتوفر اللہم والدواعی علی نقله ؟ فكيف ولم ینقل احد
عن احد من الصحابة انہم كانوا فی السکتہ الثانية
یقرأون الفاتحة مع ان ذلك لو کان مشروعاً لکان
الصحابة احق الناس بعلمہ فعلم انه بدعة“ (۱)

اگر سارے صحابہ نبی کریم کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے خواہ تکبیر تحریر
کے بعد یا سورہ فاتحہ کے بعد تو اسے نقل کرنے کا ضرور اہتمام کیا جاتا، اور
اس کے لئے صحابہ ضرور کمر بستہ رہتے، پھر اس کے پڑھنے کی بات کیسے
کہی جاسکتی ہے، جبکہ کسی نے بھی صحابی سے نقل نہیں کیا کہ وہ سکتہ ثانیہ
میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں، حالانکہ اگر یہ جائز و مشروع ہوتا تو لوگوں

(۱) دیکھئے: الفتاویٰ الکبیری لابن تیمیہ: ۲/ ۱۷۲

کے بہ نسبت صحابہ اس کا علم زیادہ رکھتے، اور وہ اس کے علم کے زیادہ
 حقدار و مستحق تھے تو اسی سے پتہ چلا کہ یہ سکوت بدعت ہے۔

حافظ ابن تیمیہ ایک جگہ اور فرماتے ہیں:

”ولم نعلم نزاعاً بین العلماء انه لا یجب علی الامام ان
 یسکت لیقرأ المأموم الفاتحة ولم یستجبه أحمد ولا
 مالک ولا ابو حنیفہ، وکذا جماہیر العلماء لا یستحبون
 ان یسکت الامام لیقرأ المأموم لان قراءة المأموم عندهم
 اذا جهر الامام لیست بواجبة ولا مستحبة بل منہی ولم
 یتقل عنه صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یسکت سکتہ
 تسع لقراءة الفاتحة ولا عن الاصحابہ انہم کانوا فی
 السکتہ الثانیة یقرأونہا ولو کان مشروعاً لکانوا احق
 الناس بعلمہ فعلم انه بدعة“ (۱)

ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکا کہ کسی علماء کا اس میں اختلاف رہا ہو کہ مقتدی
 کے فاتحہ پڑھنے کے لئے امام کارکنا اور سکوت کرنا ضروری ہے، اسے
 نہ تو امام احمد نے پسند کیا ہے اور نہ ہی امام مالک و ابو حنیفہ و جمہور علماء
 نے یہ سب کے سب مقتدی کے فاتحہ پڑھنے کے لئے امام کے سکوت کو
 ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ ان سبھوں کے نزدیک امام جب باواز بلند
 قراءت کرے تو مقتدی پر فاتحہ پڑھنا نہ واجب ہے نہ مستحب بلکہ
 ناجائز و ممنوع ہے اور نہ ہی نبی کریم ﷺ سے منقول و ثابت ہے کہ آپ
 اتنا سکوت و توقف فرماتے ہوں کہ اس میں فاتحہ پڑھنے کی گنجائش ہو،
 اور نہ ہی کسی صحابہ سے منقول و ثابت ہے کہ کسی نے اس سکوت میں فاتحہ

(۱) دیکھئے: الروض المرعب شرح زاد المستنقع: ۸۰/۱۶ و الفتاویٰ الکبریٰ و مجموع الفتاویٰ

پڑھا ہوا اگر اس کا پڑھنا جائز و مشروع ہوتا تو لوگوں کے یہ نسبت صحابہ کو یقیناً اس کا علم ہوتا (اور سکتے جیسی معمولی بات کو نقل کرنے سے زیادہ اسے نقل کرنے کا اہتمام کرتے) الغرض اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا (یعنی مقتدی کے فاتحہ پڑھنے کیلئے امام کا سکوت کرنا یا مقتدی کا اس میں فاتحہ پڑھنا) بدعت ہے۔

حمید الطویل والی روایت جس میں سرہ بن جندب اور عمران بن حصین کا مکالمہ اور ابی بن کعب کے پاس مکاتبہ و محاکمہ کا ذکر ہے وہ حدیث مؤول ہے، نیز وہ مضطرب بھی ہے، کبھی اس کے راوی یہ کہتے ہیں کہ قراءت کے بعد رکوع میں جانے سے قبل سکوت فرماتے اور کبھی یہ فرماتے ہیں کہ سوزہ فاتحہ کے بعد قراءت شروع کرنے سے قبل۔ بہر حال اگر اس کے اندر سکوت ہے بھی تو اس کی نوعیت سانس میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لئے آیات کے درمیان کے توقف کے بقدر ہے، جسے ہم سکتہ کا نام نہیں دے سکتے۔

(فصل)

آمین کہنا مستحب ہے :

سورہ فاتحہ سے فراغت کے بعد آمین کہنا مستحب ہے، اس کے فضائل اور اس میں مخفی اجر عظیم سے متعلق بے شمار صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں جو مشہور معروف ہیں سننے والا خواہ نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر، ہر ایک کے لئے آمین کہنا مستحب ہے، اس کے اندر چار لغات ہیں، پہلا قول جو زیادہ مشہور و فصیح ہے ”آمین“ مداور تخفیف کے ساتھ ہے۔ دوسرا مد کے بغیر تخفیف کے ساتھ ہے، تیسرا قوال امالہ کے ساتھ اور چوتھا قول مداور تشدید کے ساتھ ”آمین“ ہے۔ پہلے دونوں اقوال زیادہ مشہور ہیں دوسرے اور تیسرے قول کو واحدی نے ”البسیط“ کے شروع میں نقل کیا ہے، مگر صحیح و راجح قول پہلا ہی ہے، ان لغات کی تفصیل و تشریح اور اس کے مفہوم کی توضیح و تحقیق اور اس کے دلائل اور تمام متعلقہ امور کو میں نے اپنی کتاب ”تہذیب

الاسماء واللغات“ میں منصل ذکر کر دیا ہے۔

نماز میں آئین کہنا امام مقتدی اور منفرد ہر ایک کے لئے مستحب ہے (شوافع وغیرہ کے نزدیک) جہری نماز میں امام یا منفرد آئین زور سے کہے اور شوافع کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ مقتدی بھی خواہ تھوڑے ہوں یا زیادہ آئین زور سے کہیں (احناف کے نزدیک زور سے کہنا بلا کراہت جائز و درست ہے، البتہ آہستہ کہنا عام دعاؤں کی طرح افضل ہے) اور مستحب یہ ہے کہ مقتدی کا آئین کہنا امام کے آئین کے ساتھ ہونہ پہلے ہونہ بعد میں — نماز میں آئین کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں امام و مقتدی دونوں کا قول ایک ساتھ بیک وقت ہو آئین کے علاوہ تمام جگہوں میں مقتدی کا قول امام کے کہنے کے بعد ہے۔

(فصل)

آیات رحمت و عذاب کی تلاوت کے وقت کیا کرنا چاہئے:

نمازی یا غیر نمازی کے لئے سنت ہے کہ قرآن کی تلاوت کے دوران جب کوئی آیت رحمت آئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرے، اور جب آیت عذاب آئے تو جہنم اور اس کے عذاب اور ہر طرح کے شر و ناگوار بات سے پناہ مانگے، اور ”اللهم انی اسئلك العافیة“ اے اللہ میں آپ سے عافیت کی درخواست کرتا ہوں (یا اسی طرح کی دعائیں مانگے، اور جب اللہ کی پاکی بیان کرنے والی آیات آئے تو اللہ کی پاکی بیان کرے اور ”سبحانہ و تعالیٰ“ (اس کی ذات بلند و بالا ہے) ”تبارک اللہ رب العالمین“ اللہ کی ذات جو سارے جہان کا رب ہے عظیم ہے ”جلت عظمۃ ربنا“ (میرے رب کی عظمت بہت بڑی ہے) یا اس طری کے تزیینی و تعظیمی کلمات ادا کرے۔

۱۶۹ - حضرت حدیفہ بن الیمانؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ :

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَحَ
الْبُقْرَةَ فَقُلْتُ يَرْكُوعٌ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّيُ بِهَا

فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ
فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ، يَقْرَأُ مَتْرُسَلًا وَإِذَا مَرَّ
بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ
ذُتَّعَوَّذَ“ (۱)

ایک رات میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھا تو آپ ﷺ نے سورہ بقرہ شروع کیا میں نے سمجھا (شاید) سوویں آیت پر رکوع کریں گے مگر آپ آگے بڑھ گئے میں نے سوچا کہ ایک رکعت میں پڑھیں گے پھر آپ آگے بڑھ گئے تو میں نے سوچا اس کو ختم کر کے رکوع کریں گے، مگر آپ نے سورہ آل عمران شروع کیا اور پورا پڑھا پھر سورہ نساء شروع کیا اور پورا پڑھا، آپ ٹھہر ٹھہر کر تر تیل سے پڑھتے اور جب کسی ایسی آیت سے گذرتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ تسبیح بیان کرتے جب کسی سوال والی آیت سے گذرتے تو اللہ سے سوال کرتے اور جب کسی تعوذ والی آیت سے گذرتے تو تعوذ و پناہ مانگتے تھے۔

ہمارے علماء شوافع فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح و سوال یا تعوذ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہر فرد کے لئے مستحب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز سے باہر امام ہو یا مقتدی، جماعت سے ہو یا منفرد، فرض ہو یا نقل، کیونکہ یہ دعاء ہے لہذا آمین کی طرح اس کے اندر سب برابر ہیں۔

نسوت : یہ مسلک امام شافعی علیہ الرحمہ کا ہے، البتہ احناف و مالکیہ کے نزدیک فرض یا واجب نماز میں ایسا کرنا درست نہیں البتہ نقل میں جائز ہے، فرض یا واجب میں اس طرح کرنا نبی کریم ﷺ یا کسی صحابہ سے صحیح یا ضعیف کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں مذکورہ حدیث نقل کے بارے میں ہے)

اگر کوئی ”الیس اللہ باحکم الحاکمین“ پڑھے تو اس کے لئے ”بلی وانا

علی ذلک من الشاهدین“ (ہاں بیشک: اور میں اس کا گواہ ہوں) کہنا اور اگر ”الیس ذلک بقادر علی ان یجی الموتی“ پڑھے تو ”بلی اشہد“ (ہاں بیشک میں گواہی دیتا ہوں) کہنا اور اگر ”فبأی حدیث بعدہ یؤمنون“ پڑھے تو ”آمنت باللہ“ میں نے اللہ پر ایمان لایا کہنا اور اگر ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“ پڑھے تو ”سبحانہ ربی الاعلیٰ“ میرے رب کی ذات جو کہ بلند و بالا ہے پاک ہے“ کہنا مستحب ہے۔

اور (مسلم شافعی میں) ان تمام اذکار و تسبیحات کو نمازی وغیر نمازی سب کہے گا، اس کے دلائل میں نے کتاب ”التبیین فی آداب حملۃ القرآن“ میں ذکر کر دیئے ہیں۔

(باب-۶)

رکوع کے اذکار :

نبی کریم ﷺ سے واضح طور پر صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں کہ آپ ﷺ رکوع کے لئے تکبیر کہتے تھے، اور یہ کہ اس وقت تکبیر کہنا سنت ہے، اس کو ترک کرنا مکروہ تنزیہی ہے اور نماز (درست ہو جاتی) باطل نہیں ہوتی ہے اور نہ سجدہ سہولاًزم آتا ہے، یہی حکم نماز کی ساری تکبیرات کا ہے، سوائے تکبیر تحریمہ کے کہ یہ نماز کا ایک رکن ہے (احناف کے نزدیک شرط ہے) اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔

نماز کے اندر تکبیرات کی تعداد کا ذکر اس سے قبل ”نماز میں داخل ہوتے وقت کے اذکار میں آچکا ہے، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا ایک قول یہ ہے کہ ساری تکبیرات واجب ہیں۔ ان تکبیرات کو مد کے ساتھ (کھینچ کر) ادا کرنا چاہئے یا بغیر مد کے؟ اس میں امام شافعی کے دو قول ہیں صحیح اور قول جدید یہ ہے کہ رکوع کی حد کو پہنچنے تک کھینچنا مستحب ہے اس کے بعد تسبیح میں مشغول رہے تاکہ نماز کا کوئی حصہ ذکر سے خالی نہ رہے، بخلاف تکبیر تحریمہ کے کہ صحیح قول کے مطابق اس میں مد کے بغیر تکبیر کہنا مستحب ہے، کیونکہ اس وقت جلدی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت اس کو کھینچنے سے حضور قلب اور نیت میں دشواری ہو سکتی ہے، جبکہ اختصار

کے ساتھ اسے ادا کرنے میں نیت باندھنے میں اسے آسانی ہوگی۔ باقی تکبیرات کا حکم اسی طرح ہے جس کا ذکر اوپر آیا، اور اس کی تفصیل تکبیر تحریرہ کے بیان میں پہلے گزر چکی ہے۔

(فصل)

رکوع کی تسبیح کا بیان:

جب رکوع کی حد کو پہنچ جائے تو رکوع کے اذکار میں مشغول ہو جائے اور تین بار کہے،

”سبحان ربی العظیم“ پاک ہے عظمت والا میرا رب۔

۱۳۰ - صحیح مسلم میں حضرت حدیفہ ابن الیمانؓ کی روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے طویل رکوع میں جو سورہ بقرہ و نساء، و سورۃ آل عمران کی تلاوت کے بقدر طویل تھا، یہ کلمات یعنی ”سبحان ربی العظیم“ کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ﷺ اس طویل رکوع میں اسے مسلسل دہراتے رہے، جیسا کہ اس کی صراحت ابوداؤد وغیرہ کی روایت میں موجود ہے۔ (۱)

۱۳۱ - دیگر کتب سنن میں مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا فَقَدْتُمْ

رُكُوعَهُ. (۲)

جب تم میں سے کوئی تین بار سبحان ربی العظیم کہے تو اس کا

رکوع پورا ہو گیا۔

۱۳۲ - صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ اپنے رکوع و سجود میں کہا کرتے تھے۔

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“ (۳)

اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اے ہمارے رب تیری حمد

(۱) دیکھئے: مسلم: ۷۷۲، ابو داؤد: ۷۷۱

(۲) ابوداؤد: ۸۸۶، ترمذی: ۲۶۱، وابن ماجہ: ۸۹۰

(۳) صحیح مسلم: ۷۷۱

وثناء کے ساتھ، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔

۱۳۳ - صحیح مسلم میں حضرت علیؓ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رکوع کرتے تو فرماتے:

”اللَّهُمَّ رَكْعَتٌ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ اسَلَمْتُ ، خَشَعَ

لَكَ سَمْعِي وَبَصْرِي ، وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصْبِي“ (۱)

اے اللہ تیرے ہی لئے میں نے رکوع کیا اور تجھ ہی پر ایمان لایا، اور تیری ہی فرمانبرداری کی، میرا کان، میری نگاہ، میرا سر، میری ہڈی اور میرا پٹھاسب تیرے سامنے سرنگوں ہے۔

اور دیگر کتب سنن میں اس طرح مروی ہے :

”خَشَعَ سَمْعِي وَبَصْرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَمَا سَقَلْتُ بِهِ

قَدَمَيَّ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ“ (۲)

میرا کان، آنکھ، دماغ، ہڈی اور ہر وہ چیز جس کو میرے دونوں قدم، اٹھائے ہوا ہے، اللہ رب العالمین کے لئے سرنگوں ہے۔

۱۳۵ - صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رکوع و سجود میں کہا کرتے تھے۔

”سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ“ (۳)

پڑا ہی پاکی والا، بڑا ہی تقدس والا ہے فرشتوں اور روح کا رب ہے۔

اہل لغت کہتے ہیں کہ سبوح و قدوس، سین و قاف کے پیش اور زبردوںوں طرح جائز ہے،

مگر بہتر اور مشہور قول پیش کے ساتھ ہے۔

۱۳۶ - حضرت عوف بن مالکؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں:

قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَ فَقْرًا

(۱) صحیح مسلم: ۷۷۱

(۲) ابو داؤد: ۷۶۰، ترمذی: ۳۳۲۱، نسائی: ۱۰۵۰

(۳) صحیح مسلم: ۳۸۷

سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يُمْرُ بِأَيَّةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَّ وَسَالَ وَلَا يَمُرُّ
بِأَيَّةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَّ وَتَعَوَّذَ قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامَةٍ
يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ

”سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ
وَالْعِظْمَةِ“ ”ثُمَّ قَالَ: فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ“ (۱)

میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ (نماز کے لئے) کھڑا ہوا،
آپ کھڑے ہوئے اور سورۃ بقرہ کی تلاوت کی، آپ جب بھی آیت
رحمت سے گذرتے تو ضرور کہتے اور سوال کرتے، اور جب بھی آیت
عذاب سے گذرتے تو ضرور رکتے اور پناہ مانگتے، حضرت عوف
فرماتے ہیں، پھر آپ ﷺ نے قیام کے بقدر ہی رکوع کیا، آپ رکوع
میں کہہ رہے تھے ”سبحان ذی الجبروت العظمتہ“ تک، اس کی
ذات پاک ہے جو بڑا ہی طاقت و قدرت، حکومت و بادشاہت اور
عظمت و کبریائی والا ہے، پھر آپ نے سجدہ میں بھی اسی طرح کہا۔

یہ حدیث صحیح ہے، اس کی تخریج امام ابو داؤد و نسائی نے اپنی سنن میں اور امام ترمذی نے
شمائل میں بسند صحیح کی ہے۔

۱۳۷ - صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
نے ارشاد فرمایا: ”فاما الركوع فعظموا فيه الرب“ رہی بات رکوع کی تو اس میں اپنے
رب کی عظمت بیان کرو۔ (۲)

یاد رکھیں کہ یہی اخیر والی حدیث اس فضل کا مقصود و ما حاصل ہے، یعنی رکوع کے اندر کسی
بھی لفظ کے ذریعہ اللہ رب العزت والجلال کی عظمت کو بیان کرنا، مگر افضل یہ ہے کہ ان تمام

(۱) ابو داؤد: ۸۷۳، نسائی: ۱۰۳۹، شمائل ترمذی: ۲۷۱، عن حذیفہ

(۲) صحیح مسلم: ۴۷۹

اذکار کا احاطہ کرتے ہوئے پڑھے، بشرطیکہ دوسروں کو دشواری میں مبتلا کئے بغیر اس پر قادر ہو اور تسبیح کو اس پر مقدم رکھے۔۔۔۔۔ اگر اختصار مقصود ہو تو مستحب ہے کہ صرف تسبیح پڑھے، اور اس کا ادنیٰ درجہ تین بار پڑھنا ہے، اور اگر ایک ہی بار پڑھے تو اصل تسبیح کو بجالانے والا شمار کیا جائے گا، اور اگر بعض تسبیحات پر اکتفاء کرنا چاہے تو مستحب ہے کہ ایک وقت میں ایک تسبیح اور دوسرے وقت میں دوسری تسبیح پڑھے تاکہ پورے اوقات میں پوری تسبیحات کو پڑھنے والا اور بجالانے والا شمار ہو، اسی طرح ہر باب کے اذکار و وظائف میں عمل کرنا مناسب ہے۔

یاد رکھیں کہ رکوع کے اندر ذکر کرنا ہمارے جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے، اگر جان بوجھ کر یا بھول سے اسے ترک کر دے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اور نہ وہ گنہگار ہوگا اور نہ ہی سجدہ ہو اس پر ضروری ہوگا۔

امام احمد بن حنبل اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہ واجب ہے اس لئے مصلیٰ کے لئے مناسب ہے کہ وہ ان اذکار کی پابندی کرے کیونکہ اس کے حکم دئے جانے سے متعلق بصراحت احادیث موجود ہیں، مثلاً یہ حدیث:

”أَمَا الرَّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ“

رہی بات رکوع کی تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو۔

اور اسی جیسی دوسری احادیث بھی منقول ہیں، نیز اس لئے بھی کہ اس طرح علماء کے اختلاف سے بچا جاسکتا ہے، واللہ اعلم۔

(فصل)

رکوع میں قرآن پڑھنے کا حکم:

رکوع و سجود میں قرآن کی تلاوت مکروہ ہے، اگر اس میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی دیگر آیات قرآنی کو پڑھے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اسی طرح اگر سورہ فاتحہ پڑھے تو بھی صحیح قول کے مطابق نماز فاسد نہیں ہوگی، بعض حضرات شوافع کا خیال ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔

۱۳۸ - صحیح مسلم میں حضرت علیؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں:

”تَهَانِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ

رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا“ (۱)

رسول اللہ ﷺ نے مجھے حالت رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

۱۳۹ - صحیح مسلم ہی میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَلَا وَ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا“ (۲)

آگاہ ہو جاؤ کہ رکوع و سجود کی حالت میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔

(باب - ۷)

رکوع سے سر اٹھاتے وقت کا ذکر :

رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے وقت ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ کہنا سنت ہے، اگر کوئی شخص اس کے بجائے من حَمِدَ اللَّهُ سَمِعَ لَهُ کہے تو اس کا یہ کہنا درست ہے اس کی تصریح خود امام شافعیؒ نے ”الام“ میں کی ہے اور جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو کہے:

”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مَلَأَ

السَّمَوَاتِ وَمَلَأَ الْأَرْضِ وَمَلَأَ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ

شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الشَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُنَّا

لَكَ عَبْدًا، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ

وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ“

اے ہمارے پالنے والے پالنے والے ہے ڈھیر ساری اچھی

مبارک تعریفیں لبریز آسمان کے بقدر اور لبریز زمین کے بقدر اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں، اس کے لبریز ہونے کے بقدر اور اس کے بعد جس کسی چیز کو تو بھرنا چاہے اس کے بقدر، تو حمد و ثناء اور بزرگیوں کا اہل و حقدار ہے جسے بندہ کہتا ہے، اور ہم میں کا ہر شخص تیرا بندہ اور غلام ہے، جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی مالدار کو اس کی مالداری تیرے بغیر نفع نہیں پہنچا سکتی۔

۱۴۰ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، حِينَ يَرْفَعُ صَلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (۱)

رسول اللہ ﷺ جب اپنی پشت رکوع سے اٹھاتے تو، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے اور جب برابر کھڑے ہو جاتے تو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہتے تھے

دوسری بعض روایتوں میں ”واو“ کے ساتھ ”ربنا ولك الحمد“ آیا ہے، اور دونوں

طرح بہتر ہے، واو کے ساتھ صحیحین میں صحابہ کی ایک جماعت سے مروی ہے۔

۱۴۱ - صحیح مسلم میں حضرت علیؓ اور حضرت ابن ابی اونی رضی اللہ عنہم سے مروی ہے:

”أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ [سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ] (۲)

(۱) صحیح بخاری : ۷۸۲، صحیح مسلم : ۳۹۲

(۲) صحیح مسلم : ۳۷۶

رسول اللہ ﷺ (رکوع سے) جب سر اٹھاتے تو فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد الخ“

۱۳۲ - صحیح مسلم میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، مِلَأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِثْلَهُمَا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلُ الشَّاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالِ الْعَبْدُ وَكُنَّا لَكَ عَبْدًا اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (۱)

۱۳۳ - صحیح مسلم میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں اس طرح ہے:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَاوَاتِ وَمِثْلَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِثْلَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ (۲)

۱۳۴ - صحیح بخاری میں حضرت رفاعہ بن رافع الزرقانیؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں:

كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ قَالَ : [سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ] فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَ [رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ] فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : مَنْ الْمُتَكَلِّمُ ؟ قَالَ : أَنَا قَالَ بِضْعَةٌ وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَ أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ (۳)

ایک دن ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ ﷺ نے رکوع سے سر اٹھایا، تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ، آپ کے پیچھے ایک شخص نے کہا: ربنا ولک الحمد کثیرا طیباً

مبارکنا فیہ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا:
 کس نے کہا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا، میں نے! آپ ﷺ نے
 فرمایا: میں نے تیس سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے پر
 سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون ان کلمات
 کو پہلے لکھے۔

(فصل)

ماثور دعاؤں کو اکٹھا کر کے پڑھنا:

ان تمام اذکار کو ملا کر یکجا پڑھنا جیسا کہ ہم پہلے رکوع کے بیان میں بتا چکے ہیں، مستحب
 ہے، اگر کوئی شخص ان میں سے بعض پر اکتفاء کرنا چاہے تو اسے، سمع اللہ لمن حمدہ اور
 ”ربنا ولك الحمد ملاء السماوات وملاء الارض وما بينها وملاء ما شئت من
 شئى بعد“ پر اکتفاء کرنا چاہئے، اور اگر کوئی حد سے زیادہ اختصار کرنا چاہئے تو کم از کم سمع
 اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد“ کہے، اس سے کم نہ کہے۔

یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ سارے اذکار امام مقتدی اور مفرد ہر ایک کے لئے مستحب
 ہے، البتہ امام ان تمام دعاؤں کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرے، البتہ اسے اگر متقدموں کے
 حالات کا علم ہو کہ وہ طوالت کو ترجیح دیتے ہیں تو طویل کر سکتا ہے۔

یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اذکار سنت ہیں واجب نہیں، اس لئے اسے چھوڑنا، مگر وہ تنزیہی ہے
 اس سے سجدہ سہو ضروری نہیں ہوتا اور رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قیام میں قرآن پڑھنا
 اسی طرح مکروہ ہے جس طرح حالت رکوع و سجود میں، واللہ اعلم۔

(باب-۸)

سجدہ کی دعائیں:

اور جب رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے کی دعا سے فارغ ہو تو سجدہ میں جاتے ہوئے

تکبیر کہے اور پیشانی کو زمین پر ٹکینے تک تکبیر کو کھینچے اور جیسا کہ ہم پہلے اس تکبیر کا حکم بیان کر چکے ہیں کہ یہ سنت ہے اس کو چھوڑ دینے سے نہ نماز باطل ہوتی ہے نہ سجدہ سہولازم آتا ہے، اور جب سجدہ میں پہنچ جائے تو سجدہ کی دعاء پڑھے جو بے شمار ہیں۔

۱۳۵ - ان میں سے ایک صحیح مسلم کی حضرت حذیفہؓ سے روایت کردہ حدیث ہے جس میں رکوع کے اندر نبی کریم ﷺ کا طریقہ مذکور ہے جس کے الفاظ اس طرح ہیں:

حِينَ قَرَأَ الْبَقْرَةَ وَالنِّسَاءَ وَآلِ عِمْرَانَ فِي الرُّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يَمُرُّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ إِلَّا سَأَلَ وَلَا بِآيَةٍ عَذَابٍ إِلَّا اسْتَعَاذَ قَالَ :
ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ، فَكَانَ سُجُودَهُ
قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ“ (۱)

نبی کریم ﷺ نے جب ایک رکعت میں سورہ بقرہ و آل عمران و نساء کی تلاوت کی تو جب کسی آیت رحمت سے گذرتے تو رک کر رحمت کا سوال کرتے اور جب کسی آیت عذاب سے گذرتے تو رک کر اس سے پناہ مانگتے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں: پھر آپ نے سجدہ کیا اور سجدہ میں آپ ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہتے تھے، آپ کا سجدہ تقریباً قیام کے برابر تھا۔

۱۳۶ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے سجدہ میں اکثر کہا کرتے تھے:

”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي“ (۲)

اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد و ثناء کے ساتھ، اے اللہ تو مجھے بخش دے“

۱۳۷ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ کی وہ روایت بھی ہے جو رکوع سے متعلق پہلے گذر

(۲) صحیح بخاری: ۷۹۳، مسلم: ۳۸۴

(۱) صحیح مسلم: ۷۷۲

چکی ہے، کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رکوع و سجود میں ”سبح و قدوس رب الملائکة والروح“ کہا کرتے تھے۔ (۱)

۱۳۸ - صحیح مسلم میں حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ فرماتے تو کہتے:

”اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ
سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ،
تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“ (۲)

اے اللہ میں نے تیرے ہی لئے سجدہ کیا اور تجھ ہی پر ایمان لایا اور تیرے ہی سامنے سرگوں ہوا، میرا چہرہ اس ذات کے لئے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی شکل بنائی اور اس کے آنکھ و کان کو شق کیا، (سننے و دیکھنے کے قابل بنایا) کیا ہی عظمت و برکت والا ہے اللہ جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے“

۱۳۹ - کتب سنن میں حضرت عوف بن مالکؓ کی روایت کردہ صحیح حدیث نے طویل رکوع کیا

آپ اس میں کہتے تھے: سُبْحَانَ ذِي الْجَبْرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ“ (۳)
اور آپ ﷺ نے سجدہ میں بھی اسی طرح کہا“

۱۵۰ - کتب سنن میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا،
وَذَلِكَ أَذْنَاهُ“ (۴)

جب کوئی سجدہ کرے، تو سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ تین بار کہے اور یہ اس کا ادنیٰ درجہ ہے۔

۱۵۱ - صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو

(۲) صحیح مسلم: ۷۷۱

(۱) صحیح مسلم: ۳۸۷

(۳) ابوداؤد: ۸۷۳، نسائی: ۱۰۳۹

(۴) ابوداؤد: ۸۸۶، ترمذی: ۲۶۱۱، ابن ماجہ: ۸۹۰، حدیث حسن

ایک رات تلاش کیا پھر محسوس کر لیا کہ آپ حالت رکوع یا حالت سجود میں ہیں، اور آپ کہہ رہے تھے، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (۱)

۱۵۲ - مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے قدم کے باطنی حصہ پر پڑا، آپ سجدہ میں تھے، اور آپ کے دونوں پاؤں گڑے ہوئے تھے اور آپ فرما رہے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَبِمَعْفَاتِكَ مِنْ عِقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ (۲)

اے اللہ میں آپ کی (خوشنودی) کی پناہ لیتا ہوں آپ کی ناراضگی سے اور آپ کے عفو و درگزر کی پناہ لیتا ہوں آپ کی سزا سے، اور آپ کی پناہ لیتا ہوں آپ کی گرفت سے آپ نے اپنی تعریف جس طرح کی ہے میں اس طرح آپ کی تعریف کا شمار و حصر نہیں کر سکتا۔

۱۵۳ - صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعِظْمُوفِيهِ الرَّبُّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ (۳)

رہی بات رکوع کی تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، اور جہاں تک بات سجدے کی ہے تو اس میں خوب دعائیں کرو کیونکہ یہ تمہارے لئے قبولیت کے واسطے زیادہ لائق ہے۔

نوٹ ”فَقَمِنٌ“ میں مِم کے زبردور زبردوں طرح درست ہے، اسے قَمِينٌ بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی لائق و اہل ہونے کے ہیں، ایک معنی خلیق کے ہیں بطور مثال کہا جاتا ہے، ”مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا قَمِنٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ“ کہ اگر کوئی گھریا زمین بیچے تو اس کی فروختگی برکت نہ دے جانے کے زیادہ لائق ہے، اگر اس کو اس کے

(۲) صحیح مسلم: ۳۸۶

(۱) صحیح مسلم: ۳۸۵

(۳) صحیح مسلم: ۳۷۹

مثل ہی میں نہ لگایا جائے، یعنی زمین یا مکانات کو فروخت کر کے اگر اس کی قیمت منقولات میں لگاتا ہے تو ایسا کرنا بایں وجہ مستحسن نہیں کہ غیر منقولات میں منافع زیادہ اور آفت و ہلاکت کا اندیشہ کم ہوتا ہے، کیونکہ اسے نہ کوئی چراسکتا اور نہ اس پر غارت گری ہی ہو سکتی ہے، تو منقولات میں لگانے سے بہتر ہے کہ اسے یا تو بیچا ہی نہ جائے اور اگر اسے بیچے تو اس کی قیمت اس طرح غیر منقول مکانات و اراضی میں مشغول کرے۔

۱۵۴ - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا فِيهِ
الدُّعَاءَ“ (۱)

بندہ اپنے رب سے جس حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اس کے سجدہ کی حالت ہے، اس لئے اس میں خوب دعائیں کرو۔

۱۵۵ - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے سجدہ میں کہا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَجُلَّةً وَأَوْلَاهُ وَأَخْرَهُ وَعَلَانِيَةً
وَسِرَّةً“ (۲)

اے اللہ تو میرے سارے گناہوں کو بخش دے چھوٹا ہو یا بڑا (تھوڑا ہو یا زیادہ) اول ہو یا آخر، ظاہر ہو یا مخفی“

یاد رہے کہ سجدہ کی ساری دعائیں جسے ہم نے ذکر کیا ہے کو جمع کر کے پڑھنا مستحب ہے اور اگر ان سبھوں کو ایک وقت میں نہ پڑھ سکتا ہو تو جیسا کہ پچھلے ابواب میں ذکر ہوا، مختلف اوقات میں تھوڑا تھوڑا ان سبھوں کو پڑھ لے، اگر اختصار کرنا ہو تو مختصر دعاء کے ساتھ تسبیح پر اکتفاء کرے، تسبیح اور اس کا حکم رکوع کی دعاؤں کے بیان میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس میں قرآن کا پڑھنا مکروہ ہے۔

(فصل)

سجدہ افضل ہے یا قیام:

علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ نماز کے اندر قیام افضل ہے یا سجدہ؟ امام شافعی اور ان کے ہمنواؤں کا مذہب ہے کہ قیام افضل ہے۔

۱۵۶ - اور اس کی وجہ صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جس میں کہا گیا ہے:

”أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ“ (۱)

سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قنوت لمبا ہو۔

اور اس میں قنوت سے مراد قیام ہے، اور اس لئے بھی کہ حالت قیام کا ذکر قرآن ہے اور حالت رکوع و سجود کا ذکر تسبیح، اور قرآن ان سبھوں سے افضل ہے، لہذا جس حالت کے اندر اس افضل ذکر کو طول دیا جائے وہ افضل ہوگا۔

بعض علماء سجدہ کے افضل ہونے کے قائل ہیں، اور اس کی وجہ حدیث ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

”أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ“

کہ بندہ اپنے رب سے جس حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سجدہ کی حالت ہے۔

امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ الرحمہ اپنی سنن میں رقمطراز ہیں، اہل علم کا اس میں اختلاف ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نماز میں طول قیام کثرت رکوع و سجود سے افضل ہے، اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ رکوع و سجود کی کثرت طول قیام سے افضل ہے۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ ﷺ سے دونوں طرح کی حدیثیں مروی ہیں، امام احمد نے اس میں کسی ایک کا فیصلہ نہیں فرمایا ہے۔

اور امام اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ دن میں کثرت رکوع وسجود اور شب میں طول قیام افضل ہے البتہ اگر کسی کارات کے وقت کوئی مخصوص وظیفہ ہو تو اس وقت کثرت رکوع وسجود کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں تاکہ وہ اپنا حزب اور مخصوص وظیفہ کثرت رکوع وسجود کے نفع کو حاصل کرنے کے ساتھ ادا کر سکے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: امام اسحاق ایسا اس لئے فرما رہے ہیں کہ طول قیام کے ساتھ متصف رسول اللہ ﷺ کی نماز کا ذکر شب کے ساتھ مخصوص ہے، اور نبی کریم ﷺ کے دن کی نماز کے بارے میں طول قیام کا ذکر کہیں اس طرح نہیں ملتا جس طرح رات کی نماز میں طول قیام کا ذکر ملتا ہے۔

(نفل)

سجدہ تلاوت کی دعاء:

جب نماز میں سجدہ تلاوت کرے تو اس سجدہ میں عام سجدوں کی دعاؤں کے ساتھ یہ دعاء کرنا بھی مستحب ہے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا عِنْدَكَ ذُّخْرًا وَّاعْظِمْ لِيْ بِهَا اَجْرًا وَّضَعْ
عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَام.

اے اللہ تو اسے اپنے پاس میرے لئے ذخیرہ بنا اور اس کے ذریعہ
میرے اجر و ثواب میں اضافہ فرما اور میرے بوجھ کو ہلکا فرما اور میری
طرف سے اسی طرح قبول فرما جس طرح تو نے داؤد علیہ السلام سے
قبول فرمایا ہے۔

اور یہ کہنا بھی مستحب ہے۔

”سُبْحَانَ رَبَّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا“

ہمارے رب کی ذات پاک ہے ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے۔

اس آخری دعاء کی تصریح خود امام شافعی علیہ الرحمہ نے کی ہے۔

۱۵۷ - سنن ابی داؤد، ترمذی اور نسائی میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سجدہ تلاوت میں کہا کرتے تھے:

”سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ
وَقُوَّتِهِ“

میرا چہرہ اس ذات کے لئے سجدہ ریز ہوا جس نے اس کے کان و آنکھ کو
اپنی قدرت و طاقت سے شق کیا (اور اسے سننے دیکھنے کے قابل بنایا)

امام ترمذی نے اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے اور حاکم نے اپنی مستدرک میں ان الفاظ
کے اضافہ کے ساتھ نقل کیا ہے:

”فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ التَّحَالِقِينَ“ (۱)

بہترین تخلیق کرنے والے اللہ کی ذات عظیم ہے۔

نیز فرماتے ہیں کہ یہ اضافہ صحیح اور شیخین کی شرط پر ہے:

۱۵۸ - اور ”اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا“ کو امام ترمذی نے مرفوعاً ابن عباسؓ
سے بسند حسن روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

(باب - ۹)

دو سجدوں کے درمیان کی دعاء:

سجدہ سے سر اٹھانا شروع کرتے ہی تکبیر کہنا سنت ہے، اس تکبیر کو برابر ہو کر بیٹھنے تک
کھینچنے، تکبیرات کی تعداد کا بیان گذر چکا ہے اختلاف اسے کھینچ کر ادا کرنے اور اس کے مفید
صلوات حد تک کھینچنے کے بارے میں ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ اسے کھینچ کر ادا کرے۔

اور جب تکبیر سے فارغ ہو اور برابر ہو کر بیٹھ جائے تو سنت ہے کہ وہ یہ دعائیں کرے:

۱۵۹ - حضرت حذیفہ ابن الیمانؓ سے سنن ابی داؤد و ترمذی و نسائی و بیہقی وغیرہ میں مروی ہے

(۱) دیکھیں: ابوداؤد: ۴۱۳، ترمذی: ۵۸۰، نسائی: ۱۱۲۹، مستدرک حاکم: ۲۲۰/۱

کہ جس کے اندر نبی کریم ﷺ کے رات کی نماز کا اور طویل قیام میں سورہ بقرہ، نساء و آل عمران کی تلاوت کرنے اور قیام کے بقدر رکوع و سجود کرنے کا ذکر ہے، اسی میں حضرت حدیفہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا دو سجدوں کے درمیان کہہ رہے تھے :

”رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَجَلَسَ بِقَدْرِ وَسُجُودِهِ“ (۱)
اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور سجدہ کے
بقدر بیٹھے۔

۱۶۰ - اور وہ دعاء پڑھے جو سنن بیہقی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے انکا اپنی خالہ حضرت میمونہؓ کے حجرے میں رات گزارنے اور نبی کریم ﷺ کے رات کی نماز کے بارے میں مروی ہے، اس میں حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو فرماتے:

”رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي
وَاهْدِنِي“ (۲)

اے اللہ تو مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما میری تلافی فرما، مجھے بلند کر
مجھے روزی دے اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔

ابوداؤد کی روایت میں ”وعافني“ اور مجھے عافیت دے، کا اضافہ ہے۔ (۳)

(فصل)

جلسہ استراحت کا حکم:

اور جب دوسرا سجدہ کرے تو دوسرے سجدہ میں وہ تمام دعائیں پڑھے جو پہلے میں پڑھے
ہی ہے اور جب دوسرے سجدہ سے سر اٹھائے تو تکبیر کہتے ہوئے سر اٹھائے اور کھڑا ہونے سے

(۱) ابوداؤد: ۸۷۴، ترمذی: ۲۶۲، نسائی: ۱۶۶۵، بیہقی: ۱۲۲/۲

(۲) بیہقی، ۱۲۲/۲، ترمذی: ۲۸۴، وابن ماجہ: ۸۹۸

(۳) دیکھئے: ابوداؤد: ۸۵۰

تکبیر سنت ہے۔

اسی طرح دوسری رکعت میں دعاء استفتاح نہیں جبکہ پہلی میں ہے — تیسرے یہ کہ پہلی رکعت میں بالاتفاق قراءت شروع کرنے سے پہلے تعوذ (اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم) ہے جبکہ دوسری رکعت میں علماء کا اختلاف ہے، صحیح قول یہ ہے کہ دوسری میں بھی تعوذ پڑھا جائے اور چوتھی بات یہ ہے کہ منتخب قول کے مطابق دوسری رکعت کی تلاوت پہلی میں بہ نسبت کچھ کم ہو، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔

(باب-۱۱)

نماز فجر میں قنوت (نازلہ)

۱۶۱ - حضرت انسؓ کی روایت کردہ صحیح حدیث کی روشنی میں نماز فجر کے اندر دعاء قنوت پڑھنا سنت ہے حضرت انسؓ فرماتے ہیں:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي
الصُّبْحِ حَتَّىٰ فَارَقَ الدُّنْيَا

رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز میں دنیا کو خیر باد کہنے تک ہمیشہ دعاء قنوت پڑھتے رہے۔

اس کی روایت امام حاکم نے اپنی کتاب "الاربعین" میں کی ہے اور اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے)

دعاء قنوت ہمارے نزدیک (مسلم شافعی میں) نماز فجر میں مشروع اور سنت مؤکدہ ہے، اسے ترک کر دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی مگر سجدہ سہو ضروری ہوتا ہے، خواہ اسے سہواً ترک کرے یا عمداً۔

نماز فجر کے علاوہ دیگر نماز پنجگانہ میں قنوت پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اس میں امام شافعیؒ کے تین اقوال ہیں، صحیح و مشہور قول یہ ہے کہ اگر مسلمانوں پر کوئی آفت یا اجتماعی حادثہ پیش آجائے تو قنوت پڑھے ورنہ نہیں (اور یہی احناف کا مذہب ہے) اور دوسرا قول مطلق پڑھنے

اور تیسرا قول مطلق نہ پڑھنے کا ہے، واللہ اعلم۔

ماہ رمضان کے نصف اخیر میں وتر کی آخری رکعت میں ہمارے علماء شوافع کے نزدیک قنوت پڑھنا مستحب ہے، اور شوافع کا دوسرا قول پورے رمضان میں پڑھنے کا اور تیسرا قول پورے سال پڑھنے کا ہے اور یہی آخری قول امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے اور شوافع کا مشہور و اظہر قول پہلا ہے، واللہ اعلم۔

(فصل)

دعاء قنوت کا مقام اور مشروع الفاظ:

نماز فجر میں قنوت پڑھنے کی جگہ ہمارے نزدیک دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے، امام مالک کے نزدیک رکوع سے پہلے ہے، علماء شوافع فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شافعی المسلمک رکوع سے پہلے قنوت نازلہ پڑھے تو صحیح قول کے مطابق اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور دوسرے قول کے مطابق اسے شمار کر لیا جائے گا، اور صحیح قول یہ ہے کہ رکوع کے بعد اس کا اعادہ کرے پھر سجدہ سہو بھی کرے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سجدہ سہو ضروری نہیں۔ اس قنوت کے الفاظ وہ ہیں جو ان احادیث میں مذکور ہیں:

۱۶۲ - سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور بیہقی میں بسند صحیح حضرت حسن بن علیؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے وہ کلمات سکھائے جو میں وتر میں پڑھتا ہوں اور وہ یہ ہیں:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ،
وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَغَنِّ
شَرَّمَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ
لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ“ (۱)

(۱) ابوداؤد، ۱۴۲۵، ترمذی، ۴۶۴، نسائی، ۱۷۳۵، ابن ماجہ، ۱۱۷۸، بیہقی، ۲۰۹/۲

اے اللہ تو نے جنہیں ہدایت دی ان میں شامل کر کے مجھے ہدایت دے اور جنہیں عافیت بخشی ان میں شامل کر کے مجھے عافیت بخش اور جن لوگوں کی تو نے سرپرستی فرمائی ان میں شامل کر کے میری سرپرستی فرما، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا اس میں برکت عطاء فرما اور جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس کے شر سے میری حفاظت فرما، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، کوئی دوسرا تیرے برخلاف فیصلہ نہیں کر سکتا اور جس کی تو سرپرستی فرمائے اسے کوئی خوار و رسوا نہیں کر سکتا، اے میرے رب تیری ذات بہت بلند و بالا ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، نیز فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے ثابت قنوت میں اس سے بہتر قنوت کی حدیث کا مجھے علم نہیں ہو سکا۔

امام بیہقی نے ایک روایت میں ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالبؓ کے صاحبزادے اور حسین کے بھائی حضرت محمد بن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعاء ہے جو میرے والد حضرت علیؓ نماز فجر کے قنوت میں پڑھا کرتے تھے۔ اس دعاء کے بعد ”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ“ کہنا مستحب ہے۔

۱۶۳ - نسائی کی سند حسن اس حدیث کے اخیر میں ”وصلی اللہ علی النبی“ کا لفظ آیا ہے۔ (۱)
ہمارے علماء شوافع فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ سے مروی قنوت کو پڑھنا بہتر ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ حضرت عمرؓ نے نماز فجر کے اندر رکوع سے اٹھنے کے بعد ان الفاظ میں دعاء قنوت پڑھا:

۱۶۴ - اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ مِنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُكَ وَأَنَّكَ نُصَلِّيُ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ

وَنَحْشَىٰ عَذَابِكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجَدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ ، اللَّهُمَّ
 عَذَّبَ الْكَافِرَةَ الَّذِينَ يَضَلُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ
 رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ
 وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ
 وَكَبِّهْهُمْ عَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْزِعْهُمْ
 أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ ، وَأَنْصُرْهُمْ عَلَىٰ
 عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ إِلَهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ (۱)

اے اللہ! ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تجھ سے بخشش چاہتے ہیں اور تجھے
 نہیں جھٹلاتے ہیں (ہم کفر نہیں کرتے) اور تجھ پر ایمان رکھتے ہیں
 اور جو تجھ سے برائی کرتا اس سے قطع تعلق کرتے ہیں، اے اللہ! ہم
 تیری ہی عبادت کرتے اور تیرے ہی لئے نماز پڑھتے اور سجدہ ریز
 ہوتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑ کر آتے اور تابعداری کرتے ہیں، ہم
 تیری رحمت کی امید رکھتے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بیشک
 تیرا حقیقی عذاب کفار کو لاحق ہونے والا ہے، اے اللہ تو کافروں کو
 عذاب دے جو لوگوں کو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے
 پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے اولیاء کو قتل کرتے ہیں، اے اللہ تو
 سارے مؤمن مرد و عورت اور سارے مسلمان مرد و عورت کو بخش
 دے اور ان کے درمیان صلح و یگانگت پیدا فرما اور ان کے دلوں کو جوڑ
 دے اور ان کے دلوں میں ایمان و حکمت پیدا فرما اور انہیں رسول اللہ
 ﷺ کے دین و ملت پر ثابت قدم رکھ اور انہیں اپنے اسی عہد و پیمانہ کو

(۱) بیہقی: ۲/۲۰۱۰، موقوفہ علی عمر و صحیحہ

پورا کرنے کی توفیق دے جو تو نے ان سے لیا ہے، اور تو ان کی ان کے اور اپنے دشمنوں کے خلاف مدد فرما اے، اِنَّ الْحَقَّ (معبود برحق) تو مجھے بھی ان میں سے بنا“

یاد رکھیں کہ حضرت عمرؓ سے کفار اہل کتاب پر عذاب دئے جانے کی بددعاء منقول ہے، کیونکہ اس وقت ان کا جہاد و قتال انہی کفار اہل کتاب سے تھا، مگر آجکل بہتر یہ ہے کہ ”عذاب الکفرة“ (کفار کو عذاب دے) کہے کیونکہ یہ تمام کافروں کو بلا تخصیص عام ہے (جو اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب)

(لغوی معنی) ”نَخْلَعُ : نَخْلَعُ“ کا معنی ترک کرنا ساتھ چھوڑنا، دست کش ہونا ہے ”يَنْفَجُرُ“ کا معنی گالی گلوچ کرنا ہے، الحاد کرنا اس جگہ الحاد کے معنی ہی میں ہے، یعنی جو تیری صفات میں الحاد کرتے ”نَخْفِئُ“ فاء کے زیر کے ساتھ جلدی کرنے کے معنی میں ہے ”الجد“ جیم کے زیر کے ساتھ بمعنی برحق ہے ”مَلْحَقُ“ حاء کے زبر اور زیر دونوں کے ساتھ درست ہے، زیر کے ساتھ اسم فاعل اور زبر کے ساتھ اسم مفعول ہے، الحاق کے معنی کسی کے پیچھے لگانا اور لحقوق کے معنی کسی کے پیچھے لگانا ہے ”مَلْحَقُ“ حاء کے فتح کے ساتھ ابن تیمیہ نے روایت کیا ہے، باقی روایتوں میں زیر کے ساتھ ہے ”ذَاتَ بَيْنِهِمْ“ کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے امور و معاملات، تعلقات و روابط اور احوال و اخوت کی اصلاح فرما اور حکمت سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو قبائح اور برائیوں سے اسے دور رکھیں ”أَوْزَعُ“ کا معنی الہام کرنا اور توفیق دینا ہے، قرآن میں اسی مفہوم کے اندر وارد ہوا ہے ”رَبِّ أَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الْخ، وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ“ کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے بھی ان افراد میں شامل فرما جن کے اوصاف اس طرح کے ہوں۔

حضرت عمرؓ کی روایت کردہ قنوت اور پہلی قنوت دونوں کو جمع کر کے ایک ساتھ پڑھنا مستحب ہے اور جمع کرنے کی صورت میں صحیح قول کے مطابق حضرت عمرؓ کی قنوت کو مؤخر کرے، اگر اختصار مقصود ہو تو پہلی قنوت پر اکتفاء کرے۔

ان دونوں کو جمع کرنا ان لوگوں کے لئے مستحب یا افضل ہے جو تہا نماز پڑھ رہا ہو، یا ایسے محدو لوگوں کی امامت کر رہا ہو جو طول دئے جانے سے راضی و خوش ہوں۔ ذہن میں رہے کہ قنوت کے لئے صحیح مذہب کے مطابق کوئی متعین و مخصوص دعاء نہیں، جون سی بھی دعاء کرے اس سے قنوت حاصل ہو جائے گا، اگر قرآن کی ایسی آیات کی تلاوت کرے جس میں دعاء ہو تو بھی قنوت ہو جائے گا، مگر افضل وہ ہے جس کے بارے میں سنت وارد ہوئی ہے۔

بعض حضرات شوافع کا خیال ہے کہ قنوت کے لئے مذکورہ دعائیں متعین ہیں، دوسری دعائیں اس کا بدل یا اس کی طرف سے کافی نہیں ہوں گی، اگر نمازی امامت کر رہا ہو تو ”اٰھْدِنَا“ وغیرہ دوسرے الفاظ کو جمع کے صیغہ کے ساتھ کہنا مستحب ہے اور اگر ”اٰھْدِنِی“ مفرد کے صیغہ کے ساتھ کہے تو قنوت ہو جائے گا مگر مکروہ ہوگا، کیونکہ امام کے لئے دعاؤں کو اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کرنا مکروہ ہے۔

۱۶۵ - سنن ابی داؤد ترمذی میں حضرت ثوبانؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا یُؤْمَ عِبْدًا قَوْمًا فِیْخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَہُمْ“ (۱)

کوئی بندہ کسی قوم کی امامت اس طرح نہ کرے کہ اپنے ہی کو ان کے بغیر دعاؤں میں خاص کرے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے ساتھ خیانت ہیں۔

(فصل)

دعاء قنوت میں ہاتھ اٹھانے اور چہرہ پر ہاتھ پھیرنے کا حکم:
ہمارے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ دعاء قنوت میں ہاتھ اٹھانے یا نہیں؟ اور دعاء

کے اختتام پر ہاتھ کو چہرہ پر پھیرے یا نہیں؟ اس میں تین اقوال ہیں اور صحیح قول یہ ہے کہ ہاتھ تو اٹھائے مگر چہرے پر نہ پھیرے، دوسرا قول یہ ہے کہ دعاء کے لئے ہاتھ بھی اٹھائے اور اختتام پر ہاتھ کو چہرہ پر بھی پھیرے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ دعاء کے لئے نہ ہاتھ اٹھائے اور نہ ہی چہرہ پر ہاتھ پھیرے، البتہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ چہرہ کے علاوہ سینہ وغیرہ کسی اور حصہ پر نہ پھیرے کیونکہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔

قنوت آہستہ پڑھا جائے یا باواز بلند؟ علماء شوافع فرماتے ہیں کہ نمازی اگر منفرد (اکیلا) ہے تو آہستہ پڑھے اور اگر امام ہے تو صحیح قول کے مطابق جو کہ اکثر شوافع کا مذہب ہے، باواز بلند پڑھے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نماز کی دیگر تمام دعاؤں کی طرف اسے بھی آہستہ پڑھے۔

اور امام اگر باواز بلند پڑھ رہا ہے تو مقتدی دوسری دعاؤں کی طرح اسے آہستہ ہی پڑھے کیونکہ اس طرح وہ امام کی موافقت کرنے والا ہوگا۔

امام اگر باواز بلند قنوت پڑھ رہا ہو اور مقتدی سن رہا ہو، تو اس کی دعاء پر آمین کہے اور اخیر میں ثناء پڑھنے کے اندر اس کے ساتھ شریک ہو اور اگر نہیں سن رہا ہے تو آہستہ سے قنوت پڑھے بعض حضرات نے نہ سننے کی صورت میں بھی آمین کہنے کو کہا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ سننے کے باوجود دعاء پڑھنے میں امام کے ساتھ شریک ہو اور خود بھی قنوت پڑھے، مگر صحیح قول پہلا ہے۔

اگر فجر کے علاوہ دوسری نمازوں میں قنوت پڑھ رہا ہے (جن کے نزدیک پڑھنا درست ہے) تو اگر نماز جہری مثلاً مغرب و عشاء ہے تو اس کا حکم نماز فجر کی طرح ہے جیسا کہ پیچھے گذرا، اور اگر نماز سری ہے، مثلاً ظہر یا عصر تو ایک قول اس کے آہستہ پڑھنے کا اور دوسرا قول نماز فجر کی طرح زور سے پڑھنے کا ہے اور حدیث صحیح میں رسول اللہ ﷺ کا قنوت قراء صحابہ کو پیر معونہ کے مقام پر قتل کرنے والوں کے خلاف بظاہر تمام نمازوں میں قنوت کو باواز بلند پڑھنے کا تقاضہ کرتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے کلام ”لیس لک من الامر شیئی“ کی تفسیر کے سلسلہ میں:

۱۶۶ - حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قنوت نازلہ میں دعاء کو باواز بلند پڑھا،

(باب -۱۲)

نماز میں تشہد :

نماز اگر صرف دو رکعت والی ہے جیسے نماز فجر اور نوافل تو اس میں ایک ہی تشہد ہوگا اور اگر تین یا چار رکعت کی ہے تو اس میں دو تشہد ہوں گے یعنی تشہد اول اور تشہد ثانی، اور مسبوق کے حق میں تین تشہد یا مغرب میں چار تشہد کا بھی تصور کیا جاسکتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص امام کو دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پاتا ہے تو وہ امام کی متابعت تشہد اول و ثانی میں کریگا جبکہ ابھی اس کی ایک ہی رکعت ہوگی، پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ بقیہ دو رکعت کی ادائیگی کے لئے کھڑا ہوا اور ایک رکعت کے بعد قعدہ کریگا اور تشہد پڑھے گا کیونکہ یہ اس کی دوسری رکعت تھی، پھر تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگا اور اس کے بعد پھر قعدہ کر کے تشہد اخیر پڑھے گا۔

اور اگر نفل پڑھ رہا ہے اور چار رکعت سے زیادہ کی نیت کر رہا ہے مثلاً سور رکعت کی نیت کر رہا ہے تو اسے اختیار ہے کہ وہ اس میں دو تشہد (دو قعدہ) پڑا کتفاء کرنے اور اپنی نیت کے مطابق پڑھے اور ہر دو رکعت پر تشہد پڑھے پھر مزید دو رکعت پڑھ کر دوسرا تشہد کر کے سلام پھیر دے (یعنی دو تشہد کے ساتھ چار رکعت ایک سلام سے پڑھے) علماء کی ایک جماعت کا قول ہے کہ ایک سلام سے دو تشہد سے زیادہ پڑھنا جائز نہیں، اور یہ بھی جائز نہیں کہ تشہد اول و ثانی کے درمیان دو رکعت سے زیادہ ہو، اور یہ جائز ہے کہ دو تشہدوں کے درمیان ایک ہی رکعت ہو، اگر ایک سلام سے دو تشہد سے زیادہ یا دو تشہدوں کے درمیان دو رکعت سے زیادہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی بعض حضرات کا قول ہے کہ ہر رکعت میں تشہد پڑھنا جائز ہے، مگر صحیح مسلک یہ ہے کہ تشہد دو رکعت پر ہے، ہر رکعت میں تشہد درست نہیں واللہ اعلم۔

یاد رہے کہ تشہد اخیر (قعدہ ثانیہ) امام شافعی و احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور بہت سے علماء

کے نزدیک واجب (فرض ہے) اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک سنت ہے، البتہ تشہد اول امام شافعی و امام مالک اور اکثر فقہاء کے نزدیک سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل علیہما الرحمہ کے نزدیک واجب ہے، اس لئے اگر تشہد اول چھوٹ جائے تو احتاف و شوافع کے نزدیک نماز درست ہو جائے گی مگر سجدہ سہو ضروری ہوگا، خواہ اس نے بھول کر چھوڑا ہو یا جان بوجھ کر، واللہ اعلم۔

(فصل)

تشہد کے الفاظ:

تشہد کے الفاظ میں نبی کریم ﷺ نے تین طرح کے تشہدات ثابت ہیں۔

۱۶۷- ایک وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ (۱)

تمام قولی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں اور تمام فعلی و مالی عبادتیں بھی، سلام ہیں آپ پر اے اللہ کے نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

۱۶۸- دوسرا وہ ہے جسے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے، الفاظ اس طرح ہیں:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ

(۱) صحیح بخاری: ۸۳۱، صحیح مسلم: ۲۰۲

عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، (۱)

برکت والی زبانی عبادتیں، پاکیزہ بدنی عبادتیں سب اللہ ہی کے لئے
ہیں، اے نبی سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمتیں و برکتیں بھی آپ پر ہوں،
سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے
سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔

۱۶۹ - ایک وہ ہے جسے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے جس کے
الفاظ یہ ہیں:

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ
الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. (۲)

پاکیزہ زبانی عبادتیں سب کی سب اللہ کے لئے ہیں، اے نبی سلام
ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت و برکتیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک
بندوں پر، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی
دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

۱۷۰ - سنن بیہقی میں بسند جید قاسم سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ
نے ایک مجمع کو سکھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ رسول اللہ ﷺ کا تشہد ہے۔

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ

اللّٰهُ الصّٰلِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ“ (۱)

یہ یعنی نمبر ۱۶۷، والی تجیہ ہے ترجمہ وہی ہے۔

(اس تشہد کی خاصیت یہ ہے کہ آپ ﷺ کا یہ تشہد امت کے الفاظ میں ہے)

۱۷۱ - موطا امام مالک اور سنن بیہقی وغیرہما کی روایت بسند صحیح حضرت عبدالرحمن بن عمر القاری سے ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق کو منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو تشہد سکھاتے ہوئے سنا، وہ فرماتے تھے کہ کہو :

”اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاِكِيَّاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ“ (۲)

۱۷۲ - موطا امام مالک اور بیہقی وغیرہ میں بسند صحیح حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ وہ جب تشہد پڑھتی تو کہتی تھیں :

”اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاِكِيَّاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ
عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ“ (۳)

پاکیزہ زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں پاکیزہ اعمال سب اللہ ہی کے لئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی

(۱) سنن بیہقی: ۱۳۳/۲ - ۱۳۵

(۲) موطا امام مالک: ۹۰، سنن بیہقی: ۱۳۳/۲

(۳) موطا امام مالک: ۹۱/۱، سنن بیہقی: ۱۳۳/۲

اور اس کی رحمت اور برکتیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔
اور انہی کی ایک روایت ان کتابوں میں اس طرح ہے:

”التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ“ (۱)

پاکیزہ زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، پاکیزہ اعمال سب اللہ ہی کے
لئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تمہارے
اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے
اور اس کے رسول ہیں، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اس کی
رحمتیں و برکتیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔

۱۷۳ - موطا امام مالک و بیہقی میں امام مالک کی روایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے بواسطہ
نافع ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی تشہد میں کہتے تھے:

بِسْمِ اللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ الزَّكَايَاتُ لِلَّهِ
السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا
وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“ (۲)

اللہ کے نام کے ساتھ، تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں، تمام
پاکیزہ اعمال اللہ کے لئے ہیں، تمام مالی و بدنی عبادتیں اللہ کے لئے
ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں، ہم پر اور

(۱) المؤطا و البيهقي

(۲) موطا امام مالک: ۹۱/۱، سنن بیہقی: ۱۳۲۲

اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے
سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔

تشہد کی یہ مختلف قسم تھی، امام بیہقی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے تین احادیث ثابت
ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی۔ دوسری حضرت عبداللہ بن عباس کی۔ اور تیسری حضرت
ابوموسیٰ اشعریؓ کی۔ یہ تو بیہقی کا قول ہے ان کے علاوہ دوسرے علماء و محدثین نے کہا ہے کہ یہ
تینوں احادیث صحیح ہیں، اور ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث سب سے زیادہ صحیح
ہے۔ (احناف نے اسی کو اختیار کیا ہے) مگر ان مذکورہ تشہدوں میں سے جس کے ذریعہ چاہے
تشہد پڑھنا جائز و درست ہے (امام شافعی وغیرہ دیگر علماء کی یہی تشریح ہے، البتہ امام شافعی کے
نزدیک ان میں سب سے افضل حضرت ابن عباس سے مروی تشہد ہے، کیونکہ اس میں لفظ
”المبارکات“ کی زیادتی ہے۔ امام شافعی اور دیگر فقہاء فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کے
اندر گنجائش اور اختیار ہے، اسی وجہ سے روایتوں کے الفاظ میں قدرے اختلاف ہے۔

(فصل)

اقل ترین مقدار تشہد :

مصلیٰ کو اختیار ہے کہ ان تینوں تشہدوں میں سے کسی ایک کو پورا پڑھے اور اگر اس کے
بعض حصوں کو حذف کر دیتا ہے تو اس کا پڑھنا درست ہوگا یا نہیں؟ اور یہ تشہد کافی ہوگی یا نہیں؟
اس میں قدرے تفصیل ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ ”المبارکات والصلوات
والطیبات والزکیات“ کے الفاظ تشہد میں محض سنت ہیں شرط نہیں، اس لئے اگر پورے
الفاظ کو حذف کر کے صرف ”التہیات لله، السلام علیک ایہا النبی“ پراکتفاء کرے
تو یہ کافی ہو جائے گا، اور اس میں ہمارے یہاں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔

البتہ ”السلام علیک ایہا النبی“ کے الفاظ کا پڑھنا ہمارے نزدیک واجب ہے،
اس کے ادنیٰ جزء کو بھی حذف کرنا جائز نہیں البتہ ”ورحمة اللہ وبرکاتہ“ کو حذف کرنے کے

جواز یا عدم جواز میں علماء شوافع کے تین قول ہیں زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ نہ تو ”ورحمة اللہ“ کا حذف کرنا جائز ہے اور نہ ہی ”وبسركاتہ“ کا اور یہی تقاضہ دلیل ہے، کیونکہ ساری احادیث ان الفاظ کے ذکر پر متفق ہیں۔۔۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں الفاظ کو حذف کرنا جائز ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ”بسركاتہ“ کو حذف کرنا جائز ہے مگر ”ورحمة اللہ“ کو حذف کرنا جائز نہیں۔ علماء شوافع میں ابوالعباس بن سرتج رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ، سَلَامٌ عَلَيَّ عِبَادَ
اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ

پراکتفاء کرنا جائز ہے، اس سے کم جائز نہیں، رہا ”السلام“ کا لفظ تو اکثر روایتوں میں الف ولام کے ساتھ ”السلام عليك ايها النبي“ اور ”السلام علينا“ وارد ہوا ہے، اور بعض روایتوں میں الف ولام کے بغیر ”سلام عليك ايها النبي“ اور ”سلام علينا“ بھی آیا ہے، حضرات شوافع فرماتے ہیں کہ دونوں طرح جائز ہے، مگر افضل الف ولام کے ساتھ ”السلام عليك“ اور ”السلام علينا“ ہے، کیونکہ زیادہ تر روایات الف ولام کے ساتھ ہے۔ اور اس لئے بھی کہ اس میں زیادتی ہے اور اسی میں احتیاط ہے۔

”التحیات“ سے قبل ”بسم اللہ“ پڑھنا سنن نسائی و بیہقی کی حدیث مرفوع سے ثابت ہے اور اس کا ثبوت حضرت ابن عمر کے تشہد میں گذر چکا ہے۔ مگر امام بخاری و نسائی اور بعض دیگر محدثین کی رائے ہے کہ ”بسم اللہ“ کی زیادتی رسول اللہ ﷺ سے صحیح طور پر ثابت نہیں، اسی وجہ سے جمہور شوافع کا خیال ہے کہ اس میں بسم اللہ پڑھنا مستحب نہیں، بعض علماء شوافع اسے مستحب بھی کہتے ہیں، مگر صحیح مذہب یہ ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھے کیونکہ وہ تمام صحابہ جنہوں نے تشہد کو نقل کیا ہے ان کی روایات میں بسم اللہ کا ذکر نہیں۔

(فصل)

تشہد کے الفاظ میں ترتیب کا حکم :

یاد رکھیں کہ تشہد میں ترتیب مستحب ہے نہ کہ واجب، اس لئے اگر کوئی اس کے اجزاء کو ایک دوسرے پر مقدم یا مؤخر کرتا ہے تو یہ صحیح قول کے مطابق، جس کے قائل جمہور شوافع ہیں، جائز و درست ہوگا، امام شافعی نے ”اللام“ میں اس کی تصریح کی ہے اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں، جس طرح کہ سورہ فاتحہ کے الفاظ کو مقدم یا مؤخر کرنا جائز نہیں۔

اور جواز کی دلیل بعض روایتوں میں ”السلام“ کے لفظ کا تشہد یعنی ”اشہد“ پر مقدم ہونا اور بعض روایتوں میں مؤخر ہونا ہے، جیسا کہ اس کے الفاظ گذر چکے ہیں۔ جہاں تک سورہ فاتحہ کا تعلق ہے تو اس کے الفاظ توفیقی اور اس کی ترتیب معجزاتی ہے اس میں تغیر و تبدل جائز نہیں۔ اور جو شخص عربی میں تشہد پڑھنے پر قادر ہو اس کے لئے غیر عربی میں تشہد پڑھنا جائز نہیں، اور جسے عربی پر قدرت نہیں ہو اپنی زبان میں تشہد پڑھے اور عربی میں پڑھنا سیکھے، جس طرح کہ تکبیر تحریمہ کے بارے میں پہلے گذر چکا ہے۔

(فصل)

تشہد آہستہ پڑھنے کا حکم :

تشہد آہستہ پڑھنے پر امت کا اجماع ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے:

۱۷۴- سنن ابوداؤد و ترمذی و بیہقی میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: ”مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُدَ السُّنَّةَ“، تشہد مسنون کو آہستہ پڑھنا سنت ہے۔ (۱)

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور امام حاکم (۱۱۳۰ھ) اسے حدیث صحیح قرار دیتے ہیں، اور قاعدہ ہے کہ جب کوئی صحابی ”من السنة كذا“ کہے (یعنی سنت اس طرح ہے

(تو اس کا مطلب ہے کہ ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا“ یہی صحیح و مقبول مذہب ہے اور یہی تمام فقہاء، محدثین، علماء اصول اور متکلمین رحمہم اللہ کا قول ہے۔ اگر کوئی اسے زور سے پڑھے تو مکروہ ہوگا مگر اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اور نہ ہی سجدہ سہولاً لازم آئیگا۔

(باب - ۱۳)

تشہد کے بعد درود و سلام کا حکم:

آخری تشہد کے بعد نبی کریم ﷺ پر صلاۃ و سلام پڑھنا امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک واجب ہے، اس لئے اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، البتہ آل نبی پر درود بھیجنا شوافع کے صحیح و مشہور مذہب میں واجب یعنی فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ بعض علماء شوافع کے نزدیک ”آل“ پر بھی درود بھیجنا واجب ہے۔ اور اس کا افضل طریقہ یوں ہے:

۱۷۵- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِسْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ النَّبِيِّ
الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ“

اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول پیغمبر امی محمد پر اور ان کے آل و ازواج اور ذریت پر اس طرح رحمت فرما جس طرح تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت فرمایا، اور برکت نازل فرما پیغمبر امی محمد پر اور ان کے آل و ازواج و ذریت پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمایا حضرت ابراہیم پر اور سارے جہاں میں ان کے آل پر بلاشیر تو بڑا ہی حمد والا اور بزرگی والا ہے۔

یہ کیفیت اور طریقہ صحیح بخاری: ۶۳۵۷، صحیح مسلم: ۴۰۶۰، میں بروایت کعب بن عجرہ، رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے سوائے بعض الفاظ کے کہ وہ بھی کعب کے علاوہ دوسرے صحابہ سے صحیح طور پر ثابت ہے، اور اس کی تفصیل انشاء اللہ رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجنے کے بیان میں آئے گی اس پورے صلاۃ و سلام میں اس قدر کہنا واجب ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
یا ”صَلِّ اللّٰهُ عَلٰی النَّبِيِّ“

علماء شوافع کا ایک قول یہ بھی ہے کہ صرف ”اللہم صل علی محمد“ پر اکتفاء جائز نہیں۔ ایک اور قول کے اندر ”وصلی اللہ علی احمد“ اور ”صلی اللہ علیہ“ کہنا جائز و درست ہے واللہ اعلم۔ مگر مستحب ہے یا نہیں؟ اس میں شوافع کے دو اقوال ہیں، مذہب شافعی کے صحیح قول کے مطابق مستحب ہے، مگر آل و ازواج پر پڑھنا مستحب نہیں اور شوافع کا ایک قول ان پر بھی صلاۃ و سلام پڑھنے کے استحباب کا ہے (احناف کے نزدیک نہ واجب ہے نہ مستحب بلکہ تشہد اول میں پڑھنا مکروہ ہے اور اس سے سجدہ سہولاً لازم آتا ہے) تشہد اول میں دعاء پڑھنا شوافع کے نزدیک مستحب نہیں بلکہ بعض شوافع اسے مکروہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ تشہد اول، تشہد اخیر کے برخلاف تخفیف پر مبنی ہے۔ واللہ اعلم

(باب-۱۳)

تشہد اخیر کے بعد کی دعاء :

تشہد اخیر کے بعد دعاء کرنا بالاتفاق مشروع ہے۔

۱۷۶ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں سکھایا اور اس کے اخیر میں فرمایا:

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ - پھر جو دعاء کرنا چاہے اختیار کرے۔

بخاری کی روایت میں ہے:

أَعَجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو - جو دعاء کرنا اسے پسند ہو وہ دعاء کرے۔

اور مسلم کی روایت میں ہے۔

”ثُمَّ لِيَتَّخِيَرَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ“ (۱)

پھر جو مانگنا اور دعاء کرنا چاہے اس کا انتخاب کرے

یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دعاء مستحب ہے نہ کہ واجب اور اگر امامت نہ کر رہا ہو تو لمبی دعاء کرنا مستحب ہے، دنیا و آخرت کے بارے میں جو چاہے دعاء کرے، یا دعاء ماثورہ پڑھے یا اپنے الفاظ میں دعاء کرے مگر دعاء ماثورہ افضل ہے۔

بعض دعاء ماثورہ وہ ہیں جو اسی جگہ اور اسی مقام کے لئے وارد ہوئی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اس کے علاوہ دیگر اوقات و احوال کے لئے تخصیص وقت کے بغیر وارد ہوئی ہیں، تو وہ ماثورہ دعائیں جو اسی جگہ وارد ہوئی ہیں اس کا اس جگہ پڑھنا زیادہ افضل ہے، نیز اس جگہ پڑھنے کی اور بھی بہت سی دعائیں ثابت ہیں ان میں سے چند یہ ہیں:

۱۷۷ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا فَرَّغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشْهُدِ الْأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ

أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ

الْمُصْحَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ“ (۲)

جب تم میں سے کوئی تشہد اخیر سے فارغ ہو تو چار چیزوں سے وہ اللہ کی پناہ حاصل کرے، جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے شر سے۔

امام مسلم نے متعدد سندوں سے اس کی روایت کی ہے ایک روایت میں اس طرح ہے:

إِذَا تَشْهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ يَقُولُ : اَللّٰهُمَّ

(۱) صحیح بخاری : ۸۳۵، صحیح مسلم : ۴۰۲

(۲) صحیح بخاری : ۱۳۷۷، صحیح مسلم : ۵۸۸ و ۱۳۰

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ
 فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ“
 جب تم میں سے کوئی تشہد کہے (تشہد اخیر سے فارغ ہو) تو چار
 چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور حاصل کرے، وہ کہے اے اللہ میں تیری
 پناہ لیتا ہوں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنہ
 اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے۔

۱۷۸ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
 نماز میں اس طرح دعاء کیا کرتے تھے۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
 فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
 وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ“ (۱)
 اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں قبر کے عذاب سے اور میں تیری
 پناہ پکڑتا ہوں فتنہ مسیح دجال کے شر سے اور میں تیری پناہ پکڑتا ہوں
 زندگی و موت کے فتنہ سے اور اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں
 گناہوں کے کام اور تاوان و دیون سے۔

۱۸۹ - صحیح مسلم میں حضرت علیؓ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز
 کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کا آخری کلمہ جو تشہد و سلام پھیرنے کے درمیان ہوتا یہ تھا:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا
 أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ
 وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“ (۲)

(۱) صحیح بخاری : ۸۳۲، صحیح مسلم : ۵۸۹

(۲) صحیح مسلم : ۷۷۱

اے اللہ تو بخش دے (میری ان تمام گناہوں کو) جو میں نے آگے کیا اور جو پیچھے کیا اور جسے میں نے چھپا کر کیا اور جسے کھلے عام کیا اور جو میں نے زیادتی کی اور جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو وہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

۱۸۰ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حضرت ابو بکر صدیقؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا آپ مجھے ایسی دعاء بتائیں جو میں نماز میں پڑھا کروں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہو:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظَلَمًا کَثِیْرًا وَّلَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِیْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِکَ وَاَرْحَمِنِیْ اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ“ (۱)

اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور تیرے سوا کوئی اور گناہوں کو نہیں بخش سکتا، اس کے لئے آپ اپنے پاس سے خاص مغفرت کے ذریعہ مجھے بخش دیں، اور مجھ پر رحم فرمائیں، بیشک آپ بہت ہی مغفرت فرمانے والے اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔

اکثر روایتوں میں اسی طرح ”ظلمنا کثیرا“ ہے (یعنی بہت زیادہ ظلم و گناہ) البتہ مسلم کی بعض روایتوں میں (ظلمنا کثیرا) ”یعنی بہت بڑا ظلم و گناہ“ ہے اور دونوں ہی الفاظ مناسب ہیں بلکہ دونوں کو جمع کرے ”ظلمنا کثیرا کثیرا“ پڑھنا زیادہ بہتر و مناسب ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور تہبئی وغیرہ دیگر محدثین نے اس حدیث سے نماز کے اخیر میں دعاء پر استدلال کیا ہے، اور یہ استدلال بجا و درست ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر کا، ”صلاحتی“ (اپنی نماز میں) کہنا پوری نماز کو عام ہے اور نماز میں دعاء کا غالب گمان یہی مقام ہے۔

۱۸۱ - سنن ابی داؤد میں بسند صحیح حضرت ابوصالح ذکوان کی روایت کسی صحابی سے ہے، وہ

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص سے فرمایا: کیف تقول فی الصلاة؟ تم نماز میں کس طرح کہتے ہو اس شخص نے جواب دیا میں تشهد پڑھتا ہوں، پھر کہتا ہوں:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ“

اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ لیتا ہوں، اور جہنم سے تیری پناہ لیتا ہوں۔

اور میں نہ تو آپ کی گنگناہٹ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں اور نہ ہی معاذ کی گنگناہٹ کو تو

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”حولہا ندندن“ یا کہا ”حولہا دندن“ اس کے (جنت و جہنم کے) درمیان گنگناہٹ ہے یا ہم کچھ گنگناتے ہیں۔

”دندنہ“ ایسے کلام کو کہتے جس کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے اور ”حولہا ندندن“ کا مفہوم

یہ ہے کہ جنت و جہنم کے درمیان یا ان دونوں سے متعلق دعاء کے درمیان یعنی جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کی درخواست کرنے کے درمیان کچھ اور بھی کلمات ہیں۔ واللہ اعلم۔

وہ دعاء جس کے ذریعہ کسی بھی جگہ دعاء کرنا مستحب ہے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ“ -۱۸۲

اے اللہ میں آپ سے عافیت اور عفو و درگزر کا طالب ہوں

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقْيَ وَالْعَفَافَ وَالْغِنَىٰ“

اے اللہ میں آپ سے ہدایت، پرہیزگاری یا کد امی اور غنا

(دوسروں سے بے نیازی) کا سوال کرتا ہوں۔

(باب-۱۵)

نماز سے نکلنے کے لئے سلام پھیرنا:

نماز سے نکلنے اور حلال ہونے کے لئے سلام پھیرنا اس کے ارکان میں سے ایک رکن

اور فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، یہ امام شافعیؒ، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ اور جمہور سلف کا

مذہب ہے اور چند مشہور صحیح احادیث میں اس کی تصریح موجود ہے۔

(احناف کے نزدیک سلام پھیرنا رکن یا فرض نہیں بلکہ واجب ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے تشہد کے بعد تڑبیٹھ لینے کے بعد نماز کے پوری ہو جانے کا حکم فرمایا، آپ نے فرمایا: ”مَنْ قَالَ هَذَا أَوْ فَعَلَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ“

سلام کا کامل درجہ یہ ہے کہ اپنے داہنے جانب ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ کہنا مستحب نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ سے جو شہرت کے ساتھ مروی ہے، اس میں اس کا ذکر نہیں؟ اگرچہ ابوداؤد کی روایت میں اس کا اضافہ موجود ہے، اور بعض فقہاء شوافع مثلاً امام، روایانی نے ”حلیۃ“ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے مگر یہ شاذ ہے، مشہور قول ہی ہے۔

نمازی خواہ امام ہو یا مقتدی، جماعت کے ساتھ ہو یا تنہا، جماعت تھوڑی ہو یا زیادہ نماز فرض ہو یا نفل سب کے اندر بیان کردہ طریقہ پر دو سلام کیا جائے، اور نمازی سلام کرتے ہوئے داہنے اور بائیں دونوں جانب چہرہ پھیرے۔ ایک سلام واجب اور دوسرا سنت ہے، اس لئے اگر کوئی ایک سلام پھیرے اور دوسرے کو ترک کر دے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

پھر سلام کے الفاظ میں ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ کہنا واجب ہے، اگر کوئی ”سلام علیکم“ کہے تو (شوافع کے نزدیک) صحیح قول کے مطابق یہ درست نہیں ہوگا اور اگر ”علیکم السلام“ کہے تو صحیح قول کے مطابق درست ہوگا اور اگر ”السَّلَامُ عَلَيْكَ“ یا ”سلامی علیک“ یا ”سلامی علیکم“ یا ”سلام اللہ علیکم“ یا ”سلام علیکم“ بغیر تثنیہ کے کہے تو (شوافع کے نزدیک) بالاتفاق درست نہیں ہوگا۔ اس نے اگر جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے اس طرح کہا تو اس کی نماز ان تمام صورتوں میں باطل ہو جائے گی، سوائے اس صورت کے جس میں وہ ”السَّلَامُ عَلَيْهِمْ“ کہتا ہے، کہ اس میں اس کی نماز باطل نہیں ہوگی کیونکہ یہ دعاء ہے، اسی طرح اگر جان بوجھ کر نہیں بلکہ بھول کر ان الفاظ کے ذریعہ سلام پھیرتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، مگر وہ نماز سے اس سلام کے ذریعہ نہیں نکل سکتا، بلکہ اس کے لئے از سر نو اسے صحیح سلام پھیرنا ضروری ہوگا۔

اگر امام ایک ہی سلام پر اکتفاء کرے تو مقتدی کو دونوں سلام کرنا چاہئے، علماء شوافع

میں سے قاضی ابو الطیب الطبری کہتے ہیں کہ جب امام سلام پھیرے تو مقتدی کو اختیار ہے چاہے تو اس وقت سلام پھیر دے اور چاہے تو بغیر سلام پھیرے دعاء میں مشغول رہ کر حالت نماز میں بیٹھا رہے، اور جس قدر لمبی دعاء کرنا چاہے کرتا رہے۔

(باب-۱۶)

نماز کی حالت میں کسی کو جواب دینے کا حکم:

۱۸۴- صحیح بخاری و مسلم میں حضرت سہل بن سعد الساعدیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ“ (۱)
 اگر کسی کو اس کی نماز میں کچھ پیش آئے تو اسے ”سبحان اللہ“ کہنا چاہئے۔
 ۱۸۵- ”إِذَا أَنَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرَّجَالَ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ“ (۲)
 اگر تمہیں (نماز میں) کچھ پیش آئے تو مردوں کو تسبیح پڑھنا (سبحان اللہ کہنا) اور عورتوں کو تالی بجانا چاہئے۔

ایک اور روایت میں ہے۔

۱۸۶- ”التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ“ (۳)
 مردوں کے لئے تسبیح اور عورتوں کے لئے ہاتھ مارنا ہے۔

(باب-۱۷)

نماز کے بعد کی دعائیں:

نماز کے بعد دعاء و ذکر کے مستحب ہونے پر تمام علماء کا اجماع و اتفاق ہے اس سلسلہ میں

(۱) صحیح بخاری: ۱۲۱۸، صحیح مسلم: ۳۲۱ (۲) صحیح بخاری: ۷۱۹۰

(۳) بخاری: ۱۲۰۳، مسلم: ۳۲۲

مختلف نوعیت کی متعدد احادیث کثرت سے واردی ہوئی ہیں اس کا کچھ حصہ اس جگہ ذکر کر رہا ہوں۔
 ۱۸۷- سنن ترمذی میں حضرت ابوامامہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا ”أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ“ کون سی دعاء زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَذُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ“ (۱)

رات کے آخری پہر (تیسرے پہر) اور فرض نمازوں کے بعد۔

۱۸۸- صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں:

كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ“ (۱)

میں جان جاتا تھا نبی کریم ﷺ کی نماز کے ختم ہونے کو تکبیر کی آواز سے۔

مسلم کی روایت میں ”كنت اعرف“ میں جان جاتا تھا واحد تکلم کے صیغہ کے

بجائے ”کنا نعرف“ ہم لوگ جان جاتے تھے۔ جمع تکلم کا صیغہ آیا ہے۔

۱۸۹- صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباسؓ کی دوسری روایت میں ہے:

”إِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ
 كَانَ عَلَيَّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں لوگ جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تھے تو باواز بلند ذکر کیا جاتا تھا۔

اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں:

”كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذْ سَمِعْتُهُ“ (۱)

(۱) سنن ترمذی : ۳۳۹۹، وقال الترمذی : حدیث حسن

(۲) صحیح بخاری : ۸۳۲، مسلم : ۵۸۳

(۳) صحیح بخاری : ۸۳۱، صحیح مسلم : ۵۸۳-۱۳۲

نماز سے جب لوگ فارغ ہوتے تو ان کے اذکار کو سن کر میں نے ان کے فارغ ہونے کو جان جاتا تھا۔

۱۹۰ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ثوبانؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفار کرتے اور فرماتے :

”اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ“ (۱)

اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، اے عظمت و شرف والے تیری ذات عظیم ہے۔

امام اوزاعی جو کہ اس حدیث کے ایک راوی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ یہ استغفار کس طرح ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا اس طرح کہو:

”أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ“ ”أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ“ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ (تین بار)

۱۹۱ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو سلام پھیرنے کے بعد فرماتے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَهْدِ مِنْكَ الْجَهْدُ“ (۲)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہی اور اسی کے لئے ساری تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، اے اللہ جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو تو روکے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور کسی مالدار کو اس کی مالداری تیرے

بغیر نفع نہیں پہونچا سکتی۔

۱۹۲ - صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ سے مروی ہے کہ وہ ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے :

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَالْفَضْلُ
وَلَهُ النَّسَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ
كُفِّرَ الْكَافِرُونَ“

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اسی
کے لئے بادشاہت اور اسی کے لئے حمد و ثناء ہے اور وہ ہر چیز پر قادر
ہے، ساری طاقت و قوت اللہ ہی سے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لئے نعمت و فضل ہے،
(وہی انعام و فضل کر سکتا ہے) اور اسی کے لئے بہترین حمد و ثناء ہے
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہم دین (عبادت) کو اسی کے لئے خاص
کرتے ہیں خواہ کفار اسے ناپسند کریں۔

حضرت زبیرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ انہی کلمات کے ذریعہ تہلیل و اظہار

وحدانیت کیا کرتے تھے۔ (۱)

۱۹۳ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ فقراء مہاجرین رسول اللہ ﷺ
کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اہل دثور یعنی مالدار لوگ بلند مراتب اور لافانی
نعمتوں کو (جنت اور اس کی نعمتوں کو) لے اڑے، ہم جس طرح نماز پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں،
ہم جس طرح روزہ رکھتے وہ بھی رکھتے ہیں، اور انہیں مال کی برتری اور فضیلت حاصل ہے جس

سے وہ حج کرتے، عمرہ کرتے، جہاد کرتے اور صدقہ کرتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أَلَا أَعْلَمُكُمْ شَيْئًا تَذَرُكَونَ بِهِ مِنْ سَبَقِكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ
مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ
مَا صَنَعْتُمْ“

کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تم ان لوگوں کو پالو جو تم سے
سبقت لے گئے اور جس سے تم اپنے بعد والوں پر سبقت لے جاؤ
اور کوئی بھی شخص تم سے افضل نہ ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو وہی
کرے جو تم کرو۔

صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیں اے اللہ کے رسول تو آپ ﷺ نے
فرمایا:

”تَسْبِحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا
وَتَلَاثِينَ“ (۱)

تم لوگ ہر نماز کے بعد ۳۳۳ بار اللہ کی تسبیح بیان کرو حمد بیان
کرو، اور بڑائی بیان کرو (یعنی سبحان اللہ ۳۳۳ بار الحمد للہ ۳۳۳ بار اللہ
اکبر ۳۳۳ بار کہو)

اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرنے والے راوی ابو صالح فرماتے ہیں کہ
کسی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے اس ذکر کی کیفیت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا ”سبحان اللہ
والحمد لله، واللہ اکبر“ کو اس طرح کہے کہ ان میں سے ہر ایک ۳۳۳ بار ہو۔

”أَهْلُ الدُّنُورِ“ دُنُور، دُنُور کی جمع دال کے زبر اور ثاء کے سکون کے ساتھ ہے، اس
کے معنی مال کثیر کے ہیں جمع کی صورت میں دال کو پیش ہے یعنی ”دُنُور“
۱۹۳ - صحیح مسلم میں حضرت کعب بن عجرہؓ کی روایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ

آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَعْقَبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ ذُبُرُ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَاثًا
وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً، وَ أَرْبَعًا
وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً“ (۱)

بعد میں بار بار کہے جانے والے چند کلمات ہیں، جسے ہر فرض نماز کے بعد کہنے والا یا اس پر عمل کرنے والا مایوس نہیں ہوتا، (وہ ہیں) ۳۳ بار تسبیح ۳۳ بار تحمید، اور ۳۳ بار تکبیر (یعنی سبحان اللہ ۳۳ بار، الحمد للہ ۳۳ بار اور اللہ اکبر ۳۳ بار۔

۱۹۵ - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَهُ
اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَقَالَ تَمَامَ
الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [عُفِّرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ
كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ“

جس شخص نے ہر نماز کے بعد ۳۳ بار اللہ کی تسبیح بیان کیا اور ۳۳ بار اللہ کا حمد بیان کیا اور ۳۳ بار اللہ کی بڑائی بیان کی اور سو کو پورا کرتے ہوئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ کہا تو اس کے گناہ بخش دئے جائینگے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (۲)

۱۹۶ - صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد کے شروع میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کلمات کے ذریعہ نماز کے بعد تہود کیا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلَى
اُرْدَلِ الْعُمْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ“ (۱)

اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں بزدلی سے اور میں تیری پناہ لیتا ہوں عمر
کے انتہائی درجہ بڑھاپے کو، یہ ہو نچائے جانے سے، اور میں تیری پناہ لیتا
ہوں دنیا کے فتنے سے اور میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے۔

فیوض: ارذل: ارذل کا اسم تفضیل ہے، اور ارذل کا معنی گھٹیا ہونا ہے، ارذل عمر سے مراد عمر کا وہ
آخری حصہ ہے جس میں انسان عاجز و بوسیدہ ہو جائے، غور و فکر کی صلاحیت ختم ہو جائے، اور
انتابوڑھا ہو جائے کہ عقل کی کمی، جسمانی کمزوری، ناسمجھی اور بد عقلی میں بچپن کی طرف اس کی
واپسی متصور ہو، نسیان اس پر مسلط ہو جائے اور رفتہ رفتہ تمام چیزوں کو بھولتا جائے، حاصل
کردہ علم میں اگر کمی نہ بھی ہو تو اضافہ کا امکان باقی نہ رہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
كَيْلًا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا — اللہ سے دعاء ہے کہ وہ ہم سبھوں کو بڑھاپے کی اس حد کو
پہنچانے سے محفوظ رکھے، جس میں انسان مجبور و بے بس اور ہر چیز کے لئے دوسروں کا محتاج
بن جاتا ہے۔

۱۹۷- سنن ابی داؤد و ترمذی و نسائی میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے ارشاد فرمایا :

خَصَلْتَانِ اَوْ خُلْتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ اِلَّا دَخَلَ
الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيْلٌ، يُسَبِّحُ اللّٰهَ تَعَالٰى
دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُحَمِّدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا،
فَدَلِيْكَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَاَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِى
الْمِيزَانِ وَيُكَبِّرُ اَرْبَعًا وَثَلٰثِيْنَ اِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيُحَمِّدُ

ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ
وَأَلْفٌ بِالْمِيزَانِ“

دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی مسلمان بندہ اس کی پابندی کرتا
جنت میں ضرور داخل ہو جاتا ہے، یہ دونوں آسان اور اس پر عمل
کرنے والوں کے لئے تھوڑا ہے (وہ ہیں) ہر نماز کے بعد دس بار
اللہ کی تسبیح بیان کرے، دس بار اللہ کا حمد بیان کرے، دس بار اللہ کی
کبریائی بیان کرے، یہ زبان سے ڈیڑھ سو ہیں اور میزان حسنات
میں پندرہ سو ہیں اور جب کوئی سونے کے لئے بستر پر جائے تو
چونتیس ۳۴ بار اللہ کی کبریائی بیان کرے اور ۳۳ بار اللہ کی تسبیح بیان
کرے، اور ۳۳ بار اللہ کا حمد بیان کرے تو یہ زبان سے سو اور میزان
حسنات میں ہزار ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو پڑھنے میں ہاتھ کی
دوا انگلیوں کو باندھتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ دونوں کس طرح
آسان ہے، اور عمل کرنے والوں کے لئے تھوڑے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”يَأْتِي أَحَدَكُمْ - الشَّيْطَانُ - فِي مَنَامِهِ ، فَيَنُومُهُ قَبْلَ أَنْ

يَقُولَهُ وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيَذْكُرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا“

شیطان تم میں سے کسی کے پاس سوتے وقت آتا ہے، اور اسے

کہنے سے پہلے ہی اسے سلا دیتا ہے اور اسکی نماز میں آتا ہے اور اس

کے کہنے سے پہلے ہی کسی ضرورت کو یاد دلا دیتا ہے۔ (۱)

اس روایت کی سند صحیح ہے، البتہ اس کے ایک راوی عطاء بن سائب کے بارے میں

محدثین کا اختلاف ہے، کیونکہ اخیر عمر میں ان کے عقل میں خرابی و اختلاط پیدا ہو گیا تھا، ایوب

ستحیاتی نے اس حدیث کی صحت کا اشارہ دیا ہے۔

۱۹۸ - سنن ابی دواؤد، ترمذی و نسائی وغیرہ میں حضرت عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں:

”أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ

بِالْمَعْوِذَتَيْنِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ“

رسول اللہ ﷺ نے مجھے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا۔

ابوداؤد کی روایت میں ”معوذتین“ کے بجائے ”بالمعوذات“ ہے اس لئے ہر نماز کے

بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھنا بہتر ہے۔ (۱)

۱۹۹ - سنن ابوداؤد و نسائی میں بسند صحیح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا:

”يَا مَعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي أُحِبُّكَ فَقَالَ : أَوْصِيكَ يَا مَعَاذُ،

لَا تَسُدَّ عَيْنَيْ فِيمَا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ : [اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى

ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ] (۲)

اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں پھر فرمایا: اے معاذ میں

تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ تو انہیں کسی نماز کے بعد مت چھوڑنا کہو:

”اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ“

اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر اپنا شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح

کرنے پر۔

۲۰۰ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت انسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب

اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی پیشانی داہنے ہاتھ سے پوچھتے پھر فرماتے:

(۱) دیکھئے: ابوداؤد: ۱۵۲۳، سنن ترمذی: ۲۹۰۳، نسائی: ۱۳۲۶

(۲) ابوداؤد: ۱۵۲۲، نسائی: ۱۳۰۳

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ أَذْهَبْ
عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ“ (۱)

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا مہربان نہایت
رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو میری پریشانی اور غم کو دور فرما۔

۲۰۱ - اسی میں حضرت ابوامامہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی رسول اللہ ﷺ
کے قریب کسی فرض یا نفل نماز کے بعد ہوتا تو آپ کو یہ کہتے سنتا:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَخَطَايَايَ كُلَّهَا، اللَّهُمَّ انْعَشِنِي
وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْإِخْلَاقِ إِنَّهُ
لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ سَيِّئِهَا إِلَّا أَنْتَ“ (۲)

اے اللہ تو میرے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ تو
مجھے بلندی (خوشحالی) عطا فرما، میری تلافی فرما اور مجھے اچھے اعمال و
اخلاق کی رہنمائی فرما، کیونکہ اچھے اعمال و اخلاق کی رہنمائی صرف تو
ہی کر سکتا ہے اور برے اعمال و اخلاق کو تو ہی دور کر سکتا ہے۔

۲۰۲ - اسی میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نماز سے فارغ
ہوتے (یہ معلوم نہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے یا اس کے بعد) تو فرماتے:

”سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ (الصف: ۱۸۰)

پاک ذات ہے تیرے رب کی وہ پروردگار عزت والا پاک ہے ان
باتوں سے جو بیان کرتے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر اور سب خوبی
ہے اللہ کو جو رب ہے سارے جہان کا۔ (۳)

(۱) عمل اليوم والليلة لابن سني: ۱۱۰، حديث ضعيف جدا

(۲) عمل اليوم والليلة لابن سني: ۱۱۳، حديث ضعيف

(۳) عمل اليوم والليلة لابن سني: ۱۱۷، حديث ضعيف

۲۰۳ - حضرت انسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے:

”اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ
وَاجْعَلْ خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَاكِ“

اے اللہ تو میری عمر کا بہترین حصہ اس کے آخری حصہ کو بنا، اور
میرے عمل کا بہترین آخری عمل کو بنا اور میرے ایام کا سب سے
بہترین اپنی ملاقات کے دن کو بنا۔

۲۰۴ - اسی میں حضرت ابو بکر صدیقؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے بعد کہا کرتے
تھے:

”اللَّهُمَّ انِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ“ (۱)

اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کفر، فقر، اور عذاب قبر سے

۲۰۵ - اور اسی میں بسند ضعیف حضرت وفضالہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا:

”إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالشَّاءِ عَلَيْهِ
ثُمَّ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو
مَا شَاءَ“ (۲)

جب کوئی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء سے شروع کرے پھر
اپنے نبی صلی اللہ ﷺ پر درود بھیجے، پھر جو چاہے دعاء کرے۔

(۱) عمل الیوم لابن سنی: ۱۰۹ حدیث حسن

(۲) عمل الیوم لابن سنی: ۱۱، ضعیف عند النووی وحسن صحیح عند الترمذی: ۳۳۷۷

(باب-۱۸)

نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تاکید:

دن میں ذکر کا سب سے افضل وقت نماز فجر کے بعد ہے۔

۲۰۶- ترمذی وغیرہ میں حضرت انسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

”مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ كَأَجْرِ حَبِيبَةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَةٍ“ (۱)

جس نے جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کیا پھر بیٹھ کر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر دو رکعت نماز (اشراق) پڑھا تو یہ ایک مکمل حج اور عمرہ کے ثواب کے برابر ہوگا (مکمل کے لفظ کو بطور تاکید تین بار فرمایا)

۲۰۷- ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ذرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ قَالَ فِي ذُبُرِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهُوَ تَانٍ رَجُلِيهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِبِّي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ فِي حِسْرٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَحُسْرٍ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَ لَمْ يَبْغِ لِدُنْبٍ أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشَّرْكَ بِاللَّهِ“

(۱) سنن ترمذی ۵۸۶، وقال الترمذی : حديث حسن

جس کسی نے نماز فجر کے بعد جب کہ وہ اپنا پاؤں موڑے ہوا ہو (یعنی نماز ہی کی ہیئت پر بیٹھا ہو) بات کرنے سے پہلے دس بار کہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ اس کے لئے دس نیکی لکھی جاتی، دس گناہ مٹائے جاتے اور اس کے دس درجات بلند کر دیئے جاتے ہیں، اور یہ کلمات اس پورے دن اس کے لئے ہر ناگوار بات سے ڈھال بنا رہتا اور شیطان سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس دن کسی گناہ کے لئے گنجائش نہیں کہ اسے پالے سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے (کہ اس کی معافی نہیں)۔ (۱)

۲۰۸ - سنن ابی داؤد میں صحابی رسول حضرت مسلم بن حارث التمیمیؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے سرگوشی میں فرمایا:

”إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْ [اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ] سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مِتَّ مِنْ لَيْلِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا، وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ مِنْ يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا“ (۲)

”اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ“ اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے (کہو کیونکہ اگر تم نے یہ کہ لیا، پھر اسی رات تمہاری وفات ہوگی تو تمہارے لئے اس سے پناہ لکھ دیا جائے گا، اور جب فجر کی نماز پڑھو تو

(۱) ترمذی: ۳۳۷۰، وقال الترمذی: هذا حديث حسن، کسی نسخہ میں ہے حدیث صحیح

(۲) ابوداؤد: ۲۰۹۵۰۷۹

اسی طرح کہو کیونکہ اگر تمہاری وفات اسی دن ہوگی تو تمہارے لئے
اس سے پناہ لکھ دیا جائے گا۔

مسند امام احمد، سنن ابن ماجہ اور ابن سنی کی کتاب میں حضرات ام سلمہؓ سے مروی ہے وہ
فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا
طَيِّبًا (۱)

اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں علم نافع مقبول عمل اور رزق
حلال کا۔

۲۱۰ - اسی میں حضرت صہیبؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز کے بعد کچھ پڑھتے
ہوئے اپنے ہونٹ ہلارہے تھے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو
آپ ﷺ نے فرمایا:

”اللَّهُمَّ بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ أَصَاوِلُ وَبِكَ أَقَاتِلُ“ (۲)

اے اللہ میں تیری ہی مدد سے ہر اچھے کام کا قصد کرتا ہوں، اور تیری
ہی مدد سے دشمن پر حملہ آور ہوتا ہوں اور تیری ہی مدد سے دشمنوں سے
جنگ کرتا ہوں۔

اس مفہوم کی اور بھی بہت سی احادیث میں جن کا ذکر جلد ہی ان دعاؤں کے بعد آئے گا
صبح میں کہی جاتی ہیں جس سے انشاء اللہ آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوگی، واللہ اعلم۔
امام ابو محمد بنغوی علیہ الرحمہ شرح السنۃ میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت علقمہ بن قیس
نے فرمایا:

بَلَّغْنَا أَنَّ الْأَرْضَ تَعْبُجُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ نَوْمَةِ الْعَالَمِ بَعْدَ

(۱) مسند احمد ۶/۲۹۳، ابن ماجہ، ۹۲۵، عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی: ۱۰۸۔

(۲) عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی: ۱۱۵ احادیث حسن

صَلَاةِ الصُّبْحِ“

ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ نماز فجر کے بعد زمین دنیا والوں کی نیند کے بارے میں اللہ سے حج حج کرفریاد کرتی ہے۔

(باب-۱۹)

صبح و شام کے اذکار اور دعائیں:

یہ وسیع تر باب ہے، اس کتاب میں اس سے زیادہ وسیع باب شاید کوئی اور نہ ہو، میں انشاء اللہ یہاں اس کا مختصر حصہ ذکر کرونگا، ان سارے اذکار پر عمل کرنے کی توفیق اللہ کا بڑا فضل، نعمت کبریٰ اور سعادت و خیر ہوگا، اور جو شخص سب پر عمل کرنے سے قاصر ہو اسے بقدر کفایت کم از کم چند مختصر دعاؤں کا ضرور التزام و پابندی رکھنی چاہئے خواہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔

اس باب کا اصل مجور قرآن عزیز میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا“ (طہ: ۱۳۰)

اور پڑھتا رہو خویاں اپنے رب کی سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْآبِكَارِ“ (غافر: ۵۵)

اور پانچ بول اپنے رب کی خویاں شام کو اور صبح کو۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخَيْفَةً وَذُكُورًا

الْبَجْهَرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ“ (الاعراف: ۱۵)

اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو اپنے دل میں گڑگڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا اور

ایسی آواز سے کہ پکار کر بولنے سے کم ہو، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔

(آصال اصل کی جمع ہے اور اہل لغت فرماتے ہیں کہ یہ عصر و مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعُدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ (الانعام: ۵۲)

اور مت دور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام،
چاہتے ہیں اسی کی رضا۔

(اہل لغت کہتے ہیں کہ ”عشی“ زوال شمس سے غروب شمس کے درمیان کا وقت ہے)

نیز اللہ کا ارشاد ہے :

”فِي يَوْمِ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ، يُسَبِّحُ
لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوِ وَالْآصَالِ ، رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ (النور: ۳۶)

ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا اور وہاں اس کا
نام پڑھنے کا، یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح و شام اور وہ مرد کہ نہیں
غافل ہوتے سودا کرنے میں اور بیچنے میں اللہ کی یاد سے۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأَشْرَاقِ“ (ص: ۱۸)

ہم نے تابع کئے پہاڑ اس کے ساتھ پاکی بولتے تھے شام کو اور صبح کو۔

۲۱۱- صحیح بخاری میں حضرت شداد بن اوسؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ

ﷺ نے فرمایا: سید الاستغفار یہ ہے:

[اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ

وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَبُوهُ لَكَ
بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوهُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ“ [

اذا قال ذلك حين يُمسي فمات من ليلته دخل
الجنة أو كان من اهل الجنة واذا قال حين يصبح فمات
من يومه مثله“ (۱)

اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے
پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور جتنی میرے اندر استطاعت ہے میں
تیرے وعدے اور عہد و پیمانے پر قائم ہوں، تمہاری نعمتیں جو میرے
اوپر ہیں میں تیرے سامنے اس کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں، اور میں
اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اس لئے تو میری مغفرت فرما
کیونکہ تیرے سوا کوئی اور گناہوں کو نہیں بخش سکتا، میں تیری پناہ لیتا
ہوں اپنے کئے ہوئے شر سے۔

اگر اسے شام کے وقت کہے اور اسی رات اس کی وفات
ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت والوں میں
سے ہوگا اور اگر وہ اسے صبح کرتے ہوئے کہے اور اسی دن اس کی
وفات ہو جائے تو..... اسی طرح ہے یعنی جنت میں داخل ہوگا)

۲۱۲ - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
ارشاد فرمایا:

مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَشِي [سُبْحَانَ اللَّهِ
وَبِحَمْدِهِ] مِائَةَ مَرَّةٍ : لَمْ يَأْتِ أَحَدِيَوْمَ الْقِيَامَةِ ، بِأَفْضَلِ

مما جاء به إلا احد قال مثل ما قال اوزاد عليه“ (۱)
 جس کسی نے صبح کرتے وقت اور شام کرتے وقت ”سُبْحَانَ اللَّهِ
 وَبِحَمْدِهِ“ سوبار کہ لیا وہ قیامت کے دن اس طرح آئیگا کہ اس
 سے افضل ذکر لانے والا اور کوئی نہ ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جس
 نے وہی کہا جو اس نے کہا ہے یا اس سے زیادہ کہا ہے۔

۲۱۳ - ابو داؤد کی روایت میں ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ کے بجائے ”سُبْحَانَ اللَّهِ
 الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ“ ہے۔ (۲)

۲۱۴ - سنن ابی داؤد، ترمذی و نسائی وغیرہ میں صحیح سندوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن خمیب
 سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سخت تاریک اور بارش کی رات میں آپ ﷺ کو تلاش
 کرنے نکلے تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، ہم لوگ آپ سے آئے آپ ﷺ نے فرمایا کہو: میں
 نے کچھ نہیں کہا (خاموش رہا) آپ نے پھر فرمایا کہو میں نے پھر کچھ نہیں کہا (اور خاموش رہا)
 آپ نے تیسری بار فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کیا کہوں؟ تو آپ
 ﷺ نے فرمایا:

”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمَعُودَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ
 ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ“ (۳)
 جب صبح کرو اور جب شام کرو تو تین بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اور
 معوذتین کہو یہ تمہارے لئے ہر چیز سے کفایت کرے گی۔

۲۱۵ - سنن ابی داؤد، ترمذی و نسائی وغیرہ میں صحیح سندوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی
 روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صبح کے وقت کہا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ

(۱) صحیح مسلم: ۶۲۹۱ (۲) ریعیں: ابو داؤد: ۵۰۹۱

(۳) ابو داؤد: ۵۰۸۱، ترمذی: ۳۵۷۵، نسائی: ۵۳۲۸، وقال الترمذی حسن صحیح

نَمُوْتُ وَالْيَكِ النَّشُورُ“

اے اللہ ہم نے تیری ہی قدرت و توفیق سے صبح کیا اور تیری ہی قدرت و توفیق سے شام کیا اور تیری ہی قدرت سے زندہ رہتے اور تیری ہی قدرت سے مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔

اور شام ہوتی تو کہتے :

”اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَآلَيْكَ
النَّشُورُ“

اے اللہ ہم نے تیری ہی قدرت و توفیق سے شام کیا اور تیری ہی قدرت سے جیتے اور تیری ہی قدرت سے مرتے ہیں اور تیری ہی طرف اٹھایا جانا ہے۔ (۱)

۲۱۶ - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب سفر میں ہوتے اور سحر کا وقت ہوتا تو فرماتے :

”سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَايِهِ عَلَيْنَا [رَبَّنَا
صَاحِبِنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ]“ (۲)
اللہ کی حمد اور ہماری اچھی آزمائش کو سننے والے نے سنایا (اے
میرے رب تو میرے ساتھ رہ اور جہنم سے اے اللہ اپنی پناہ دے کر
میرے اوپر نفضل فرما۔

قاضی عیاض، صاحب مطالع اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ سَمِعَ بِأَبِ تَفْعِيلٍ سے سنانے کے معنی میں ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ سننے والوں نے میرے اس قول کو دوسروں تک پہنچایا انہیں میری یہ دعاء دوسروں کو پہنچا دینی چاہئے۔

(۱) ابو داؤد : ۵۰۶۸ ، ۳۳۸۸ ، ابن ماجہ : ۳۸۶۸ ، وقال الترمذی حدیث حسن

(۲) صحیح مسلم : ۲۷۱۸

اس حدیث سے سحر کے وقت ذکر الہی اور دعاؤں کا اہتمام کرنے پر متنبہ کرنا بھی مقصود ہے۔
 امام خطابی وغیرہ نے سحر کو بغیر تشدید کے سننے کے معنی میں نقل کیا ہے، امام خطابی
 فرماتے ہیں، کہ سَمِعَ سَامِعٌ (سننے والے نے سنا) کا مفہوم یہ ہے کہ شہید شاہد (گواہی
 دینے والوں نے گواہی دی) اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ سننے والوں کو سننا اور گواہی دینے والوں کو
 گواہی دینا چاہئے، کہ ہم اللہ کا اس کی نعمتوں اور اچھی آزمائشوں پر حمد بیان کرتے ہیں۔
 ۲۱۷ - صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
 جب شام ہوتی تو فرماتے :

”أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“

ہم نے اور سارے عالم نے اللہ کے لئے شام کیا اور تمام تعریفیں اللہ کیلئے
 ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ ﷺ نے (اس کے ساتھ) یہ بھی کہا:

”لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، رَبِّ
 أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ، رَبِّ
 أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسْلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ
 مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ“

اسی کے لئے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لئے ساری تعریفیں
 ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اے میرے رب اس رات کے اندر جو
 کچھ خیر ہے اور اس رات کے بعد جو کچھ خیر ہے، میں آپ سے اس
 کی درخواست کرتا ہوں اور جو کچھ اس رات کے اندر شر اور اس کے
 بعد شر چھپا ہے اس سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اے میرے رب میں

آپ کی پناہ لیتا ہوں کاہلی، بڑھاپے کی انتہاء اور درازی عمر کی شامت سے، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں جہنم میں عذاب دئے جانے یا قبر میں عذاب دئے جانے سے۔

اور جب صبح ہو تو اس کے ساتھ یعنی اَمْسَيْنَا وَ اَمْسَى الْمَلِكُ کے بعد یہ بھی کہے
 ”اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلّٰهِ“ ہم نے اور سارے عالم نے اللہ کے لئے صبح کیا۔ (۱)
 ۲۱۸ - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کل جس بچھو نے مجھے ڈنک مارا اس سے کس قدر مجھے تکلیف پہنچی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اَمَالُوْا قُلْتُمْ حِيْنَ اَمْسَيْتُمْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّكَ“

اے کاش کہ اگر تم نے شام کو ”اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ“ (میں اللہ کی تمام و مکمل کلمات کی پناہ لیتا ہوں، اس کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا) کہہ لیا ہوتا تو وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچاتا۔

امام مسلم نے حضرت خولہ بن حکیم کی روایت بھی اسی طرح متصلًا آنحضور ﷺ سے نقل کی ہے۔

۲۱۹ - ابن سنی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس طرح فرمایا:

[اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ] ثَلَاثًا
 لا يضره شئى“ (۲)

اگر کوئی تین بار ”اعوذ بکلمات اللہ التامات“ کہے، لے تو

اسے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی۔

۲۲۰ - سنن ابی داؤد و ترمذی میں بسند صحیح حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر

صدیقؓ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے ایسے کلمات کا حکم دیں جسے میں صبح و شام کہا کروں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: قل کہو:

«اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مَلِيكَهُ، اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ لَهْ» قَالَ : قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَ إِذَا أَمْسَيْتَ وَ إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ (۱)

اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے غیب و حاضر کو جاننے والے تمام چیزوں کے رب اور اس پر حکمرانی کرنے والے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری پناہ لیتا ہوں، اپنے خواہشات نفسانی کے شر اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اسے صبح و شام اور جب سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو کہو۔

۲۲۱ - اسی طرح کی روایت ابوداؤد میں حضرت ابوما لک اشجعی سے ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ہمیں ایسے کلمات بتائیں جسے ہم صبح و شام اور سوتے وقت کہا کریں تو آپ نے اسی طرح کہنے کی ہدایت کی، البتہ اس کے اندر ”ومن شر الشیطان و شرکھ“ کے بعد یہ اضافہ ہے:

«وَأَنْ أَقْتَرِفَ سُوءَ عَلَيَّ نَفْسِي أَوْ أُجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ» (۲)
اور اس سے کہ ہم اپنے لئے کسی برائی کا ارتکاب کریں یا کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ۔

(۱) ابوداؤد: ۵۰۶۷، ترمذی: ۳۳۹۲، وقال البرمذی: حسن صحيح

(۲) ابوداؤد: ۵۰۸۳

”و شُرکَہ“ دو طرح سے مروی ہے، ایک شیخین کے زیر اور راء کے سکون کے ساتھ شریک یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنے کے معنی میں جسکا مفہوم ہوگا اللہ سے ان چیزوں کی پناہ مانگنا جس کی دعوت شیطان دیتا یا اس کا دوسوسہ پیدا کرتا ہے، دوسرا قول شیخین اور راء دونوں کے زبر کے ساتھ ”شُرکَہ“ ہے جس کا معنی جال ہے، یعنی شیطان کے جال اور اس کے فریب سے پناہ مانگنا۔

۲۲۲ - ابوداؤد ترمذی میں حضرت عثمان بن عفانؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ:
[يَسْمِعُ اللَّهُ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْئٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ] ثَلَاثَ مَرَاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ
شَيْءٌ (۱)

جو کوئی مومن بندہ ہر دن کی صبح اور شام تین بار یہ کلمات کہ لے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی (وہ کلمات ہیں) ”يَسْمِعُ اللَّهُ الَّذِي الْعَلِيمُ“ تک ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کے سہارے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔

یہ ترمذی کے الفاظ ہیں اور ابوداؤد کی روایت میں ”لَمْ يَضُرُّ شَيْئٌ“ کی جگہ ”لَمْ يُضِبَّهُ فَجَاءَهُ بَلَاءٌ“ (کوئی ناگہانی بلاء و مصیبت اسے نہیں پہنچ سکتی) ہے۔

۲۲۳ - ترمذی میں حضرت ثوبانؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَالَ حِينَ يُمَسِّي: جَسَّ نَسَمًا لَوْ كَمَا:
[رَضِيئْتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ

(۱) ابوداؤد: ۵۰۸۸، ترمذی: ۳۳۸۸، وقال الترمذی حسن صحيح

علیہ وسلم نبیاً کان حقاً علی اللہ ان یُرْحِیْہ (۱)
 میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے نبی
 ہونے پر راضی ہوں، تو اللہ پر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے خوش
 کر دے۔

اس روایت کی سند میں ایک راوی حضرت حذیفہ بن یمانؓ کے آزاد کردہ غلام سعد بن
 مرزبان ابوسعید البقال الکوفی ہیں، حفاظ حدیث کے نزدیک یہ متفقہ طور پر ضعیف ہیں، مگر امام
 ترمذی نے اس حدیث کو صحیح صحیح اور اس سند کو غریب قرار دیا ہے، غالباً یہ روایت ان کے
 نزدیک کسی دوسری سند سے صحیح ہے۔

ابوداؤد ونسائی نے اس حدیث کی روایت رسول اللہ ﷺ سے انہی الفاظ میں ”بِسْمِ حَمْدِ“
 ایسے شخص (یعنی صحابہ) سے کی ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت کے فرائض انجام دئے
 ہیں، اس لئے بحمد اللہ اصل حدیث بہر طور ثابت ہے۔

امام حاکم ابو عبد اللہ نے المستدرک علی الصحیحین میں اس کی تخریج کرنے
 کے بعد اس کی توثیق کی ہے اور اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ (۲)

ابوداؤد وغیرہ کی روایت میں ”وَبِسْمِ حَمْدِ رَسُوْلًا“ اور ترمذی کی روایت میں ”وَبِسْمِ حَمْدِ
 نَبِیًّا“ آیا ہے، اس لئے مستحب ہے کہ دونوں کو ملا کر ”وَبِسْمِ حَمْدِ نَبِیًّا وَرَسُوْلًا“ کہا جائے اور اگر
 ان دونوں میں سے کسی ایک پر اکتفاء کرتے ہوئے ”وَبِسْمِ حَمْدِ نَبِیًّا“ یا ”وَبِسْمِ حَمْدِ رَسُوْلًا“ کہے
 تو بہر دو صورت حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا۔

۲۲۳۔ سنن ابی داؤد میں بسند ”جید“ جس کی انہوں نے تضعیف نہیں کی ہے، حضرت انسؓ
 سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَنْ قَالِ حَسْبِنِ یَسْبِحُ وَیَسْمِی [اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ

(۱) سنن ترمذی: ۳۳۸۹

(۲) دیکھیں: ابوداؤد: ۵۰۷۳، عمل الیوم للنسائی: ۴، مستدرک حاکم: ۱/۱۸۱

أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ ، وَمَلَائِكَتِكَ وَجَمِيعَ
خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ [اعتق الله ربعة من النار فمن قالها
موتين اعتق الله نصفه من النار ، ومن قالها ثلاثا اعتق الله
ثلاثه ارباعه من النار ، فإن قالها اربعا اعتقه الله تعالى من
النار“

اے اللہ میں نے صبح کر لی ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے
حالیں عرش ، تیرے فرشتوں اور تیری تمام مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی
معبود برحق ہے ، تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد ﷺ آپ کے
بندے اور رسول ہیں (جس نے ایک بار کہا) اللہ تعالیٰ اس کے ایک
چوتھائی حصہ کو نارِ جہنم سے آزاد فرمادینگے ، اور جس نے دو بار کہا ، اللہ اس
کے آدھے حصہ کو نارِ جہنم سے آزاد فرمادیں گے اور جس نے اسے تین
بار کہا اللہ اس کے تین چوتھائی حصہ کو نارِ جہنم سے آزاد فرمادینگے اور جس
نے اسے چار بار کہا اللہ تعالیٰ اسے پورے طور پر نارِ جہنم سے آزاد
فرمادیں گے۔ (۱)

۲۲۵ - سنن ابی داؤد میں سند جس کی جید انہوں نے تضعیف نہیں کی ہے۔ صحابی رسول
حضرت عبداللہ بن غنم البیاضیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ قَسَّأَ حَسِينَ
بِصَبْحِ جَسْ نِي صَبْحِ كِي وَتِي كِي:

[السُّلَيْمِيُّ مَا أَصْبَحَ بِسِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحَدِّكَ
لَا تُشْرِيكَ لَكَ ، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدِ ادَى
شُكْرُ يَوْمِهِ ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَسِينَ يَمْسِي فَقَدِ ادَى

شکر لیلتہ“ (۱)

اے اللہ جن نعمتوں کے ساتھ میری صبح ہوئی، وہ یقیناً تیری ہی طرف سے ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری تعریفیں تیرے لئے اور سارا شکر تیرے ہی واسطے ہے، تو یقیناً اس نے اس دن کا حق شکر ادا کر دیا اور جس نے اسی طرح شام کو کہا تو اس نے اس رات کا حق شکر ادا کر دیا۔

غوثیت: صبح میں اللھم ما اصبیح بی من نعمۃ الخ کہے اور شام میں اس کی جگہ ”اللھم ما امسی بی من نعمۃ، الخ کہے:

۲۲۶- صحیح سندوں سے ابوداؤد و نسائی و ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی صبح ہوتی یا شام ہوتی نبی کریم ﷺ کبھی ان دعاؤں کو نہیں چھوڑتے۔

”اللھم انی اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللھم انی اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَاهْلِي وَمَالِي اللھم اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللھم احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ قَوْلِي وَاعْوِذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي“

اے اللہ میں آپ سے دنیا و آخرت میں عافیت کی درخواست کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے اپنا دین اپنی دنیا اور اپنے اہل و عیال اور مال و اسباب میں عافیت اور عفو و درگزر کی درخواست کرتا ہوں اے اللہ تو میری پردہ پوشی فرما اور خوف و ہراس سے امن و سلامتی عطا فرما، اے اللہ تو میری حفاظت فرما میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے داہنے سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور

میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں نیچے سے ہلاک کئے جانے سے۔ (۱)
 وکیح فرماتے ہیں کہ ”نیچے سے ہلاک کئے جانے سے مراد زمین میں دہنسا کر ہلاک کرنا
 ہے، امام حاکم نے اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ (۲)
 ۲۲۷ - سنن ابی داؤد و نسائی وغیرہما میں بسند صحیح حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
 ﷺ جب سونے کے لئے بستر پر جاتے تو فرماتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ
 مِنْ شَرِّمَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَعْرَمَ
 وَالْمَاتَمَ اللَّهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ وَلَا يُخْلَفُ وَعُدُكَ وَلَا يَنْفَعُ
 ذَا الْجِدَّةِ مِنْكَ الْجِدُّ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ“ (۳)

اے اللہ میں تیرے وجہ کریم اور تیرے کمل کلمات کی پناہ لیتا ہوں،
 ان تمام مخلوق کے شر سے جو تیرے قبضہ قدرت میں (تیری گرفت
 میں) ہے اے اللہ تو ہی قرض کے بوجھ اور گناہوں کے اسباب کو دور
 کرنے والا ہے، اے اللہ تیری فوج کو شکست نہیں دیا جاسکتا، اور
 تیرے وعدہ کو توڑا نہیں جاسکتا، اور کسی مالدار کو اس کی مالداری نفع
 نہیں پہنچا سکتی، یا تیری ذات پاک ہے، ساری تعریفیں تیرے
 لئے مختص ہیں۔

۲۲۸ - ابوداؤد و ابن ماجہ میں بسند جید حضرت ابو عیاش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ
 ﷺ نے فرمایا: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ، حَسَنٌ نَزَعُ صُحُوحًا كَوَافِرًا:

[لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
 الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] كَانَ لَهُ عِدْلٌ رَقَبَةٌ مِنْ

(۱) ابوداؤد ۵: ۵۰۷۳، وتحفه ۶۶۷۳، بحوالہ السنن الكبرى للنسائی وابن ماجہ: ۳۸۷۱

(۲) دیکھیں: مستدرک حاکم: ۵۱۷/۱

(۳) سنن ابی داؤد، ۵۰۵۲، تحفه الاشراف: ۱۰۰۳۸، بحوالہ السنن الكبرى للنسائی

وَلِدِ إِسْمَاعِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ
وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ فِي
حَرِّزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمَسِّيَ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ
مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ (۱)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے
لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز
پر قادر مطلق ہے، تو اس کے لئے اسماعیل عليه السلام کی اولاد سے ایک
غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور اس کے لئے دس نیکیاں
لکھی جائے گی، اور دس گناہ مٹائے جائیں گے، اور اس کے دس
درجات بلند کر دیئے جائیں گے اور وہ شام تک شیطان سے حفاظت
میں رہے گا، اور اگر اسے شام میں کہے تو صبح تک اسی طرح رہے گا،
(یعنی شیطان سے محفوظ رہے گا)

سنن ابی داؤد میں بسند صحیح یا حسن (اس کی تضعیف نہیں کی گئی ہے) حضرت ابو مالک
الاشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ تَمَّ مِنْ
جِبْ كُوْنِي صَبْحَ كَرَّ تَوَكَّبِي:

[أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ شَيْخَرَهُ هَذَا الْيَوْمِ فَتُحِّهَ وَنُصْرَهُ وَنُورَهُ وَبِرَّ كُنْتَهُ
وَهُدَاهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ]

ہم نے اور سارے عالم نے اللہ رب العالمین کے لئے صبح کیا،
اے اللہ میں آپ سے اس دن کی بھلائی یعنی اس کی فتح و نصرت اور
نور و برکت اور ہدایت کی درخواست کرتا ہوں، اور جو کچھ اس دن

کے اندر یا اس کے بعد شروع و برائی ہے اس سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔

ثُمَّ إِذَا أَمْسَى فَلْيَقْبَلْ مِثْلَ ذَلِكَ (۱) پھر جب اس کی شام ہو تو اسی طرح کہے۔

فیوث: ”أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَكُّ“ کی جگہ شام میں ”أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ“ کہے اور ”هَذَا الْيَوْمَ“ کی جگہ ”هَذِهِ اللَّيْلَةَ“ کہے اور ”فَتَحَّصَهُ وَنَصَرَهُ“ کی جگہ ”فَتَحَّصَهَا وَنَصَرَهَا“ کہے اور یوں پڑھے:

”أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اللَّهُمَّ إِنِّي

أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَتَحَّصَهَا وَنَصَرَهَا وَنُورَهَا وَبَرَكَتَهَا

وَ هُدَاهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا“

۲۳۰ - سنن ابی داؤد میں حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والد

سے عرض کیا کہ اباجان! میں آپ کو ہر صبح اس طرح دعا کرتے سنتا ہوں:

”اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي اللَّهُمَّ

عَافِنِي فِي بَصَرِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ ،

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ قَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ“

اے اللہ تو مجھے عافیت دے، میرے بدن میں، اے اللہ تو مجھے

عافیت دے میرے کانوں میں، اے اللہ تو مجھے عافیت دے میری

نگاہوں میں، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کفر اور فقر سے، اے اللہ

میں تیری پناہ لیتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

آپ صلعم اسے صبح میں تین بار دہراتے اور شام میں بھی تین بار ہی دہراتے تھے تو ان

کے والد نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ان کلمات کے ذریعہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے اس

لئے میں آپ کی سنت کی پیروی کو پسند کرتا ہوں“ (۱)

(۱) ابوداؤد: ۵۰۸۳

(۲) ابوداؤد: ۵۰۹۰

۲۳۱ - ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ . . . جس نے صبح کے وقت کہا:

”سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطَهَّرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ“ (الروم: ۱۷-۱۸)

تو پاک اللہ کی یاد کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو اور اسی کی خوبی ہے آسمان میں اور زمین میں اور پچھلے وقت اور جب دوپہر ہو، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے (بعد) اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔

اس نے اس دن کی فوت کی ہوئی شیئی کو پالیا اور جس نے اسے شام میں کہا اس نے اس رات کی فوت شدہ شیئی کو پالیا۔ (۱)

۲۳۲ - سنن ابی داؤد میں نبی کریم ﷺ کی بعض صاحبزادیوں سے مروی ہے کہ آپ ﷺ انہیں سکھاتے اور کہتے تھے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا .

پاک کی بیان کرتا ہوں اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ، اور کوئی بھی طاقت و قوت اللہ کے بغیر ممکن نہیں، اللہ جو چاہے ہو، اور جو نہ چاہے نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔

فَانَهُ مِنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ حَتَّى يُمَسِّي وَمَنْ قَالَهُنَّ
حِينَ يُمَسِّي حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ .

جس نے ان کلمات کو صبح میں کہہ لیا شام تک اس کی حفاظت کی
جاتی، اور جس نے اسے شام میں کہہ لیا صبح تک اس کی حفاظت کی
جاتی ہے۔ (۱)

۲۳۳- سنن ابی داؤد میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
ﷺ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں انصار کے ایک شخص کو موجود پایا جن کا نام ”ابوامامہ“
تھا آپ ﷺ نے فرمایا:

يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ
وَقْتِ الصَّلَاةِ“

اے ابوامامہ، کیا بات ہے کہ میں تمہیں مسجد میں بے وقت (اوقات
نماز کے علاوہ میں) بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔

تو انہوں نے جواباً عرض کیا، اے اللہ کے رسول قرضوں اور کچھ پریشانیوں نے مجھے
گھیر رکھا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

أَفَلَا أَعَلَّمْتُمْ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّكَ وَقَضَى
عَنْكَ دَيْنَكَ“

کیا میں تمہیں ایک ایسا کلام نہ بتا دوں کہ اگر اسے کہلو تو اللہ تمہاری
پریشانی دور کر دے اور تمہارا قرض ادا کر دے؟

انہوں نے جواباً عرض کیا ہاں بے شک، اے اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا:

قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ [اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
اللَّهِمَّ وَالْحَزْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْبُجْبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ
الَّذِينَ وَقَهَرِ الرِّجَالِ]

جب صبح کرو اور جب شام کرو تو کہو: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں،
حزن و ملال اور الجھن و پریشانی سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں کاہلی
و بے بسی سے، اور تیری پناہ لیتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور تیری پناہ
لیتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے زور زبردستی سے۔

حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ نے میری پریشانی اور غم کو
دور کر دیا اور میرے قرض کی ادائیگی فرمادی۔ (۱)

۲۳۴- ابن سنی کی کتاب میں مسند صحیح حضرت عبداللہ بن ابزیؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ ﷺ جب صبح کرتے تو فرماتے:

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَدِينِ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ (ﷺ) وَمِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلَام) حَنِيفًا مُسْلِمًا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (۲)

ہم نے صبح کی ہے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص، اپنے نبی محمد ﷺ کے
دین اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر عبادت میں اخلاص اور دین
اسلام کی اتباع کرتے ہوئے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے
نہیں ہوں۔

میرا خیال ہے کہ ابن سنی کی کتاب میں اسی طرح ”دین نبینا محمد“ (ہمارے نبی
محمد ﷺ کے دین پر) آیا ہے، حالانکہ آپ ﷺ بیروکار نہیں تھے، اور شاید آپ ﷺ نے اسے باواز
بلند اس لئے کہا تا کہ دوسرے لوگ اسے سن کر سیکھ لیں، واللہ اعلم۔

۲۳۵- ابن سنی ہی کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن ابی ادنی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے وہ

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صبح کرتے تو فرماتے:

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ،
وَالكِبْرِيَاءُ وَالْعِظْمَةُ لِلَّهِ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ هَذَا النَّهَارِ
صَلَاحاً وَأَوْسَطَهُ نَجَاحاً وَآخِرَهُ فَلَاحاً ، يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ . (۱)

ہم نے اور سارے عالم نے اللہ عزوجل کیلئے صبح کیا تمام تعریفیں اللہ
کیلئے ہیں، اور ساری مخلوق سارے امور و معاملات، رات و دن اور
جو ان دونوں کے اندر ہو سب اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے، اے اللہ تو
اس کے اول حصہ کو صلاح (بھلائی) اور درمیانی حصہ کو کامیابی اور
آخری حصہ کو کامرانی بنا، اے ارحم الراحمین۔

۲۳۶- سنن ترمذی و ابن سنی کی کتاب میں بسند ضعیف حضرت معقل بن یسار سے مروی ہے

کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَالَ حِينَ يَصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ : [أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ
الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ] وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ
الْحَشْرِ وَكُلَّ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلِكٍ يُصَلُّونَ
عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيداً
وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ . (۲)

جس نے صبح کے وقت ”أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ“ (میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی جو خوب سننے والا اور

(۱) عمل اليوم والليلة لابن سنی: ۳۸، حدیث ضعیف.

(۲) دیکھئے: ترمذی ۱۹۲۲، عمل اليوم لابن سنی: ۷۹، اس کے راوی خالد طہان ضعیف ہیں۔

خوب جاننے والا ہے) اور سورہ حشر کی (آخری) تین آیات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مامور کر دیتے ہیں کہ وہ اس کیلئے رحمت کی دعاء شام تک کرتے رہیں اور اگر اس کی وفات اس روز ہوگی تو وہ شہید مریگا اور اگر اس نے اسے شام میں کہہ لیا تو اس کا یہی مرتبہ ہوگا۔

نوٹ : سورہ حشر کی آخری آیات یہ ہیں ۲۲: ۲۳۳. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ - وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک۔

۲۳۷- ترمذی و ابن سنی کی کتاب میں بسند ضعیف محمد بن ابراہیم کی روایت اپنے والد ابراہیم سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سریہ (جنگی مہم) کے موقع سے ہم لوگوں کو نصیحت کی اور صبح و شام یہ پڑھنے کا حکم فرمایا۔

أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ .

(المؤمنون: ۱۱۰-۱۱۸)

سو تم کیا خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے۔

ہم لوگوں نے اسے پڑھا تو ہمیں نینت ہاتھ لگا اور ہم محفوظ رہے۔ (۱)

۲۳۸- اور اسی میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب صبح کرتے یا شام کرتے تو یہ دعاء کیا کرتے :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَجَاءَةِ الْخَيْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَجَاءَةِ

الشَّرِّ: (۲)

اے اللہ میں آپ سے غیر متوقع خیر کی درخواست کرتا ہوں اور

(۱) عمل الیوم لابن سنی: ۷۶، حدیث حسن، ذکرة السیوطی فی الدر المنثور: ۱۷۵

(۲) عمل الیوم لابن سنی: ۳۹، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے علاوہ راوی یوسف بن عطیہ ضعیف ہیں۔

ناگہانی پیش آنے والے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔

۲۳۹- حضرت انسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہؓ کو ہر اسے فرمایا:

مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسْمَعِي مَا أَوْصِيكَ بِهِ؟ تَقُولِينَ إِذَا
أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ [يَا حَسِي يَا قِيَوْمُ بِكَ اسْتَعِيثُ،
فَاصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ وَلَا تَكْلِنِي الِى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ]

جو ہدایت و وصیت میں تمہیں کر رہا ہوں، اسے سننے سے کیا
تیرے لئے کوئی مانع ہے؟ یعنی کوئی مانع نہیں ہونا چاہئے۔ ”اے وحی
و قیوم (ازلی حیات والے اور ہر شئی کو سنوارنے اور قائم رکھنے والے)
میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، کہ تو میرے تمام امور کی اصلاح فرمادے
اور مجھے لمحہ بھر کیلئے بھی اپنے نفس کے حوالے مت فرما۔

۲۴۰- اسی میں بسند ضعیف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص
نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ اسے آفات و مصائب گھیرتے رہتے ہیں، تو آپ ﷺ نے
فرمایا:

قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ [بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي] فَإِنَّهُ

لَا يَذْهَبُ لَكَ شَيْءٌ فَقَالَ هُنَّ الرَّجُلُ فَلَذَهَبَتْ عَنْهُ الْآفَاتُ“

جب تم صبح کرو تو کہو، ”بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي“ (۱)

اپنے نفس اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و اسباب پر اللہ کا نام لیکر (دن)

شروع کرتا ہوں، کیونکہ اس سے تمہاری کوئی چیز ختم نہیں ہوگی، اس شخص

نے ایسا کیا تو اللہ نے اس کی آفتوں کو دور کر دیا۔

۲۴۱- سنن ابن ماجہ اور ابن سنی کی عمل الیوم میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے

مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب صبح کرتے تو کہتے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَیْبًا وَعَمَلًا
مُتَقَبَّلًا، (۱)

اے اللہ میں آپ سے علم نافع رزق حلال اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔

۲۳۲- ابن سنی کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من قال اذا اصبح: جس نے صبح میں کہا:

[اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَصْبَحْتُ مِنْكَ فِیْ نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ فَاتِمَّ
نِعْمَتِكَ عَلٰی وَعَافِيَتِكَ وَسِتْرِكَ فِی الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ]
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اِذَا اَصْبَحَ وَاِذَا اَمْسَى كَانَ حَقًّا عَلٰی اللّٰهِ
تَعَالٰی اَنْ يُتِمَّ عَلَيْهِ، (۲)

اے اللہ میں نے تیری ہی سہارے نعمت و عافیت اور پردہ پوشی کے ساتھ صبح کی ہے، تو میرے اوپر اپنی نعمت و عافیت اور پردہ پوشی کو دنیا و آخرت میں مکمل فرما۔ تین بار صبح اور تین بار شام میں کہے تو اللہ پر حق بنتا ہے کہ وہ اس پر تمام فرمائے۔

۲۳۳- ترمذی و ابن سنی کی کتاب میں حضرت زبیر بن العوامؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ اِلَّا مُنَادٍ يُنَادِیْ [سُبْحَانَ
الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ]

(۱) عمل الیوم لابن سنی: ۵۳، ابن ماجہ: ۹۲۵، حدیث حسن

(۲) عمل الیوم لابن سنی: ۵۳، حدیث ضعیف اس کے راوی عمرو بن حصین العقیلی ضعیف ہیں

ہر صبح جبکہ بندہ صبح کرتا ہے ایک منادی ضرور آواز لگا کر کہتا ہے، سُبْحَانَ
 الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ (شہنشاہ بزرگ و برتر کی ذات پاک ہے)
 ابن سنی کی روایت میں اس طرح ہے:

”الْأَصْرَحُ صَارِحٌ أَيُّهَا الْخَلَائِقُ ، سَبِّحُوا الْمَلِكِ
 الْقُدُّوسِ“ (۱)

ایک آواز بلند پکارنے والا، (فرشتہ) ضرور پکارتا ہے کہ اے مخلوق:
 الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ کی تسبیح و پاکی بیان کرو۔

۲۴۴- ابن سنی کی کتاب میں حضرت بریدہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
 نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى ”جس نے صبح و شام کہا:

[رَبِّيَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
 رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مَا شَاءَ
 اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا“ (۲)

میرا رب اللہ ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اس کے سوا کوئی معبود
 نہیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں وہ عرش عظیم کا رب ہے، اور اللہ جو
 کہ عظمت و بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ جو چاہے
 ہو، اور جو نہ چاہے نہ ہو، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے
 اور یہ کہ اللہ نے اپنے علم کے ذریعہ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔

”ثُمَّ مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ“ پھر اس کی وفات ہوگئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(۱) سنن ترمذی، ۳۵۶۹، عمل الیوم لابن سنی: ۶۱، وقال الترمذی حدیث غریب

(۲) عمل الیوم لابن سنی: ۳۲، حدیث ضعیف علی بن قادم وجعفر الاحمر ضعیف

۲۴۵- ابن سنی کی کتاب میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَيُّعَجْرًا أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْمَمٍ

کیا تم میں کا کوئی فرد ابو ضمضم کی طرح ہونے سے قاصر ہے؟

صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ ابو ضمضم کون ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

كَانَ إِذَا صَبَحَ قَالَ: وَهَجِبُ صُجَّحٍ كَرْتَا تُو كَهْتَا:

”اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي وَعَرَضِي لَكَ“ فَلَا يَشْتُمُ

مَنْ شَتَّمَهُ وَلَا يَظْلِمُ مَنْ ظَلَمَهُ وَلَا يَضْرِبُ مَنْ ضَرَبَهُ. (۱)

اے اللہ میں نے اپنی جان اور اپنا آبرو، آپ کے واسطے ہبہ کر دیا، پھر جو اسے گالی دیتا وہ اسے گالی نہیں دیتے، جو اس پر ظلم کرتا وہ اس پر ظلم نہیں کرتے، اور جو انہیں مارتا وہ اسے نہیں مارتے تھے۔

۲۴۶- اسی میں حضرت ابودرداءؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے

فرمایا:

مَنْ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمَسِّي [حَسْبِيَ اللَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ] (۲)

جس نے ہر روز صبح اور شام کے وقت سات بار کہا۔ اللہ ہی میرے لئے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا رب۔

تو اللہ اس کے لئے دنیا و آخرت کے ان تمام امور میں کافی ہو جائے گا جو اس کے لئے

فکر و پریشانی کا باعث ہو۔

۲۴۷- سنن ترمذی و ابن سنی کی کتاب میں بسند ضعیف حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ

(۱) عمل الیوم لابن سنی: ۶۳، ضعیف

(۲) عمل الیوم لابن سنی: ۷۰، ابوداؤد: ۵۰۸۱، وسندہ صحیح

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَرَأَ "حَمَّ" الْمُؤْمِنِ إِلَى "أَلَيْهِ الْمَصِيرُ" (سورۃ الغافر ۱-۳)
 وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ حِينَ يُصْبِحُ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُمَسِيَ وَمَنْ
 قَرَأَهُمَا حِينَ يُمَسِي حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ" (۱)
 جو شخص (سورۃ غافر کی آیات "حَمَّ" "المؤمن کو الیہ المصیر"
 تک اور آیت الکرسی صبح میں پڑھے تو اس کے ذریعہ شام تک اس کی
 حفاظت کی جاتی ہے اور جو شام میں ان دونوں کو پڑھے تو صبح تک
 اس کے ذریعہ حفاظت کی جاتی ہے۔

یہ حدیث کا وہ مجموعہ ہے جسے اس باب میں بیان کرنے کا میں نے ارادہ کیا تھا، اللہ
 جسے توفیق دے اس کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے، اللہ رب عظیم سے دعاء ہے کہ وہ اس پر عمل
 اور تمام اعمال خیر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

۲۳۸۔ ابن سنی کی کتاب میں حضرت طلح بن عبید سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت
 ابو درداءؓ کے پاس آئے اور بولے، اے ابو درداء تیرا گھر جل رہا ہے جلدی جا، ابو درداء نے
 فرمایا نہیں جل سکتا اللہ تعالیٰ ان کلمات کے بعد ایسا نہیں کر سکتے جسے میں نے رسول اللہ ﷺ
 سے سنا ہے کہ جو اسے دن کے اولین لمحوں میں کہے لے تو شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں
 پہنچتی اور جو اسے دن کے آخری لمحوں میں کہے لے تو صبح تک اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی
 اور وہ کلمات ہیں:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ
 الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَمَا وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ
 وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ
 عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ
اَنْتَ اَخْلَدْتُمْ بِسَاطِرِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (۱)
اے اللہ تو ہی میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھ ہی پر میں
نے بھروسہ کیا اور تو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ جو چاہے وہ ہو اور جو نہ
چاہے وہ نہ ہو، ساری طاقت و قوت اللہ ہی سے ہے جو بڑا ہی بلند
والا اور عظمت والا ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور
اس نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے، اے اللہ میں آپ کی
پناہ لیتا ہوں اپنے نفس کے شر اور ہر اس جاندار کے شر سے جو تیرے
قبضہ قدرت میں ہے، بیشک میرا رب سیدھے راستے پر ہے (یعنی
میرے رب کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے)

۲۴۹ - ایک دوسری سند سے بھی یہ واقعہ ایک صحابی رسول سے (نام کے بغیر) منقول ہے، اس
میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے، اس روایت کے اندر ہے کہ وہ شخص ان کے
پاس بار بار لوٹ کر آتا رہا اور کہتا رہا "ادرک ادرک فقد احترقت" جلدی پہونچو
جلدی پہونچو گھر میں آگ لگ چکی ہے، اور وہ اسے جواب دیتے رہے کہ نہیں آگ (میرے
گھر کو) نہیں جلا سکتی، نبی کریم ﷺ کو کہتے سنا ہے:

"مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ - وَذَكَرَ هٰذِهِ
الْكَلِمَاتِ - لَمْ يُصِبْهُ فِيْ نَفْسِهِ وَلَا اَهْلِهِ وَلَا مَالِهِ شَيْءٌ يَّكْرَهُهُ
وَقَدْ قُلْتَهَا الْيَوْمَ ، ثُمَّ قَالَ اِنْهَضُوا بِنَا ، فَقَامَ وَقَامَ مَعَهُ ،
فَانْتَهَوْا اِلَى دَارِهِ وَقَدْ احْتَرَقَ مَا حَوْلَهَا وَلَمْ يُصِبْهَا شَيْءٌ (۲)
جس نے صبح کو یہ کلمات کہہ لئے اور ان کلمات کا ذکر کیا تو اس کی جان

(۱) عمل الیوم لابن سنی، ۵۶، حدیث ضعیف، اغلب بن تمیم قالہ البخاری: منکر الخلیل

(۲) عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی، ۵۷، یہ حدیث بھی ضعیف ہے

اہل و عیال اور مال و اسباب میں کوئی ناشگوار بات پیش نہیں آسکتی، اور وہ کلمات میں نے آج کہہ رکھے ہیں، پھر انہوں نے کہا مجھے لے چلو، چنانچہ وہ اور دوسرے سب کے سب اٹھ کر چل پڑے یہاں تک کہ ان کے گھر کے پاس پہنچے تو اس گھر کے ہر چہار جانب کے مکانات جل چکے تھے، مگر اسے کوئی گزند نہیں پہنچا تھا۔

(باب - ۲۰)

جمعہ کی صبح میں کہی جانے والی دعائیں اور اذکار:

ذہن میں رہے کہ جمعہ کے علاوہ دنوں میں جو دعائیں کہی جاتی ہیں اس دن اس کا بھی اہتمام کرے، اور اس دن اور دنوں کے بہ نسبت زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا اور رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام پڑھنا مستحب ہے۔

۲۵۰ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: [أَسْتَغْفِرُ

اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ] ثَلَاثَ

مَرَاتٍ غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ“ (۱)

جس نے جمعہ کی صبح فجر کی نماز سے پہلے تین بار اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي

- أَتُوبُ إِلَيْهِ تک کہہ لئے (ترجمہ: میں اللہ سے مغفرت

چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو حسی و قیوم یعنی ازلی

حیات اور تمام امور کو سنوارنے والا ہے اور اسی کے سامنے توبہ کرتا

ہوں، تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں خواہ وہ سمندر کے

(۱) عمل اليوم واللیة لابن سنی: ۸۲ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے راوی اسحاق بن خالد ضعیف ہیں

جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

جمعہ کے دن فجر سے لیکر غروب شمس تک تمام اوقات میں حصول اجابت کی امید سے بکثرت دعاء کرنا مستحب ہے، کیونکہ قبولیت دعاء کے وقت کے سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں، بعض حضرات نے طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان کا وقت کہا ہے کسی نے زوال شمس کے بعد کسی نے عصر کے بعد کا وقت کہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے اقوال ہیں مگر صحیح قول جس کے علاوہ کوئی دوسرا قول میری رائے میں درست نہیں، وہ ہے جو صحیح مسلم میں نبی کریم ﷺ سے بروایت ابو موسیٰ اشعریؓ ثابت ہے کہ وہ وقت امام کے منبر پر بیٹھنے اور نماز سے سلام پھیرنے کے درمیان کا ہے۔

(باب-۲۱)

طلوع آفتاب کے وقت کی دعاء:

۲۵۱ - ابن سنی کی کتاب میں بسند ضعیف ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا تو رسول اللہ ﷺ فرمایا تے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَلَّلْنَا الْيَوْمَ عَافِيَتَهُ وَجَاءَ بِالشَّمْسِ مِنْ
مَطْلَعِهَا ، اللَّهُمَّ أَصْبَحْتُ ، أَشْهَدُ لَكَ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ
لِنَفْسِكَ ، وَشَهِدْتَ بِهِ مَلَائِكَتِكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ
وَجَمِيعُ خَلْقِكَ أَنَّكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْقَائِمُ
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، اُكْتُبُ شَهَادَتِي
بَعْدَ شَهَادَةِ مَلَائِكَتِكَ وَأَوْلَى الْعِلْمِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ
وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالْيَكِ السَّلَامُ ، أَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ أَنْ تُسَجِّبَ لِنَادِ عَوْنِنَا ، وَأَنْ تُعْطِنَا رَغَبَتَنَا
وَأَنْ تُغْنِنَا عَمَّنْ أَعْنَيْتَهُ عَنَّا مِنْ خَلْقِكَ ، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي

ذُنَيْبِ الْيَسْبِي فِيهَا مَعِيشَتِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الْيَسْبِي إِلَيْهَا
مُنْقَلِبِي“ (۱)

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمارے لئے دن کو اس کی
عافیت کے ساتھ روشن کیا اور سورج کو اس کے مطلع سے نکالا، اے
اللہ میں نے صبح کر لی، میں تیرے لئے اس کی شہادت دیتا ہوں جس
کی شہادت تو نے اپنے لئے دی ہے اور جس کی شہادت تیرے
فرشتوں، حاملین عرش اور ساری مخلوق نے دی ہے کہ تو اللہ ہے،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو عدل و انصاف کرنے والا ہے، تیرے
سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تو قوت و حکمت والا ہے، تو میری شہادت
کو اپنے فرشتوں اور اہل علم کی شہادت کے بعد نوٹ فرمائے، اے
اللہ تو سلام ہے، تجھ ہی سے سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی کی
واپسی ہے (تو ہی سلامتی کا مرجع ہے) اے جلال و عظمت اور شرف
واکرام کے مالک میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری
دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور مجھے میری پسند عطاء فرمائیں۔ اور مجھے
اپنی مخلوق کے اندر ان لوگوں سے بے نیاز کر دیں جسے تو نے مجھ سے
بے نیاز کر دیا ہے، اے اللہ تو میرے واسطے میرے دین میں جو کہ
میری تمام امور و معاملات کا محافظ ہے بھلائی فرما، اور میرے واسطے
میری دنیا میں جہاں میرا گذر بسر ہے بھلائی فرما، اور میرے واسطے
میری آخرت میں جہاں مجھے لوٹ کر آنا ہے بھلائی فرما۔

۲۵۲- اور اسی سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے موقوفاً مروی ہے کہ انہوں نے کسی
شخص کو متعین کر رکھا تھا جو ان کے لئے طلوع شمس کا انتظار کرتا رہتا اور جب انہیں سورج طلوع

(۱) عمل الیوم لابن سنی: ۱۳۶، یہ حدیث ضعیف ہے

ہونے کی اطلاع دیتا تو آپ دعاء فرماتے ہوئے کہتے:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لَنَا هَذَا الْيَوْمَ ، وَأَقَالَنا فِيهِ

عَشْرًا اتْنَا“ (۱)

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے یہ دن عطا کیا اور اس میں ہماری لغزشوں (گناہوں) کو درگزر کیا۔

(باب-۲۲)

سورج چڑھ جانے کے بعد کی دعاء:

۲۵۳- ابن سنی کی کتاب میں حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَا تَسْتَقِلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى ، إِلَّا سَبَّحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمِدَهُ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَأَعْتَاءِ بَنِي آدَمَ فَسَأَلْتُ عَنْ أَعْتَاءِ بَنِي آدَمَ؟ فَقَالَ : شِرَارُ الْخَلْقِ“

جب بھی سورج چڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ بھی باقی رہتا ہے تو وہ ضرور ہی اللہ عزوجل کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہے، سوائے ان کے جو شیطان کے زمرے اور بنی آدم کے متکبر اور مغرور لوگوں سے ہو (راوی کہتے ہیں) میں نے بنی آدم کے مغرور شخص کے بارے میں سوال کیا (کہ وہ کون ہے؟) تو آپ نے فرمایا: وہ بدترین مخلوق ہے۔ (۲)

(۱) عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی: ۱۳۷

(۲) عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی: ۱۳۸، الحلیۃ ۱/۶، الجامع الصغیر للسیوطی: ۷۸۷۳،

(باب-۲۳)

سورج ڈھلنے کے بعد سے عصر تک کی دعاء:

کپڑا پہنتے وقت گھر سے نکلنے وقت، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد وضوء کرتے وقت، مسجد جاتے وقت، جب مسجد کے دروازہ پر پہنچے، جب مسجد کے اندر داخل ہو، جب اذان و اقامت کی آواز سنے، اذان و اقامت کے درمیان کے اذکار، نماز کے لئے کھڑا ہوتے وقت، اور نماز میں شروع سے اخیر تک کی دعائیں، نماز کے بعد کی دعائیں۔ غرض ان تمام مقامات پر کیا کہنا چاہئے اور اس کی کیا دعائیں ہیں، یہ پہلے گزر چکا ہے، تمام نمازیں اس میں مشترک ہیں۔ زوال کے بعد بکثرت عبادت کرنا اور اذکار و وظائف کی پابندی کرنا مستحب ہے، کیونکہ:

۲۵۴- سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن سائب رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کی نماز سے قبل چار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ کہ رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ:

”إِنَّهَا سَاعَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأَحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ“ (۱)

یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس لئے مجھے پسند ہے کہ اس وقت میرا نیک عمل (عمل صالح) اوپر لیجا یا جائے۔

اور ظہر کے اور ادو وظائف کے بعد بکثرت اللہ کا ذکر کرنا اس وقت مستحب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ“ (صبح و شام اپنے رب کا حمد بیان کریں) عام ہے، اہل لغت کہتے ہیں کہ ”عشی“ زوال شمس سے غروب آفتاب کے

درمیان کا وقت ہے، امام ابو منصور ازہری کہتے ہیں کہ ”بھٹی“ کا معنی عربوں کے نزدیک سورج ڈھلنے سے لیکر غروب تک کا وقت ہے۔

(باب-۲۴)

عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کے اذکار:

ظہر کے بعد کیا کہنا چاہئے؟ یہ گزر چکا ہے، عصر کے بعد بھی اسی طرح کہے، البتہ عصر کے بعد بکثرت ذکر الہی کرنا زیادہ تاکید کی طور پر مستحب ہے، کیونکہ عصر کی نماز ہی ”صلوٰۃ وسطیٰ“ ہے جیسا کہ سلف و خلف کی ایک بڑی جماعت کا خیال ہے، اسی طرح صبح میں اذکار کی پابندی کرنا اور اس پر توجہ دینا مومکد طور پر مستحب ہے کیونکہ یہی دونوں نمازیں ”صلوٰۃ وسطیٰ“ کی مراد سے متعلق مختلف اقوال میں زیادہ صبح قول کے مطابق مراد ہیں۔ عصر کے بعد اور دن کے آخری حصہ میں بھی بکثرت ذکر کی پابندی کرنا مستحب ہے کیونکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے:

”وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

غُرُوبِهَا“ (طہ: ۱۳۰)

”اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کرو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔“

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ

مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ“ (اعراف: ۲۰۵)

اور یاد کرتا رہ اپنے رب کو اپنے دل میں گڑگڑاتا ہوا اور ڈرتا ہوا اور ایسی آواز سے جو کہ پکار کر بولنے سے کم ہو صبح کے وقت اور شام کے وقت۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ، رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ

وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ (النور: ۳۶-۳۷)

یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے۔

۲۵۵- ابن سنی کی کتاب میں بسند ضعیف حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا نَأْجِسُ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ ثَمَانِيَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ“ (۱)

ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنا جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آٹھ کو آزاد کرنے سے زیادہ محبوب و پسند ہے۔

(باب- ۲۵)

مغرب کی اذان سننے کے بعد کیا کہنا چاہئے:

۲۵۶- سنن ابی داؤد و ترمذی میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے مغرب کی اذان کے وقت سے کہنے کی تعلیم دی۔

”اللَّهُمَّ هَذِهِ أَقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاعْفُورِلِي“ (۲)

اے اللہ یہ تیری رات کی آمد اور تیرے دن کی رخصتی اور تیرے منادیوں کی آواز ہے، تو میری مغفرت فرمادے۔

(۱) عمل الیوم بن سنی: ۶۷۵ و سنن ابی داؤد: ۳۷۷۶ حدیث حسن

(۲) سنن ابی داؤد: ۵۳۰ سنن ترمذی ۳۵۸۹ وقال الترمذی: حدیث غریب

(باب-۲۶)

نماز مغرب کے بعد کی دعائیں :

جو دعائیں اور اذکار و وظائف ہر نماز کے بعد کہی جاتی ہیں اس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے، اس کے علاوہ مزید چند دعاؤں کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔ مغرب کے بعد کی دو رکعت سنت نماز پڑھنے کے بعد وہ دعاء کرے :

۲۵۷۔۔۔ جو ابن سنی کی کتاب میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے تو گھر میں داخل ہوتے اور دو رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد دعاء میں کہتے :

”يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ“ (۱)

اے دلوں اور نگاہوں کو پھیرنے والے، میرے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ۔

۲۵۸۔۔۔ سنن ترمذی میں حضرت عمارہ بن شیبہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَالَ : [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى آثَرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ مَسَلِحَةً يَتَكَلَّفُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُؤَبَّقَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ“ (۲)

(۱) عمل الیوم لابن سنی: ۶۶۳ حدیث حسن

(۲) سنن ترمذی: ۳۵۳۳ وقال الترمذی: حدیث حسن

جس شخص نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَح (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے ساری بادشاہی اور اسی کے لئے حمد ہے، اور وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

دس بار نماز مغرب کے نوراً بعد کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک مامور محافظ (فرشتہ) بھیج دیتے ہیں وہ صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کرتا رہتا ہے، اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ جنت کو واجب کرنے والی دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے دس ہلاکت خیز گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور اس کے لئے دس مومن غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ عمارۃ بن شیبب کی شاع رسول اللہ ﷺ سے ہم نہیں جانتے، میں کہتا ہوں کہ اس روایت کو امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں دو سندوں سے نقل کیا ہے، اور ایک تو اسی سند سے ہے اور دوسری سند یوں ہے، عن عمارۃ عن رجل من الانصار (یعنی عمارہ اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان ایک انصاری صحابی کا واسطہ ہے) (۱)

حافظ ابوالقاسم بن عساکر فرماتے ہیں کہ یہ دوسری سند ہی درست ہے۔

دعاء کے اندر مذکور لفظ ”منسلحة“ میم کے زبر اور سین کے سکون کے ساتھ چوکیدار اور

نگہبان کے معنی میں ہے۔

(باب-۲۷)

نماز وتر اور اس کے بعد کی دعاء:

تین رکعت نماز وتر پڑھنے والے کے لئے سنت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ”سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ اور دوسری رکعت میں ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ اور تیسری رکعت ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ اور معوذتین پڑھے، اگر پہلی رکعت میں ”سَبِّحِ اسْمَ

(۱) دیکھیں : عمل الیوم واللیلہ للنسائی : ۵۷۷-۵۷۸

رَبِّكَ الْأَعْلَى“ پڑھنا بھول جائے تو اسے تیسری رکعت میں ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ کے ساتھ پڑھے۔

۲۵۹ - سنن ابی داؤد و نسائی و دیگر کتابوں میں بسند صحیح حضرت ابی بن کعبؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وتر پڑھ کر جب سلام پھیرتے تو ”سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ“ کہتے تھے۔ (۱)

نسائی و ابن سنی کی کتاب میں ہے کہ آپ ﷺ ”سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ“ تین بار کہتے۔ (۲)

۲۶۰ - ابو داؤد و ترمذی اور نسائی میں حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ وتر کے آخر میں یہ کہتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ“ (۳)

اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ لیتا ہوں، تیری ناراضگی سے اور تیرے عفو و درگزر کی پناہ لیتا ہوں تیری سزا سے اور تیری پناہ لیتا ہوں، تیری گرفت سے اور جس طرح تو نے اپنی تعریف و ثناء کی ہے میں اس طرح حمد و ثناء تیرے لئے شمار نہیں کر سکتا۔

(باب-۲۸)

سونے کے ارادہ سے بستر پر لیٹتے وقت کی دعاء:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

(۱) سنن ابی داؤد: ۱۴۲۳ و عمل الیوم للنسائی: ۷۲۹

(۲) عمل الیوم لابن سنی: ۷۱۱

(۳) سنن ابی داؤد: ۱۴۲۷، ترمذی: ۳۵۶۶، نسائی ۷۴۷ و قال الترمذی: حدیث حسن

”إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ“ (آل عمران: ۱۹۰-۱۹۱)

بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا اس میں
نشانیوں ہیں عقل والوں کو، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے
اور کروٹ پر لیٹے۔

۲۶۱ - صحیح بخاری میں حضرت حذیفہ والبودرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب لیٹنے کے
لئے بستر پر جاتے تو فرماتے: ”بِسْمِكَ اللَّهُمَّ أُمُوتُ وَأَحْيَا“ تیرے ہی نام کے
سہارے اے اللہ میں جیتا اور مرتا ہوں۔ (۱)

۲۶۲ - صحیح مسلم میں یہ حدیث حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے انہی الفاظ میں مروی
ہے۔ (۲)

۲۶۳ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے اور
حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے کہا:

”إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَىٰ فِرَاشِكُمَا أَوْ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعِكُمَا
فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا
وَثَلَاثِينَ“

جب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ یا یہ کہا کہ جب تو دونوں سونے لگو
(راوی کو شک ہے کہ اویتما الی فراشکما کہا یا اخذتما
مضاجعکما کہا، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے) تو ۳۳ بار تکبیر
(اللہ اکبر) کہو اور ۳۳ بار تسبیح (سبحان اللہ) کہو اور ۳۳ بار حمد
بیان کرو (الحمد لله) کہو۔

ایک روایت میں ”التسبیح اَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ“ (تسبیح ۳۴ بار) اور ایک تیسری روایت میں ”التکبیر اربعا و ثلاثین“ (اللہ اکبر ۳۴ بار) کا ذکر آیا ہے، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے اسے رسول اللہ ﷺ سے سنا میں نے کبھی اسے نہیں چھوڑا، کسی نے ان سے دریافت کیا کیا جنگ صفین کی رات میں بھی نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں جنگ صفین کی رات میں بھی نہیں۔ (۱)

۲۶۴ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْقُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ
إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِإِسْمِكَ
رَبِّي وَضَعْتُ جَنِيْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكَتْ نَفْسِي
فَأَرْحَمَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ
الصَّالِحِينَ [(۲)]

جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر (سونے کے لئے) جائے تو بستر کو تہ بند کے نچلے حصے سے جھاڑ لے کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ اس پر اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے، پھر بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنِيْبِي الخ الصالحین تک کہے (اے میرے رب تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤنگا اور اگر تو میری جان کو روک لیتا ہے تو اس پر رحم فرما اور اگر اسے چھوڑ دیتا اور واپس بھیج دیتا ہے تو اس کی حفاظت اسی کے ذریعہ فرما جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔

(۱) صحیح بخاری : ۶۳۱۸ ، صحیح مسلم : ۲۷۲۷

(۲) صحیح بخاری : ۶۳۷۰ ، صحیح مسلم : ۲۷۱۳

ایک روایت میں ”ینفضہ ثلاث مرات“ (تین بار جھاڑے) آیا ہے،
 ۲۶۵ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے بستر
 پر سونے کے لئے آتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتے، معوذتین پڑھتے اور دونوں ہاتھ کو
 اپنے جسم پر پھیرتے۔ (۱)

۲۶۶ - صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر روز رات میں جب
 اپنے بستر پر آتے تو اپنی دونوں ہتھیلی کو جمع کرتے اس میں پھونک مارتے (دم کرتے) اور اس
 میں ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ اور ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ پڑھتے
 پھر جہاں تک ہاتھ جا سکتا اپنے پورے جسم پر اسے پھیرتے، اس کی ابتداء اپنے سر سے پھر چہرہ
 اور آگے کے حصہ سے کرتے اور اس طرح تین بار کرتے۔ (۲)

اس روایت میں ایک لفظ نفث آیا ہے، اہل لغت فرماتے ہیں کہ نفث ہلکی پھونک کو
 کہتے ہیں جس میں تھوک نہ نکلے۔

۲۶۷ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو مسعود انصاری البدری جن کا نام عقبہ بن عمروؓ ہے سے
 مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الْآيَاتَانِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَّتَاهُ“ (۳)

سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں جس کسی نے رات میں پڑھ لیا تو وہ اس

کے لئے (تمام چیزوں سے) کافی ہو جائیں گی۔

”کفتاہ“ (یہ دونوں کافی ہو جائیں گی) کے مفہوم میں علماء کا اختلاف ہے، بعض
 حضرات نے کہا کہ تمام آفت و مصیبت سے اس رات میں کافی ہو جائے گی اور بعض حضرات
 نے کہا کہ قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کی طرف سے کافی ہو جائیں گی۔ میرے نزدیک
 دونوں ہی احتمالات درست ہیں۔

(۱) صحیح بخاری ۶۳۱۹، و صحیح مسلم ۲۱۹۲

(۲) صحیح بخاری ۵۰۱۷، صحیح مسلم ۲۱۹۲

(۳) صحیح بخاری ۵۰۰۹، صحیح مسلم ۸۰۸

۲۶۸- صحیح بخاری و مسلم میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

”إِذَا آتَيْتَ مُضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَيَّ شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، وَقُلْ :

جب تم اپنے بستر پر سونے کے لئے جانے لگو تو نماز کی طرح وضوء کرو پھر دامنے کروٹ پر لیٹو اور کہو:

[اللَّهُمَّ أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَالْجَنَاتِ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ] ”فَانِ مِثَّ مِثَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ“

اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا اور اپنا معاملہ تیرے حوالہ کیا، اور اپنی پشت تیری پناہ میں دی، تیری ہی امید و بیم اور خشیت و خوف سے، تیرے ہی پاس خلاصی و پناہ کی جگہ ہے، میں نے تیری اس کتاب پر ایمان لایا جسے تو نے اتارا اور تیرے اس پیغمبر پر جسے تو نے مجبوت فرمایا۔ اگر تیری وفات ہوگئی تو تو دین فطرت پر مریگا، تو اپنی آخری بات انہی کلمات کو بنا۔

یہ بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں اور اس کی اور مسلم کی دوسری روایات اسی جیسی

باختلاف الفاظ ہیں۔ (۱)

۲۶۹- صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے رمضان المبارک کے زکاۃ کی حفاظت پر مامور فرمایا، میرے پاس ایک اجنبی شخص آیا اور

(۱) بخاری ۶۳۱۳-۶۳۱۵ مسلم ۶۲۱۰۰

غلہ سے لپ بھر بھر کے لینے لگا۔ پوری حدیث ذکر کرنے کے بعد اخیر میں کہتے ہیں کہ ”اس اجنبی نے مجھ سے کہا: جب تم اپنے بستر پر سونے کے لئے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے مستقل ایک محافظ مامور رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”صَدَقَّكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، ذَالِكْ شَيْطَانٌ“ اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے وہ شیطان تھا۔

اس کی تخریج امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں کی ہے اور فرمایا ہے کہ عثمان بن ہشیم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت عن عوف عن محمد بن سیرین کے واسطے سے متصل روایت کی، اور عثمان بن ہشیم امام بخاری کے ان شیوخ میں سے ہیں جن سے انہوں نے اپنی جامع صحیح میں روایت کی ہے۔

ابو عبد اللہ الحمیری کا ”الجمع بین الصحیحین“ میں یہ قول کہ امام بخاری نے اس کی تخریج تعلیقا کی ہے ناقابل قبول ہے، کیونکہ علماء کا صحیح و پسندیدہ قول یہی ہے کہ جب امام بخاری وغیرہ ”قال فلان“ (فلاں شخص نے کہا) کہیں تو یہ ان کے سماع اور اتصال پر محمول ہوگا، بشرطیکہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہو اور وہ مدلس نہ ہوں اور یہ روایت اسی زمرے کی ہے۔

معلق اس روایت کو کہا جائے گا جس کی سند سے امام بخاری اپنے شیخ یا اس سے زیادہ کو حذف کر دیں، مثلاً اس حدیث سے متعلق اگر وہ کہیں ”وقال عوف“ یا کہیں ”قال محمد بن سیرین“ یا کہیں ”قال ابو ہریرہ“ اپنے شیخ یا اوپر کے ایک چند شیوخ کو حذف کرتے ہوئے، تو یہ روایت معلق کہلائیگی واللہ اعلم۔

۲۷۰ - ابوداؤد میں ام المؤمنین حضرت حفصہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنا داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور تین بار فرماتے:

”اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعُثُ عِبَادَكَ“ اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچالے۔ (۱)

۲۷۱- اس کی روایت امام ترمذی نے حضرت حذیفہ سے کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اسی طرح فرمایا، نیز امام ترمذی نے اسے براء بن عازب سے بھی نقل کیا ہے، مگر اس میں تین بار کا ذکر نہیں ہے۔ (۱)

۲۷۲- صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی و ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ جب لیٹنے کے لئے اپنے بستر پر جاتے تو کہتے تھے:

”اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَيْ شَرٍّ أَنْتَ
أَخَذْتَنَا صَبْتَهُ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ
الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ
شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ
وَإَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ“ (۲)

اے اللہ اے آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور ہر چیز کے پالنے والے، تو ریت و انجیل اور قرآن کو اُتارنے والے، میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، ہر شر والے کے شر سے جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے، آپ اول ہیں آپ سے پہلے کچھ نہیں، آپ آخر ہیں آپ کے بعد کچھ نہیں، آپ ظاہر ہیں آپ کے اوپر کچھ نہیں، آپ باطن ہیں آپ سے ماوراء کچھ نہیں، آپ ہمارے قرض کی ادائیگی فرمادیں اور فقر سے بے نیاز و غنی فرمادیں۔

(۱) دیکھیں سنن ترمذی ۳۳۹۸- وقال الترمذی: حسن صحیح

(۲) صحیح مسلم: ۲۷۱۳، ابوداؤد: ۵۱۵۱، ترمذی: ۳۳۰۰، عمل الیوم للنسائی: ۷۹۰، ابن

ابوداؤد کی روایت میں ”عنا“ اور ”اغسنا“ کی جگہ اس طرح ہے، ”إِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَاعْنِي مِنَ الْفَقْرِ“ (یعنی جمع متکلم کے بجائے واحد متکلم کا صیغہ ہے) کچھ لوگوں نے اسے طلب رزق کی دعاء کہا ہے۔

۲۷۳- ابوداؤد نسائی میں بسند صحیح حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ لیٹتے وقت کہا کرتے تھے :

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ ، وَكَلِمَاتِكَ الثَّمَامَةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْتَمَ ، اللَّهُمَّ لَا يُهْزَمُ جُنْدُكَ ، وَلَا يُخْلَفُ وَعَدْلُكَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ“ (۱)

اے اللہ میں تیرے وجہ کریم اور تیرے مکمل کلمات کی پناہ لیتا ہوں، اس کے شر سے جس کی پیشانی تیری گرفت میں ہے (تیرے قبضہ قدرت میں ہے) تو ہی قرض کے بوجھ اور گناہوں کے اسباب کو دور کرنے والا ہے، اے اللہ تیرے لشکر کو شکست نہیں دیا جاسکتا اور تیرا وعدہ اٹل ہے (ثالا نہیں جاسکتا) اور کسی مالدار کو اس کی مالذاری نفع نہیں پہنچا سکتی، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرے حمد کے ساتھ۔

۲۷۴ - صحیح مسلم، ابوداؤد ترمذی میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بستر پر لیٹتے تو کہتے :

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي“ (۲)

(۱) ابوداؤد: ۵۰۵۲، تحفہ: ۱۰۲۵۲، بحوالہ السنن الكبرى للنسائی

(۲) مسلم: ۲۷۱۵، ابوداؤد: ۵۰۵۳، ترمذی: ۳۳۹۶، وقال الترمذی: حسن صحیح

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، کفایت و مستغنی کیا اور پناہ دی، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جس کے لئے نہ کوئی کفایت و مستغنی کرنے والا ہے اور نہ ہی پناہ دینے والا۔

۲۷۵- ابوداؤد میں بسند حسن حضرت ابوالازہری جنہیں ابو زہیر انماری بھی کہا جاتا ہے، سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کرات میں جب سونے کے لئے بستر پر جاتے تو فرماتے:

”بِسْمِ اللّٰهِ وَضَعْتُ جُنْبِي اللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِي وَاخْسِئْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي وَاَجْعَلْنِي فِي النَّدَى الْاَعْلَى“ (۱)

اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو (بستر پر) رکھا، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے شیطان کو ذلیل و خوار کر اور میری ریغمانی کو رہائی عطا فرما اور مجھے اوپر والی انجمن میں شامل فرما،

نوٹ: ندی، نون کے زبر اور دال کے زیر کے ساتھ ہے، امام ابوسلیمان الخطابی سے اس حدیث کی تشریح میں منقول ہے کہ ندی کا اطلاق کسی مجلس میں یکجا بیٹھے افراد پر ہوتا ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے لفظ ”نادی“ جس کی جمع ”اندیة“ بمعنی انجمن ہے ”ندی اعلیٰ“ سے مراد ”ملا اعلیٰ“ یعنی فرشتوں کی انجمن و مجلس ہے جسے آپ ﷺ نے کبھی ”رفیق اعلیٰ“ سے بھی تعبیر کیا ہے۔

۲۷۶- سنن ابی داؤد و ترمذی میں حضرت نوفل اشجعی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

اِقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ نَمَّ عَلَيَّ خَاتِمَتَهَا فَأَنهَا بَرَاءَةٌ
مِنَ الشُّرْكِ“ (۲)

قل یا ایہا الکافرون، پڑھو پھر اس کے ختم پر سوجاؤ، کیونکہ یہ شرک

(۱) ابوداؤد: ۵۰۵۴

(۲) سنن ابی داؤد: ۵۰۵۵، ترمذی: ۳۴۰۳ حدیث حسن

سے براءت ہے۔

۲۷۷ - مسند ابویعلیٰ موصلی میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

“أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ كَلِمَةٍ تَنْجِيكُمْ مِنَ الْأَشْرَاطِ بِاللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ، تَقْرَأُونَ” قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ “عِنْدَ مَا نَمِيكُمْ” (۱)

کیا میں تمہیں ایک ایسے کلمہ کی رہنمائی نہ کروں جو تمہیں اللہ
عزوجل کے ساتھ شرک کرنے سے نجات دلائے؟ اپنے سوتے
وقت قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ پڑھ لیا کرو۔

۲۷۸ - ابوداؤد ترمذی میں حضرت عرابض بن ساریہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سوتے

وقت ”سبحات“ پڑھا کرتے تھے۔ (۲)

۲۷۹ - حضرت عائشہؓ سے مروی ہیں وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب تک ”سورہ بنی

اسرائیل“ اور ”سورہ زمر“ نہیں پڑھ لیتے نہیں سوتے تھے۔ (۳)

۲۸۰ - ابوداؤد میں بسند صحیح حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب سونے

کے لئے بستر پر جاتے تو کہتے:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي،

وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ

وَمَلِيكَهُ“ (۴)

تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے مجھے مستغنی کیا، مجھے پناہ دی

مجھے کھلایا اور پلایا اور جس نے مجھ پر احسان کیا پھر خوب فضل فرمایا

(۱) المسند الكبير لا بی یعلیٰ المعجم الكبير للطبرانی: ۱۲۹۹۳، ۱۲۱۱۲، ۲۴۱۱۲

(۲) سنن ابی داؤد: ۵۰۵۷، سنن ترمذی: ۳۳۰۶، وقال الترمذی: حدیث حسن

(۳) سنن ترمذی: ۲۹۲۰ وقال الترمذی: حدیث حسن

(۴) سنن ابی داؤد: ۵۰۵۸

اور جس نے مجھے عطاء کیا، ہر حال میں اللہ ہی کے لئے حمد ہے، اے اللہ ہر چیز کے پالنے والا اور مالک و بادشاہ اور ہر چیز کے الٰہ و معبود میں آپ کی پناہ لیتا ہوں جہنم کی آگ سے۔

۲۸۱ - ترمذی میں حضرت ابوسعید خدریؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ قَالَ حِينَ يَأْتِي إِلَى فِرَائِهِ: [أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوبُ إِلَيْهِ] ثَلَاثَ مَرَاتٍ، غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ النُّجُومِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمَلِ عَالِيَجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا“ (۱)

جو شخص لیٹنے کے لئے بستر پر جاتے وقت تین بار [اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَآتُوبُ اِلَيْهِ] میں اللہ سے

مغفرت چاہتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سارے عالم کو قائم رکھنے والا ہے اور اسی کے سامنے تو بہ کرنا ہوں کہہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، خواہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہو، خواہ ریت کے ڈھیر کے برابر ہو، خواہ ایام دنیا کے برابر ہو۔

۲۸۲ - سنن ابی داؤد وغیرہ میں بسند صحیح نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں سے قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول رات مجھے ڈس لیا جس کی وجہ سے میں صبح تک سو نہیں سکا، آپ نے فرمایا: ”مِسَاذًا“ کس چیز نے (ڈسا) اس نے جواب دیا بچھے نے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(۱) سنن ترمذی: ۳۳۹۷ وقال الترمذی: حدیث غریب

”أَمَّا أَنْتَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : [أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ
التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ] لَمْ يَضُرْكَ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ“ (۱)

اگر تم نے شام کے وقت ”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الرَّحِّ (میں اللہ
کے مکمل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کے شر سے جسے اللہ ہی نے پیدا
کیا) کہ لیا ہوتا تو انشاء اللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔

۲۸۳ - اسی طرح کی روایت حضرت ابوہریرہؓ سے بھی ابوداؤد وغیرہ میں مروی ہے، نیز صحیح
مسلم کی روایت، صبح و شام کے اذکار کے ضمن میں حدیث نمبر: ۲۱۸۰ پر گذر چکی ہے۔ (۲)
۲۸۴ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو
نصیحت کیا کہ جب وہ سونے لگے تو ”سورۃ حشر“ پڑھ لیا کرے اور فرمایا ”إِنْ مِتَّ مِثَّ
شہیداً“ کہ اگر تو مر گیا تو شہید مر گیا، یا یوں فرمایا کہ ”من اهل الجنة“ کہ جنتوں میں سے
ہو کر مر گیا۔ (۳)

۲۸۵ - صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو سوتے
وقت اس طرح دعاء کرنے کا حکم فرمایا:

”اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا ، لَكَ مَمَاتُهَا
وَمَحْيَاهَا ، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاخْفِظْهَا وَإِنْ أَمْتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ“

اے اللہ تو نے ہی میری جان کو پیدا کیا، اور تو ہی اسے وفات
دے گا، تیرے ہی لئے اس کا جینا اور اس کا مرنا ہے اگر تو اسے زندہ

(۱) سنن ابی داؤد : ۳۸۹۸

(۱) دیکھئے : ابوداؤد : ۳۸۹۹ صحیح مسلم ، ۲۷۰۹

(۳) عمل اليوم والليلة لابن سنی : ۷۲۳ ، یہ حدیث ضعیف ہے ، زید بن ابان الرقاشی ضعیف ہیں

رکھتا ہے تو اس کی حفاظت فرما اور اگر وفات دیتا ہے تو اس کی مغفرت فرما اور اے اللہ میں آپ سے عافیت کی درخواست کرتا ہوں۔

پھر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اسے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس

طرح سنا ہے۔ (۱)

۲۸۶ - سنن ابی داؤد ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کا ذکر صبح و شام کے اذکار کے ضمن میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کے واقعہ کی تفصیل کے ساتھ ہم کر چکے ہیں، جس میں یہ دعاء ہے:

[اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ ، رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ،
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ كَلِمَةٍ قَلَّهَا
إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا اضْطَجَعْتَ“ (۲)

اے اللہ، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، غیب و حاضر کو جاننے والے، ہر چیز کے پالنہار اور مالک و بادشاہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے۔ اے صبح و شام سونے لگو تو کہا کرو۔

۲۸۷ - ترمذی اور ابن سنی کی کتاب میں حضرت شہاد بن اوسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ بَاوَى إِلَى فِرَاشِهِ فَيَقْرَأُ سُورَةَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
تَعَالَى حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ مَلَكًا
لَا يَدَعُ شَيْئًا يَقْرُبُهُ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهْبَّتْ مَتْنِي هَبًّا“ (۳)

(۱) صحیح مسلم: ۲۷۱۲

(۲) ابو داؤد: ۵۰۶۸، ترمذی: ۳۳۹۲، وقال الترمذی: حديث صحيح

(۳) ترمذی: ۳۳۰۷، وعمل اليوم لابن سنی: ۳۳۹۲، وسنده ضعيف

جب بھی کوئی مسلم شخص اپنے بستر پر سونے کے لئے جاتا ہے، پھر سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ عزوجل اس کے لئے فرشتہ مامور فرمادیتے ہیں جو کسی بھی ایسی چیز کو جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہے اس کے قریب آنے سے روک دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، خواہ جب بھی بیدار ہو۔

۲۸۸ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ ابْتَدَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَقَالَ الْمَلِكُ: اللَّهُمَّ أَخْتِمْ بِخَيْرٍ، فَقَالَ الشَّيْطَانُ: أَخْتِمْ بِشَرٍّ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ثُمَّ بَاتَ الْمَلَكُ يَكْلُمُهُ“ (۱)

جب انسان اپنے بستر پر سونے کے لئے آتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان ایک دوسرے پر سبقت لیجاتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے ہیں پھر فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو خاتمہ بالخیر فرما تو شیطان کہتا ہے، خاتمہ شر کے ساتھ فرما، اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے سوتا ہے تو فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔

۲۸۹ - اسی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب سونے کے لئے لیٹتے تو فرماتے:

”اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي“

اے اللہ، اے میرے پروردگار تیرے نام کے سہارے میں نے اپنا پہلو رکھا ہے پس تو میرے گناہوں کو بخش دے۔ (۲)

۲۹۰ - اسی کتاب میں حضرت ابوامامہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کو یہ

(۱) عمل اليوم لابن سنی ۷۵۰ و للنسائی ۸۵۳: حدیث حسن

(۲) عمل اليوم لابن سنی ۷۱۹: حدیث حسن

کہتے سنا:

”مَنْ آوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ طَاهِرًا ، وَذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّىٰ
يُذْكَرَ لَهُ النَّعَاسُ لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ
إِيَّاهُ“ (۱)

جو کوئی پاکی کی حالت میں اپنے بستر پر سونے کو گیا اور نیند آنے
تک اللہ عزوجل کا ذکر کرتا رہا، وہ رات کے کسی بھی وقت جب بھی
پہلو بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دینا و آخرت کی خیر و بھلائی مانگے تو
اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرمادیتے ہیں۔

۲۹۱ - اسی کتاب میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ
جب اپنے بستر پر آتے تو فرماتے:

”اللَّهُمَّ اَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي ، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ
مِنِّي ، وَانصُرْنِي عَلَىٰ عَدُوِّي ، وَارِنِي فِيهِ ثَارِي اللَّهُمَّ اِنِّي
اَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ وَمِنَ الْجُوعِ فَاِنَّهُ بِئْسَ
الضَّجِيعُ“ (۲)

اے اللہ تو مجھے میری سماعت و بصارت سے مستفید فرما اور ان
دونوں کو میرا وارث بنا، اور دشمنوں پر میری مدد فرما، اور ان میں میرا
انتقام دکھا، اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور
بھوک (پیس) سے کیونکہ یہ بڑا ہی برا لینے کا ساتھی ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ سماعت و بصارت کو وارث بنانے کا مفہوم یہ ہے کہ تو ان دونوں کو

(۱) عمل الیوم لابن سنی ۷۲۳ مسند احمد ۲۳۵/۵ عن معاذ ابوداؤد : ۵۰۳۲

(۲) عمل الیوم لابن سنی : ۷۳۹ اسنادہ ضعیف

موت تک صحیح وسالم باقی رکھ، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد بڑھاپے اور اعضاء جسمانی ودیگر حواس کے کمزور پڑ جانے کے وقت بھی انہیں طاقتور اور صحیح وسالم باقی رکھنا ہے۔ یعنی ان دونوں اعضاء کو میرے باقی اعضاء کی قوت اور اس کے بعد کے باقی حواس کا وارث بنا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ”سماعت“ سے مراد ہوش یا شعور ہے جس سے سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور بصارت سے مراد ہے کہ جو دیکھے اس سے نصیحت و عبرت حاصل کرے۔ ایک اور روایت میں ”واجعلہما الوارث منی“ کے بجائے ”واجعللہ الوارث منی“ آیا ہے، یعنی ہما تشنیہ کی ضمیر سمع و بصر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور دوسری روایت جس میں ”ہ“ واحد کی ضمیر ہے وہ امتاع کی طرف لوٹ رہی ہے۔

۲۹۲ - اسی کتاب میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوں، اس دنیا کو داغ مفارقت دینے تک کبھی بھی آپ ﷺ درجہ ذیل چیزوں سے پناہ مانگے بغیر نہیں سوتے، یعنی بزدلی، کاہلی، آزر دگی، بخل، بڑھاپے کی بدترین انتہا، اہل و عیال اور مال و اسباب میں سوء منظر (بربادی) عذاب قبر اور شیطان کے شر و شرک سے۔ (۱)

۲۹۳ - اسی کتاب میں حضرت عائشہؓ ہی سے مروی ہے کہ وہ جب سونے کا ارادہ کرتیں تو کہتیں:

”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ رَوِیًّا صَالِحًا صَادِقًا غَیْرَ کَاذِبٍ،
نَافِعًا غَیْرَ ضَارٍّ“

اے اللہ میں آپ سے جھوٹا نہیں بلکہ سچا اور اچھے خواب کی درخواست کرتی ہوں جو نفع بخش ہو، ضرر رساں نہ ہو۔

حضرت عائشہؓ جب یہ کلمات کہتیں تو سب سمجھ جاتے کہ اب آپ صبح تک یارات میں جاگنے تک کوئی بات نہیں کریں گی۔ (۲)

(۱) عمل الیوم لا بن سنی : ۷۴۱، یہ حدیث ضعیف ہے۔

(۲) عمل الیوم لا بن سنی : ۷۴۸، حدیث موقوف صحیح والاسناد

۲۹۴- حافظ ابو بکر ابوداؤد نے اپنی مخصوص سند کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰؓ سے روایت کی ہے، حضرت علیؓ فرماتے ہیں:

”میں نے کسی صاحب عقل کو نہیں دیکھا کہ وہ سورۃ بقرہ کی آخری میں

آیات کو پڑھے بغیر سویا ہو۔ (۱)

اور حضرت علیؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”میں نے کسی صاحب عقل کو جو

اسلام میں داخل ہوا ہو آیت الکرسی پڑھے بغیر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ (۲)

۲۹۵- ابراہیم نخعی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں:

”كَانُوا يَعْلَمُونَهُمْ إِذَا آوَا إِلَىٰ فِرَاشِهِمْ أَنْ يَقْرَأُوا
الْمَعْوَذَتَيْنِ“

صحابہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے کہ وہ جب بستر پر سونے کے لئے
جائیں تو معوذتین (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
النَّاسِ) پڑھ لیا کریں۔

ایک اور روایت میں ہے:

”وَكَانُوا يَحِبُّونَ أَنْ يَقْرَأُوا هُوَ لَاءِ السُّورَةِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وَالْمَعْوَذَتَيْنِ“ (۳)

وہ لوگ ہر رات ان سورتوں کو تین بار پڑھنا پسند فرماتے تھے، یعنی ،
قل هو الله احد ، قل اعوذ برب الفلق ، قل اعوذ برب
الناس۔

اس باب کی احادیث و آثار صحابہ بکثرت موجود ہیں، جس قدر میں نے ذکر کر دیا ہے،

(۱) ابن علان : ۱۷۰۳ بحوالہ شریعة القاری لابی بکر ، اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین

(۲) حوالہ سابق

(۳) اسنادہ صحیح علی شرط مسلم

اس پر عمل کرنے والوں کے لئے وہی کافی ہے، اس سے زیادہ کو اس اندیشہ سے محذف کر رہا ہوں کہ کہیں تشنہ لبوں کو ملال و اکتاہت نہ پیدا ہو جائے۔

ہر انسان کو چاہئے کہ اس باب میں مذکور تمام دعاؤں کا اہتمام کرے، اور اگر ساری دعاؤں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو اہم دعاؤں میں سے جو ممکن ہو اور آسانی سے کر سکتا ہو اس پر عمل کرے۔

(باب-۲۹)

اللہ کا ذکر کئے بغیر سونے کی کراہت:

۲۹۶ - سنن ابی داؤد میں بسند جید حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ
مِنَ السُّلَّةِ تَبْرَةٌ، وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى
فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تَبْرَةٌ“ (۱)

جو کوئی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو تو اللہ کی طرف سے اس پر تاوان ہے، اور جو کوئی اس طرح سویا کہ سوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے تاوان ہے۔

”تبرہ“ کے معنی نقص اور کمی کہ ہیں، بعض حضرات نے اس کا معنی ڈنڈ، تاوان اور ضرر لاحق ہونا بھی لکھا ہے۔

(باب-۳۰)

رات میں بیدار ہو کر دوبارہ سونے کا ارادہ ہو تو کیا کہے:

رات میں بیدار ہونے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اس کے بعد نہیں

سوتے، اس کے اذکار شروع کتاب میں گذر چکے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو اس کے بعد پھر دوبارہ سونے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسے شخص کے لئے مستحب ہے کہ نیند غالب آنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ایسے شخص کے بارے میں بہت سے اذکار وارد ہوئے ہیں، بعض تو وہ ہیں جو پہلی قسم کے لوگوں کے اذکار میں گذر چکے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اس سے مختلف ہیں۔

۲۹۷ - اس میں ایک وہ ہے جو صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامتؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ تَعَا رَمِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ] ثُمَّ قَالَ : [اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي] أَوْ دَعَا أُسْتَجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ“ (۱)

جو شخص رات میں نیند سے بیدار ہو اور کہے [اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے ساری تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے اور ساری حرکت و قوت اللہ ہی سے ہے] پھر اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي کہے (اے اللہ تو مجھے بخش دے) یا کوئی اور دعاء کرے، تو اسے قبول کیا جاتا ہے، پھر اگر وضوء کرے (اور نماز پڑھے) تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔

اس روایت کی سماع ہم نے یقینی طور پر اسی طرح محفوظ کیا ہے، اور بخاری کے متعدد نسخوں میں اسی طرح ہے، البتہ بعض نسخوں میں ”واللہ اکبر“ سے پہلے ”وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

ساقط ہو گیا ہے اور حمیدی نے بھی ”الجمع بین الصحیحین“ میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، ترمذی وغیرہ کی روایت میں یہ لفظ موجود ہے مگر ابوداؤد کی روایت میں نہیں ہے۔

اس روایت کے ایک راوی ”ولید بن مسلم، جو کہ امام بخاری، ابوداؤد ترمذی وغیرہم کے شیخ الشیوخ ہیں کو ”اللہم اغفر لی“ اور دعاء کے اندر شک ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ”اللہم اغفر لی“ کہا یا ”دعا الخ“ کہا۔

۲۹۸ - سنن ابی داؤد میں ایسی سند سے جس کی انہوں نے تضعیف نہیں کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رات میں بیدار ہوتے تو کہتے :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ اسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي،
وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُرِغْ قَلْبِي
بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ“

تیرے سوا کوئی محبوب نہیں، تیری ذات پاک ہے، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور تیری رحمت کی درخواست کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما اور جبکہ تو نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی ہے، میرے دل میں کجی مت فرما (مجھے گمراہ مت کر) اور

اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا فرما بلاشبہ تو بڑا ہی داتا ہے۔ (۱)

۲۹۹ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ وہ، یعنی رسول اللہ ﷺ جب رات میں نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ“ (۲)

(۱) سنن ابی داؤد: ۵۰۶۱

(۲) عمل الیوم لابن سنی: ۷۶۲ عمل الیوم للنسائی ۸۶۳، حدیث حسن

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو واحد و قہار ہے آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب و پالنہار ہے، غلبہ والا اور خوب بخشنے والا ہے۔

۳۰۰ - اور اسی میں بسند ضعیف حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ:

”إِذَا رَدَّ اللَّهُ عَزْرًا وَجَلَّ إِلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلِ ،
فَسَبَّحَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ وَدَعَا قَبْلَ مِنْهُ“

اللہ عزوجل جب کسی بندہ مسلم کو اس کی جان رات میں لوٹا دیتا ہے، پھر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اس سے دعاء کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاء قبول فرماتے ہیں۔ (۱)

۳۰۱ - ترمذی، ابن ماجہ و ابن سنی میں بسند جید حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ
فَلْيَنْفِضْهُ بِصِنْفَةٍ إِزَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ
عَلَيْهِ ، فَإِذَا اضْطَجَعَ فَلْيَقُلْ [بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ وَضَعْتُ
جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَأَرْحَمْهَا وَإِنْ
رَدَدْتَهَا فَأَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ“ (۲)

جب تم میں سے کوئی رات میں اپنے بستر سے اٹھے پھر دوبارہ اس پر آئے تو اسے چاہئے کہ بستر کو کم از کم اپنے تہبند کے کنارے سے تین بار جھاڑنے کیونکہ اسے پتہ نہیں اس پر اپنے پیچھے کیا چھوڑا

(۱) عمل الیوم لابن سنی : ۷۵۸

(۲) سنن ترمذی : ۳۴۰۱ ، سنن ابن ماجہ ، ۳۸۷۳ عمل الیوم لابن سنی : ۷۷۰

ہے، اور جب لیٹو تو کہو، بِاسْمِکَ اللّٰہِ تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی سہارے سے اٹھاؤنگا اگر تو نے میری جان روک لی تو اس پر رحم فرما اور اگر اسے لوٹا دی تو اس کی حفاظت انہی کے ذریعہ فرما جس سے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔

۳۰۲ - موطا امام مالک میں کتاب الصلاة کے باب الدعاء میں امام مالک سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو درداءؓ سے یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ جب رات کے کسی حصہ میں اٹھتے تو کہتے:

”نَامَتِ الْعُیُونُ ، وَ غَارَتِ النُّجُومُ وَ اَنْتَ حَتَّى قِيَوْمٍ“ (۱)

آنکھیں سوچکی، اور ستارے ڈوب چکے ہیں اور تو ہی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔

(باب - ۳۱)

اضطراب و بیقراری کی وجہ سے نیند اچٹ جانے کے وقت کی دعاء:

۳۰۳ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت زید بن ثابتؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بد خوابی اور نیند اچٹنے کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، قل کہو:

”اللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُومُ وَ هَدَّاتِ الْعُیُونُ ، وَ اَنْتَ حَتَّى قِيَوْمٍ

، لَا تَاْخُذُكَ سَنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اَهْدِیْ لَیْلِی وَ اِنِّمْ

عَیْنِی“

اے اللہ ستارے ڈوب چکے ہیں، اور آنکھیں پرسکون ہو چکی ہیں،

اور تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ساری چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے، تجھے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند، اے جی و قیوم تو میری شب پر سکون بنا دے اور میری آنکھ سلا دے۔

حضرت زید فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعاء کی تو اللہ نے مجھ سے وہ شکایت دور کر دی جس کے اندر میں گرفتار تھا۔ (۱)

۳۰۴۔ محمد بن یحییٰ بن جبان سے مروی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بے خوابی کی شکایت ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی شکایت کی آپ ﷺ نے انہیں سوتے وقت ان کلمات کے ذریعہ تعویذ کا حکم دیا:

”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَسَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ“ (۲)

میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ لیتا ہوں، اللہ کے غضب اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسہ اور اس کی آمد سے۔

۳۰۵۔ سنن ترمذی میں بسند ضعیف (جس کی امام ترمذی نے تضعیف کی ہے) حضرت بریدہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خالد بن ولیدؓ نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ بے خوابی و نیند اچھلنے کی وجہ سے میں رات میں نہیں سو پاتا ہوں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِذَا أُوْتِيَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَقُلْ: [اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبُّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبُّ الشَّيَاطِينِ
وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا،
أَنْ يَفْزُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَأَنْ يَبْغِيَ عَلَيَّ، عَزَّ جَارُكَ

(۱) عمل الیوم لابن سنی ۷۵۳، حدیث غریب

(۲) عمل الیوم لابن سنی ۷۵۵، یہ حدیث مرسل اور صحیح الاسناد ہے

وَجَلَّ ثَنَاءُ كَسَّ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (۱)
 جب تم بستر پر سونے کے لئے جاؤ تو کہو، اے اللہ اے ساتوں
 آسمان اور جس پر وہ سایہ نگیں ہے اس کے پالنہار، اے زمینوں کے اور
 جسے وہ اٹھائے ہوئی ہے اس کے پالنہار، اے شیطانوں کے اور جسے
 اس نے گمراہ کیا اس کے پالنہار، تو میرے لئے پناہ بن جا اپنے تمام
 مخلوق کے شر سے کہ ان میں کا کوئی مجھے تکلیف پہنچائے، اور مجھ پر
 دست درازی یا ظلم کرے، تیری پناہ نہایت مضبوط اور تیری حمد و ثناء عظیم
 ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور بس تو ہی لائق عبادت ہے۔

(باب-۳۲)

نیند میں ڈر جانے کے وقت کی دعاء:

۳۰۶- ابوداؤد ترمذی اور ابن سنی و دیگر کی کتابوں میں حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ
 روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ انہیں نیند میں ڈرنے سے متعلق یہ کلمات سکھاتے تھے:

”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ
 هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ“

میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اللہ کے غضب اس کے
 بندوں کے شر اور شیاطین کے وسوسوں اور اس کی آمد سے۔

وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر و اپنے باشعور و صاحب امتیاز بچوں کو (جو بڑے
 ہوتے) یہ کلمات سکھاتے، اور جو کم عمر نا سمجھ ہوتے اس کی تعویذ بنا کر اس کے گلے میں لٹکا
 دیتے تھے۔ (۲)

(۱) سنن ترمذی: ۳۵۲۳

(۲) ابوداؤد: ۳۸۹۳، ترمذی: ۳۵۲۸، عمل الیوم لابن سنی: ۷۵۳، وقال الترمذی:

۱۳۰۶ - ابن سنی کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نیند میں ڈرنے کی آپ سے شکایت کی، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلْ: [أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ
التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ،
وَأَنْ يَحْضُرُونَ]

جب تم سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو کہو: میں اللہ کے مکمل
کلمات کی پناہ لیتا ہوں اللہ کے غضب سے، اس کے بندوں کے شر
سے اور شیاطین کے دوسوں اور اس کی آمد سے۔

اس شخص نے اس پر عمل کیا تو ڈرنے کی شکایت اس سے دور ہوگی (۱)

(باب-۳۳)

نیند میں خوش کن یا ناگوار چیزوں کو دیکھتے وقت کی دعاء:

۳۰۷ - صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ
کہتے ہوئے سنا:

”إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَجْهَبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ،
فَلْيُحْمَدِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا“

اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو یہ
اللہ کی جانب سے ہے، اسے چاہئے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا حمد و ثناء
کرے، اور اسے دوسروں کے سامنے بیان کر دے۔

ایک روایت میں ہے ”فَلَا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ“ اسے صرف انہی لوگوں سے بیان
کرے جس سے وہ محبت کرتا ہو (یا جو اس سے محبت کرتا ہو)

”وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَنَامًا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيُسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَدْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ“ (۱)

اور اگر اس کے علاوہ ایسی چیز دیکھتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور اسے چاہئے کہ وہ اس کے شر سے پناہ مانگے، اور وہ اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرے، کیونکہ وہ (خواب ایسی صورت میں) نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

۳۰۸ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو قتادہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ - وَفِي رِوَايَةٍ - الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ، مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ“

اچھا خواب اور ایک روایت میں ہے ”حسین خواب“ اللہ کی طرف سے ہے اور اوث پٹا نگ خواب شیطان کی طرف سے ہے، اس لئے اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند نہ کرتا ہو تو اپنے بائیں جانب تین بار پھونک مارے اور شیطان سے پناہ مانگے (تعویذ پڑھے) کیونکہ (اس طرح) وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ (۲)

ایک میں ”فَلْيَنْفُثْ“ (پھونک مارے) کی جگہ ”فَلْيَبْصُقْ“ (تھوک پھینکے) ہے، پہلی روایت میں ”نفث“ سے مراد بظاہر اس طرح پھونک مارنا ہے جس میں تھوک نہ نکلے، اور بصدق میں تھوک کے ساتھ پھونک مارنا مراد ہے۔

(۱) صحیح بخاری: ۶۹۸۵

(۲) صحیح بخاری: ۵۷۳۷، مسلم: ۲۲۶۱

۳۰۹ - صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ
ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنِبِهِ
الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ“ (۱)

اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اپنے بائیں جانب تین بار تھوکے اور تین بار شیطان سے پناہ مانگے، (اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے) اور جس پہلو پر تھا اس سے اپنا پہلو بدل لے۔

۳۱۰ - امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

”إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا
وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ“ (۲)

جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اسے کسی سے بیان نہ کرے اور اسے چاہئے کہ اٹھے اور نماز پڑھے،

۳۱۱ - ابن سنی کی کتاب میں یہ روایت اس طرح ہے:

”إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَتَقَلَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ
لِيَقُلْ: [اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ
الْأَحْلَامِ] فَانْهَى لَاتَكُونَ شَيْئًا“ (۳)

اگر تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اسے تین بار تھوکتا چاہئے پھر اسے ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ“ کہنا چاہئے ”اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں شیطان کے عمل اور بے سرو پا

خواب کی برائیوں سے، کیونکہ یہ کچھ نہیں ہوتا۔

(باب-۳۴)

جس سے خواب بیان کیا جائے اسے کیا کہنا چاہئے:

۳۱۲ - ابن سنی کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس شخص سے جس نے آپ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا ارشاد فرمایا:

”خَيْرَ آرَآيْتِ وَخَيْرَ أَيُّكُونُ“ (۱)

تم نے بہتر دیکھا اور بہتر ہی ہوگا۔

۱/۳۱۲ - ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

”خَيْرَ أَتَلَقَّاهُ ، وَخَيْرَ أَتَوَقَّاهُ ، خَيْرَ النَّاسِ وَشَرًّا عَلَيَّ

أَعْدَائِنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ (۲)

تو خیر ہی پائے، شر سے محفوظ رہے، ہمارے لئے خیر ہے اور شر

ہمارے دشمنوں کے لئے ہے، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو

سارے جہاں کا رب ہے۔

(باب-۳۵)

اخیر شب میں دعاء واستغفار کی تلقین:

۳۱۳ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ

الَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَ مَنْ

(۱) عمل الیوم لابن سنی ۷۷۸ء یہ حدیث ضعیف ہے

(۲) عمل الیوم لابن سنی ۷۷۷ء یہ حدیث ضعیف ہے

يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ ، وَ مِنْ يَسْتُغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ“ (۱)

ہمارے پروردگار ہر رات جبکہ آخری ایک تہائی شب باقی رہتی آسمان دنیا پر نزول فرما کر کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اس کی دعاء قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطاء کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔

اور مسلم کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں:

يَنْزِلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَيَّ السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ فَيَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَاسْتَجِيبَ لَهُ مِنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتُغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيئَ الْفَجْرُ ،،

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات سماء دنیا پر اس وقت نزول فرماتے ہیں جبکہ رات کا پہلا ایک تہائی حصہ گزر چکا ہوتا ہے پھر فرماتے ہیں، میں بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں کون ہے جو مجھ سے دعاء کرے کہ میں اس کی دعاء قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطاء کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے کہ میں اس کی مغفرت کروں اور یہ سلسلہ اسی طرح فجر کے روشن ہونے تک رہتا ہے۔ (۲)

ایک روایت میں ”اذا مضى شطر الليل“ ہے، یعنی جب نصف شب کا ایک معتدبہ

حصہ گزر جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ”ثلثا“ ہے (یعنی رات کا دو تہائی حصہ) (۳)

(۲) صحیح مسلم: ۷۵۸: صحیح مسلم ۱۶۹

(۱) صحیح بخاری ۲۴۳: صحیح مسلم ۷۵۸

(۳) صحیح مسلم: ۱۷۱

(باب - ۳۷)

اسماءِ حسنیٰ کا بیان :

اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں:

”وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا“ (اعراف: ۱۸۰)

اور اللہ کے لئے سب نام اچھے ہیں سو اس کو پکارو وہی نام کہ کر۔

۳۱۶ - حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اِنَّ لِلّٰهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا، مِائَةٌ اَوْ اَحَدٌ، مَنْ اَحْصَاهَا
دَخَلَ الْجَنَّةَ، اِنَّهُ وَتَرِيْحِبُ الْوَتْرِ“

اللہ تعالیٰ کے ایک کم سو، یعنی ننانوے نام ہیں، جس نے اسے شمار کر

لیا (یاد کر لیا) وہ جنت میں داخل ہوگا، اللہ وتر (طاق) ہے، وہ وتر

(طاق) کو پسند کرتا ہے۔

نوٹ : وتر ”واو“ کے زیر اور زبردوں طرح سے درست ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منفرد و یکتا ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ نظیر، اللہ تعالیٰ کا وتر کو پسند فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے اعمال و طاعات میں اللہ تعالیٰ نے وتر یعنی طاق عدد کو جفت پر فوقیت و فضیلت بخشی ہے، مثلاً نمازیں پانچ ہیں، طہارت تین تین بار حاصل کرنے کا حکم ہے، تسبیحات عموماً طاق عدد ہیں، مخلوقات میں سے بڑے، اور اہم مخلوقات طاق ہیں جیسے آسمان، زمین، سمندر، اور ہفتہ کے ایام۔

اللہ کا طاق کو پسند فرمانے سے متعلق کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا مفہوم اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جو شخص اللہ کی عبادت اس کی انفرادیت و وحدانیت میں اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔

امام قرطبی کی رائے ہے کہ اس وتر و طاق عدد کے اندر عموم مراد ہے، کیونکہ اس کے اندر

کسی خاص چیز میں وتر کا ذکر نہیں، اس لئے اس کا مفہوم اس طرح ہوگا کہ اللہ ہر اس وتر وطاق کو پسند فرماتے ہیں جس کو انہوں نے مشروع کیا اور بندے کو حکم دیکر اس کا پابند بنایا، جیسے نماز مغرب، و نماز پنجگانہ ”اللہ پسند فرماتے ہیں“ کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا اور اس کے بجالانے کی تلقین کی ہے، کیونکہ اللہ اسی چیز کا حکم دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے۔

اور اللہ کے ننانوے نام یہ ہیں:

(۱) ھو اللہ الذی لا الہ الا ھو، وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی۔

(۲) الرحمن۔ بہت رحم کرنے والا

(۳) الرحیم۔ بڑا مہربان (۴) الملک۔ حقیقی بادشاہ (۵) القدوس۔ پاک ذات

(۶) السلام۔ سلامتی والا، بے عیب (۷) المؤمن۔ امن و امان دینے والا۔

(۸) المہیمن۔ نگہبان (۹) العزیز۔ سب پر غالب

(۱۰) الجبار۔ سب سے زبردست (۱۱) المتکبر۔ بڑائی و بزرگی والا

(۱۲) الخالق۔ پیدا کرنے والا (۱۳) الباری۔ جان ڈالنے والا

(۱۴) المصور۔ صورت دینے والا (۱۵) الغفار۔ درگزر کرنے والا

(۱۶) القہار۔ سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا (۱۷) الوہاب۔ خوب عطاء کرنے والا

(۱۸) الرزاق۔ بڑا روزی دینے والا (۱۹) الفتاح۔ بڑا مشکل کشا

(۲۰) العلیم۔ بہت وسیع علم والا (۲۱) القابض۔ روزی تنگ کرنے والا

(۲۲) الباسط۔ روزی فراخ کرنے والا۔ (۲۳) الخافض۔ پست کر دینے والا

(۲۴) الرافع۔ بلند کر دینے والا (۲۵) المعز۔ عزت دینے والا

(۲۶) المذل۔ ذلت دینے والا (۲۷) السميع۔ سب کچھ سننے والا

(۲۸) البصیر۔ سب کچھ دیکھنے والا (۲۹) الحکم۔ حاکم مطلق

(۳۰) العدل۔ سراپا انصاف (۳۱) اللطیف۔ بڑا لطف و کرم کرنے والا

(۳۲) الخبیر۔ باخبر و آگاہ رہنے والا (۳۳) الحلیم۔ بڑا بردبار

- (۳۳) العظیم - بڑا بزرگ
(۳۶) الشکور - قدردان
(۳۸) الکبیر - بہت بڑا
(۴۰) المغیث - دادری کرنے والا
(۴۲) الجلیل - بڑے بلند مرتبہ والا
(۴۳) الرقیب - بڑا نگہبان
(۴۶) الواسع - وسعت والا
(۴۸) الودود - بہت محبت کرنے والا
(۵۰) الباعث - مردوں کو زندہ کرنے والا (۵۱) الشہید - حاضر و ناظر
(۵۲) الحق - برحق و برقرار
(۵۳) القوی - بڑی طاقت و قوت والا
(۵۲) الولی - مددگار و حمایتی
(۵۸) المحصی - اپنے علم و شمار میں رکھنے والا (۵۹) المبدئی - پہلی بار پیدا کرنے والا
(۶۰) المعید - دوبارہ پیدا کرنے والا
(۶۲) الممیت - موت دینے والا
(۶۳) القیوم - سب کو قائم و سنبھالنے والا
(۶۲) الماجد - بزرگی و بڑائی والا
(۶۸) الصمد - بے نیاز
(۷۰) المقتدر - پوری قدرت رکھنے والا
(۷۲) المُوخر - پیچھے اور بعد میں رکھنے والا
(۷۳) الآخر - سب کے بعد
(۷۷) الباطن - پوشیدہ
(۳۵) الغفور - بہت بخشنے والا
(۳۷) العلی - بہت بلند و برتر
(۳۹) الحفیظ - سب کا محافظ
(۴۱) الحسیب - سب کیلئے کفایت کرنے والا
(۴۳) الکریم - بہت کرم کرنے والا
(۴۵) المجیب - دعائیں قبول کرنے والا
(۴۷) الحکیم - بڑی حکمتوں والا
(۴۹) المجید - بڑا بزرگ
(۵۱) الشہید - حاضر و ناظر
(۵۳) الوکیل - بڑا کارساز
(۵۵) المتین - شدید قوت والا
(۵۷) الحمید - لائق تعریف
(۵۹) المبدئی - پہلی بار پیدا کرنے والا
(۶۱) المحی - زندگی دینے والا
(۶۳) الحی - ہمیشہ زندہ رہنے والا
(۶۵) الواجد - ہر چیز کو پانے والا
(۶۷) الواحد - اکیلا و یکتا
(۶۹) القادر - قدرت والا
(۷۱) المقدم - پہلے اور آگے کرنے والا
(۷۳) الاول - سب سے پہلے
(۷۵) الظاہر - آشکارا
(۷۷) الوالی - متصرف و متولی

- (۷۸) المتعالی - سب سے بلند و برتر (۷۹) البر - بڑا اچھا سلوک کرنے والا
 (۸۰) الثواب - بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا (۸۱) المنتقم - بدلہ لینے والا
 (۸۲) العفو - بہت معاف کرنے والا (۸۳) الرؤف - بہت بڑا شفقت کرنے والا
 (۸۴) مالک الملک - ملکوں کا مالک، بادشاہوں کا بادشاہ
 (۸۵) ذوالجلال والاکرام - عظمت و جلال اور انعام و اکرام کرنے والا
 (۸۶) المقسط - عدل و انصاف قائم کرنے والا
 (۸۷) الجامع - سب کو جمع کرنے والا (۸۸) الغنی - بڑا بے نیاز
 (۸۹) المغنی - بے نیاز بنادینے والا (۹۰) المانع - روک دینے والا
 (۹۱) الضار - ضرر پہنچانے والا (۹۲) النافع - نفع پہنچانے والا
 (۹۳) النور - سراپا نور اور نور بخشنے والا (۹۴) الہادی - سیدھا راستہ دکھانے والا
 (۹۵) البدیع - بغیر نمونہ کے چیزوں کو ایجاد کرنے والا
 (۹۶) الباقي - ہمیشہ باقی رہنے والا (۹۷) الوارث - سب کے بعد موجود رہنے والا
 (۹۸) الرشید - راستی و نیکی پسند کرنے والا (۹۹) الصبور - بڑے صبر و تحمل والا
 "ان لله" سے "یحب الوتر" تک بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ (۱)

اور اس کے بعد اسماء حسنیٰ کی روایت حدیث حسن ہے، جسے امام ترمذی وغیرہ نے ذکر کیا

ہے۔ (۲)

بعض روایتوں میں "المغیث" کی جگہ "المقیمت" اور "الوقیب" کی جگہ "القویب" اور "المتین" کی جگہ "المبین" آیا ہے، مگر مشہور المتین ہی ہے "احصاھا" کا لغوی معنی شمار کرنا ہے، مگر اس جگہ اس سے مراد اسے حفظ اور یاد کرنا ہے، جیسا کہ امام بخاری وغیرہ اکثر محدثین نے اس کی تفسیر کی ہے، اور اس کی تائید صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی

(۱) صحیح بخاری: ۶۳۱۰ صحیح مسلم: ۲۶۷۷

(۲) دیکھئے: سنن ترمذی: ۳۵۰۷، ابن ماجہ: ۳۸۶۱

ہے جس کے الفاظ ہیں۔ ”من حفظها دخل الجنة“ جس نے اسے حفظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (۱)

بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ جس نے ان اسماء کے مفہوم و معانی کو سمجھا، اور اس پر ایمان لایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے اس کا مفہوم یوں بیان کیا ہے کہ جس نے ان اسماء کی اچھی رعایت کے ساتھ اس پر قدرت رکھنے کی صورت میں عمل کیا اور اپنے آپ کو اس طرح ڈھالا کہ اس کے معانی پر عمل کرنے کی قدرت حاصل ہوگئی تو جنت میں داخل ہوگا، واللہ اعلم۔

کتاب تلاوة القرآن

تلاوت قرآن کا بیان

یاد رکھیں کہ تلاوت قرآن سب سے افضل ذکر ہے، اور مطلوب تدبر کے ساتھ تلاوت کرنا ہے، تلاوت کے کچھ مقاصد و آداب ہیں، جس کے متعلق میں نے ایک مختصر کتاب اس سے قبل تالیف کی ہے، اس کے اندر میں نے تلاوت اور تلاوت کرنے والوں کے بعض نفیس نکات، آداب و صفات، اور اس سے متعلق امور کو جمع کیا ہے، حامل قرآن کے لئے اس سے ناواقف رہنا مناسب نہیں۔ زیر نظر کتاب کے اندر ان مقاصد کا میں مختصر تذکرہ کرونگا، اور جو اس کی تفصیل جانا چاہے وہ مذکورہ کتاب سے رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔

(فصل)

تلاوت قرآن کی پابندی کرنا:

تلاوت قرآن کی شب و روز پابندی رکھنا مناسب ہے، خواہ سفر میں ہو یا حضر میں، کتنے

دنوں میں ختم قرآن ہونا چاہئے؟ اس سلسلہ میں سلف صالحین کے مختلف طور طریق اور عادات و اطوار تھے، سلف صالحین کی ایک جماعت دو ماہ میں ختم کرتی تھی کچھ لوگ ہر ماہ، کچھ لوگ دس شب میں، کچھ لوگ آٹھ شب میں اور کچھ لوگ ہر سات شب میں ختم کیا کرتے تھے، اور یہ اکثر سلف صالحین کا عمل تھا، اور کچھ لوگ ہر چھ شب میں، کچھ لوگ پانچ شب میں کچھ لوگ چار شب میں، اور اکثر حضرات تین شب میں اور بہت سے حضرات ۲۴ گھنٹہ میں بھی ختم کیا کرتے تھے، سلف صالحین کی ایک بڑی تعداد ہر دن دو ختم اور کچھ حضرات تین ختم کیا کرتے تھے، بلکہ بعض حضرات نے تو ۲۴ گھنٹہ میں ۸ ختم بھی کیا ہے، یعنی چار ختم دن میں اور چار ختم رات میں، اور جن حضرات نے دن میں چار اور رات میں چار یعنی ایک شب و روز میں آٹھ ختم کئے ہیں ان میں سے ایک سعید بن الکاتب الصوفی ہیں، اور یہ تلاوت کی سب سے زیادہ مقدار ہے، جس کا مجھے علم ہو سکا۔

سید احمد الدروقی اپنی مخصوص سند سے، تابعی منصور بن زاذان بن عباد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ظہر اور عصر کے درمیان اور کبھی مغرب اور عشاء کے درمیان ایک ختم کیا کرتے تھے، اور رمضان میں مغرب و عشاء کے درمیان دو ختم اور کچھ اور پڑھا کرتے تھے، یہ حضرات رمضان میں عشاء کی نماز کو ایک چوتھائی شب گزرنے تک مؤخر کیا کرتے تھے۔

ابن ابی داؤد بسند صحیح نقل کرتے ہیں کہ مجاہد رمضان میں مغرب و عشاء کے درمیان ایک ختم کیا کرتے تھے اور جن حضرات نے ایک رکعت میں ختم کیا ہے ان کی تعداد بے شمار ہے، حضرت عثمان بن عفان، تمیم داری، سعید بن جبیر (اور امام ابو حنیفہؒ) ان میں سے چند مشہور شخصیات ہیں۔

البتہ اسے کب اور کتنے وقت میں ختم کرنا بہتر ہے؟ یہ افراد و اشخاص کے لحاظ سے مختلف ہے، اگر لطائف و معارف اور دقت فکر و نظر کا ظہور ہو تو اتنی ہی مقدار پہ اکتفاء کرنا بہتر ہے جس میں اسے یہ حاصل ہو سکے۔ (اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ) جو پڑھ رہا ہے اسے سمجھ کر پڑھتے ہوئے ختم کرنا چاہئے۔

جو لوگ علوم دینیہ کی نشر و اشاعت، حکومت و قضاء، دینی امور اور مسلمانوں کے مفاد عامہ سے متعلق امور میں مشغول ہوں انہیں اتنی ہی مقدار کی تلاوت پر اکتفاء کرنا چاہئے جس سے ان اہم امور میں خلل نہ پڑتا ہو جس کا اسے مکلف بنایا گیا ہے، البتہ جو لوگ ان شخصیات میں سے نہ ہوں تو انہیں بقدر استطاعت اس حد تک بکثرت تلاوت کرنی چاہئے کہ اس سے بیزارگی یا تلاوت میں روانی کی وجہ سے تلفظ میں خط و بگاڑ پیدا نہ ہو۔

متقدمین کی ایک جماعت نے ۲۴ رکعتوں میں ختم کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔

۳۱۷ - اور اس کی دلیل وہ روایت ہے جو سنن ابی داؤد و ترمذی وغیرہ میں صحیح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ“ (۱)

جس نے تین دن سے کم میں پورا قرآن پڑھا وہ اسے نہیں سمجھ سکتا۔

تلاوت قرآن کی ابتداء و اختتام کا وقت کیا ہونا چاہئے؟ یہ تلاوت کرنے والے کے اختیار میں ہے، اگر وہ ہفتہ میں ایک ختم کرنے والا ہے تو اس کے لئے مشعل راہ حضرت عثمان غنی ہیں جو شب جمعہ میں شروع کرتے اور جمعرات کی شب میں ختم کرتے تھے۔ امام غزالی ”الاحیاء“ میں فرماتے ہیں کہ ایک ختم رات میں اور دوسرا ختم دن میں کرنا افضل ہے دن کا ختم بہتر ہے کہ دو شنبہ کی شب نماز فجر کی دو رکعت سنت میں یا اس کے بعد کی نماز میں ہو اور رات کا ختم بہتر ہے کہ شب جمعہ کو مغرب کی دو رکعت سنت یا اس کے بعد کی نماز میں ہو، اور یہ اس لئے کہ کبھی دن کے اول اور کبھی آخری حصہ کا اس طرح استقبال ہو سکے۔

ابن ابی داؤد و جلیل القدر تابعی حضرت عمرو بن مرة سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”صحابہ کرام شب و روز کے ابتدائی حصہ میں ختم کرنا پسند فرماتے تھے“۔ جلیل القدر تابعی امام طلحہ بن مصرف سے منقول ہے، وہ فرماتے رہتے ہیں ”جس کسی نے دن کے کسی حصہ میں ختم قرآن کیا تو شام تک ملائکہ اس کے لئے رحمت کی دعاء کرتے ہیں، اور جس نے رات کے کسی حصہ

(۱) سنن ابی داؤد ۱۳۹۳، سنن ترمذی ۳۹۴۹، بحوالہ سنن کبریٰ للنسائی

میں ختم کیا تو صبح تک فرشتے اس کے لئے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں۔ نیز مجاہد سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

۳۱۸ - ابو محمد الدارمی جن کے حفظ، جلالت شان، لیاقت و مہارت اور رسوخ فی العلم ہونے پر اُمت کا اجماع ہے ان کی مسند میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ:

”اگر ختم قرآن اول شب میں میسر آجائے تو فرشتے اس کے لئے صبح تک دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں، اور اگر آخر شب میں میسر آجائے تو شام تک اس کے لئے دعاء رحمت کرتے رہتے ہیں،“ (۱)

(فصل)

تلاوت کا پسندیدہ وقت:

تلاوت کا پسندیدہ مقام اور افضل طریقہ نماز کے اندر کرنا ہے، امام شافعی وغیرہ دیگر فقہاء کا مذہب ہے کہ نماز میں لمبی قراءت طویل سجدہ سے افضل ہے اور خارج صلاۃ رات کی تلاوت عام اوقات سے افضل ہے، پھر رات میں اخیر شب کی تلاوت اول شب سے افضل ہے اور مغرب و عشاء کے درمیان پسندیدہ ہے۔

اور دن کی قراءت میں افضل وقت نماز فجر کے بعد ہے اور دن کے کسی بھی حصہ میں حتیٰ کہ نماز سے منع کردہ وقت میں بھی قراءت بلا کراہت جائز و درست ہے، اور معاذ بن رفاعہ کے مشائخ کا وہ قول جسے ابن ابی داؤد نے ان سے نقل کیا ہے کہ عصر کے بعد تلاوت بایں وجہ مکروہ ہے کہ یہ یہودیوں کی تعلیم کا وقت ہے، بے بنیاد اور ناقابل قبول ہے۔

اور ایام میں جمعہ، دو شنبہ، بیچ شنبہ، اور عرفہ کا دن اور عشرہ میں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور رمضان کا آخری عشرہ، اور عینوں میں، رمضان کا مہینہ تلاوت کے لئے سب سے افضل ہے۔

(۱) مسند الدارمی: ۳/۳۱۸ وقال الدارمی بعد الحسن عن سعد

(فصل)

ختم قرآن کے آداب اور اس سے متعلق امور کا بیان :

تنہا قرآن ختم کرنے والوں کے لئے نماز میں ختم کرنا مستحب ہے، البتہ جو خارج صلاۃ ختم کر رہے ہوں، یا بہت سے لوگ اکٹھا ختم کر رہے ہوں تو ان کے لئے رات کے شروع یا دن کے شروع میں ختم کرنا مستحب ہے، اسی طرح ختم کے دن روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، بشرطیکہ ایسا دن نہ آیا ہو جس میں شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ کوفہ کے حضرات تابعین جیسے طلحہ بن مصرف، میتب بن رافع اور حبیب بن ثابت رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ جس دن انہیں ختم کرنا ہوتا یہ حضرات اس دن روزہ رکھتے تھے، اور ختم قرآن کی مجلس میں پڑھنے اور نہ پڑھنے والے سبھوں کا شریک ہونا مستحب ہے۔

۳۱۹ - کیونکہ صحیحین کی روایت ہے کہ

”إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْخِيَصَ
بِالْخُرُوجِ ، يَوْمَ الْعِيدِ فَيَشْهَدُنَ الْخَيْرَ وَذَعْوَةَ
الْمُسْلِمِينَ“ (۱)

رسول اللہ ﷺ نے عائشہ عورتوں کو (بھی) عید کے دن عید گاہ جانے کی اجازت دی تاکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں اور خیر میں شریک ہو سکیں۔

۳۲۰ - مسند دارمی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ قرآن پڑھنے والے شخص کی نگرانی و تعاقب میں ایک شخص کو متعین فرمادیتے اور جب وہ ختم کرنے کو ہوتا تو انہیں خبر دی جاتی پھر آپ اس کے ختم میں شریک ہوتے۔ (۲)

۳۲۱ - حضرت انسؓ کے خاص شاگرد جلیل القدر تابعی حضرت قتادہ سے ابن ابی داؤد نے

(۲) مسند دارمی ۴/۳۶۸، اس اثر کی سند ضعیف ہے

(۱) بخاری ۹۷۴، مسلم ۸۹۰

متعدد صحیح سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالکؓ جب ختم قرآن کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل خانہ کو جمع کر کے دعاء فرماتے۔ (۱)

۳۲۲ - جلیل القدر تابعی حضرت حکم بن عثمیہؓ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجاہد اور عبادہ بن ابی لبابہ نے قاصد بھیج کر مجھے بلایا اور فرمایا کہ میں نے اس لئے قاصد بھیجا تھا کہ میرا ارادہ ختم قرآن کا ہے، اور ختم قرآن کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسری بعض صحیح روایتوں میں ہے کہ ختم قرآن کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔

۳۲۳ - بسند صحیح مجاہد سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ ختم قرآن کے وقت جمع ہوتے اور فرماتے تھے کہ ”اس وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے“
(فصل)

ختم قرآن کے وقت دعاء کرنا مستحب ہے:

ختم قرآن کے وقت دعاء کرنا غیر معمولی تاکید کے ساتھ مستحب ہے۔

۳۲۴ - مسند دارمی میں حمید اعرج رحمہ اللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن ختم کیا اور دعاء کی چار ہزار فرشتے اس کی دعاء پر آمین کہتے ہیں۔ (۲)

اور بہتر ہے کہ دعاء میں خوب الحاح و انتہاک ہو اور جامع کلمات کے ذریعہ اہم ضروریات کی دعاء کی جائے۔ دعاء کا اکثر حصہ یا پوری دعاء آخرت سے متعلق اور عام مسلمانوں کے امور، بادشاہ وقت اور تمام مسلمانوں کے حکام کی صلاح، طاعت کی توفیق، اختلافات سے حفاظت، نیکی اور تقویٰ پر اعانت، حق کے قیام اور اس پر یکجا ہونے، دشمنان دین اور تمام مخالفین پر غلبہ پانے وغیرہ کے بارے میں ہو۔

ان دعاؤں کے الفاظ کا ذکر ”اداب القراء“ میں کر چکا ہوں، جہاں میں نے مختصر دعائیں بھی نقل کی ہیں، جو اسے اخذ کرنا چاہئے وہاں سے اخذ کر سکتا ہے۔ ختم قرآن سے فارغ

ہو کر ساتھ ہی دوبارہ اسے شروع کر دینا مستحب ہے۔ سلف صالحین اسے بہت پسند فرماتے تھے اور اس حدیث سے استدلال کرتے تھے۔

۱۱۳۲۴ - حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”خَيْرُ الْأَعْمَالِ الْحَلُّ وَالرَّحْلَةُ، قِيلَ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: افْتِتَاحُ الْقُرْآنِ وَخَتْمُهُ“ (۱)

سب سے بہترین عمل پڑاؤ رکھتے ہی کوچ کرنا ہے، عرض کیا گیا یہ پڑاؤ کرنا اور کوچ کرنا کیا ہے، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قرآن کو شروع کرنا اور ختم کرنا۔

(فصل)

مقررہ اور ادووظائف کے چھوٹ جانے پر اس کی قضاء:

۳۲۵ - صحیح مسلم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ عَنِ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَجْرِ وَالظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ“ (۲)

جو شخص رات کے اپنے مخصوص اور ادووظائف یا اس کے کچھ حصے سے غافل ہو کر سو جائے پھر نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لئے لکھ دیا جاتا ہے کہ گویا اس نے رات ہی میں پڑھا ہے۔

(۱) سنن ترمذی ۲۹۳۸، کے الفاظ اس سے مختلف ہیں، ترمذی کی روایت حضرت ابن عباس سے ہے، وقال الترمذی: غریب لا تعرفه، اسنادہ لیسن بالقوی، اور پر مذکور الفاظ، ابن ابی داؤد کی روایت کے ہیں جو حضرت انس سے مروی ہے وہی سندہ کذاب (۲) صحیح مسلم: ۷۷۷

(فصل)

تلاوت قرآن کی پابندی کا حکم اور بھلانے پر انتباہ :

۳۲۶ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

”تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهَوُّ
أَشَدُّ تَقَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلَيْهَا“ (۱)

اس قرآن کی نگرانی رکھو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ اونٹ کا اپنی ٹکیل سے چھوٹ کر بدکنے سے زیادہ بدکنے والا ہے۔

۳۲۷ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الْإِبِلِ الْمُعْقَلَةِ ، إِنْ
عَاهَدَ عَلَيْهَا ، أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ“ (۲)

صاحب قرآن کی مثال ٹکیل میں بندھے ہوئے اونٹ جیسی ہے کہ اگر (بندھا ہوا) اس کی حفاظت و نگرانی کرتا ہے تو اس کے قابو میں ہے، اور اگر اسے آزاد چھوڑ دے تو رونو چکر ہو جاتا ہے۔

۳۲۸ - ابوداؤد ترمذی میں حضرت انسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

عَرِضْتُ عَلَى أَجْوَرِ أُمَّتِي حَتَّى الْقَدَاةِ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ
مِنَ الْمَسْجِدِ وَعَرِضْتُ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلِمَ أَرَدْتُ

أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أَوْ تَيْهًا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا“ (۱)

میرے سامنے میری امت کی نیکیاں پیش کی گئیں حتیٰ کہ وہ کنکری یا پرندے کا پر بھی جسے کوئی شخص مسجد سے نکالتا ہے، اور میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کئے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں دیکھا کہ قرآن کی کوئی سورت یا آیت کسی انسان کو دی گئی ہو پھر وہ اسے بھول گیا ہو۔

۳۲۹ - سنن ابی داؤد و مسند داری میں حضرت سعد بن عبادہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجَلَمًا“ (۲)

جس نے قرآن پڑھا (یعنی یاد کیا) پھر اسے بھول گیا، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے کوڑھی بن کر ملے گا۔

(فصل)

قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے آداب و مسائل:

تلاوت کرنے والوں کے آداب و مسائل بہت ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر ہم دلائل کو حذف کرتے ہوئے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے دلائل مشہور و معروف ہیں، نیز اس سے طول بے جا کا اندیشہ ہے۔

پہلا حکم تلاوت میں اخلاص پیدا کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضاء جوئی ہے، اس کا مقصد رضاء الہی کے سوا کچھ اور نہ ہو، نیز وہ قرآن کے ساتھ باادب رہے اور اپنے ذہن میں متحضر رکھے

(۱) ابوداؤد ۴۶۱۶، ترمذی ۲۹۱۶، امام ترمذی نے اس حدیث میں کلام کیا ہے

(۲) سنن ابی داؤد ۳۵۷۲، مسند داری ۲/۲۳۷، یہ حدیث ضعیف ہے۔

کہ وہ اللہ سے ہم کلام و سرگوشی کر رہا ہے، اور اس کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس تلاوت کے ساتھ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ اسے نہیں دیکھتا تو اللہ اسے ضرور دیکھ رہا ہے۔
(فصل)

تلاوت کے لئے مسواک کا حکم:

قرآن کی تلاوت کا جب ارادہ ہو تو مناسب ہے کہ مسواک وغیرہ سے منہ صاف کر لے اور بہتر ہے کہ مسواک پیلو کا ہو، البتہ کسی بھی شاخ یا خشبودار نبی مثلاً سعد، اُشنان یا کھر درے کپڑے سے جس سے صفائی حاصل ہو سکتی ہو صاف کر لینا درست ہے، البتہ انگلی سے صاف کرنے میں مسواک کی فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ اس میں حضرات شوافع کے تین اقوال ہیں:

مشہور قول یہ ہے کہ فضیلت حاصل نہ ہوگی، دوسرا قول یہ ہے کہ حاصل ہو جائے گی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر مسواک موجود ہو تو فضیلت حاصل نہ ہوگی اور اگر نہ ہو تو حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کے داہنے جانب سے عرض میں شروع کرے اور ادا انگلی سنت کی نیت کرے، بعض حضرات شوافع فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے وقت یہ دعاء پڑھنی چاہئے۔

”اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“

اے اللہ اے ارحم الراحمین تو میرے لئے اس میں برکت عطا فرما۔

پھر دانت کے ظاہری اور اندونی حصہ میں مسواک کرے اور دانت کے سرے اور اس کی جڑوں اور حلق کے اوپر آہستہ آہستہ پھیرے، مسواک متوسط قسم کی لکڑی کا بنا ہو، نہ تو بہت خشک ہو اور نہ بالکل نرم، اگر زیادہ خشک ہو تو اسے پانی سے بھگو کر نرم و ملائم کر لے۔

اگر خون وغیرہ کی وجہ سے منہ ناپاک ہو تو اسے دھوئے بغیر قرآن کی تلاوت مکروہ ہے، البتہ یہ حرام ہے یا نہیں؟ اس میں دو قول ہے اور صحیح قول کے مطابق حرام نہیں ہے۔ اس مسئلہ کی

تفصیلی وضاحت، نیز اس فصل کی دیگر جزئیات کا کچھ حصہ شروع کتاب کے فصلوں میں گذر چکا ہے۔

(فصل)

تلاوت قرآن کے آداب:

تلاوت کرنے والوں کے لئے مناسب ہے کہ اس کی حالت خشوع، اور فکر و تدبر کرنے والی جیسی ہو، کیونکہ یہی مطلوب و مقصود ہے اور اسی سے شرح صدر اور دل کو نورانیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں جن کا تفصیلی ذکر ممکن نہیں۔

سلف صالحین کی ایک بڑی جماعت ایسی بھی گذری ہے جو پوری رات یا بیشتر رات ایک ہی آیت کو پڑھتے رہے اور اس کی تلاوت کے ساتھ اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے رہے، بہت سے عشی کھا کر گر گئے اور بہت سے گر کر وفات پا گئے۔

گریہ کرنا یا رونے جیسی صورت بنانا مستحب ہے، کیونکہ قراءت کے وقت گریہ و زاری عارفین کا وصف اور اللہ کے نیک و صالح بندوں کا شعار ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَيَخْرُونَ لِلذَّقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً (الاسراء: ۱۰۹)

وہ اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی و خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔

اس سلسلہ میں وارد آثار صحابہ کا بڑا حصہ میں نے ”کتاب التبیان فی آداب حملۃ القرآن“ میں جمع کر دیا ہے۔

کرامات اور مواہب و معارف کے حامل جلیل القدر بزرگ حضرت ابراہیم الخواص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”دل کا علاج یا اس کی دوا پانچ چیز ہے: تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، شکم کا خالی ہونا، قیام لیل یعنی رات میں عبادت کرنا، سحر کے وقت تضرع اور گریہ و زاری کرنا اور صالحین کی صحبت اختیار کرنا۔“

(فصل)

قرآن دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے:

حضرات علماء شوافع فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرنا زبانی تلاوت کرنے سے افضل ہے، اور سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مشہور قول بھی یہی ہے، مگر یہ مطلقاً نہیں ہے، کیونکہ تلاوت کرنے والوں کو اگر زبانی پڑھنے میں قلب و نظر کی یکسوئی اور فکر و تدبیر دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ حاصل ہوتی ہو تو زبانی ہی پڑھنا افضل ہے اور اگر یہ باتیں زبانی اور دیکھ کر پڑھنے میں یکساں ہو تو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، اور یہی سلف صالحین کے قول کا مقصود ہے (کیونکہ مقصود فکر و تدبیر اور انہماک و یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، لہذا جس طریقہ پر یہ حاصل ہو وہی افضل ہے۔)

(فصل)

آہستہ تلاوت کرنا افضل ہے یا باواز بلند؟

بعض آثار صحابہ باواز بلند تلاوت کرنے کی فضیلت میں اور بعض آہستہ تلاوت کرنے کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، اور ان متعارض آثار کے درمیان جمع و تطبیق کی شکل پیدا کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ آہستہ تلاوت ریا کاری سے بعید ہے، اس لئے جو ریا کاری کا خطرہ محسوس کرے اس کے لئے آہستہ تلاوت کرنا ہی افضل ہے اور اگر اس کا خطرہ نہ ہو تو باواز بلند کرنا افضل ہے بشرطیکہ دوسرے نمازی یا سوائے ہونے شخص کو تکلیف نہ پہنچے۔

باواز بلند تلاوت کی فضیلت کی دلیل یہ ہے کہ اس کا عمل بڑا اور اس کا نفع دوسروں تک امتدادی ہے، یہ پڑھنے والے کے قلب و جگر کو بیدار کرتا اس کے خیالات کو فکر و تدبیر میں یکجا رکھتا، اور اس کے سماع کو غور و فکر کی طرف مائل و متوجہ کرتا ہے، نیز یہ نیند کو دور کرتا، چستی و نشاط پیدا کرتا، دوسروں کو نیند و غفلت سے بیدار کرتا اور اسے نشاط بخشتا ہے۔ اس لئے اگر ان سبھوں

کی ہمہ جہت نیت و ارادہ ہو تو باواز بلند تلاوت کرنا افضل ہے ورنہ نہیں۔

(فصل)

خوش الحانی سے تلاوت کرنا:

خوش الحانی سے تلاوت کرنا یا قراءت قرآن کو آواز کے حسن سے مزین کرنا مستحب ہے بشرطیکہ درازئی حروف اور کھینچ کر ادا کرنے میں حد قراءت سے تجاوز نہ کرے، اگر اس میں اس قدر مبالغہ کرے کہ کسی حرف کا اضافہ یا حذف لازم آتا ہو تو ایسا کرنا حرام ہے۔

اور جیسا کہ ذکر کیا گیا حرام تب ہی ہے جبکہ حد سے زیادہ مبالغہ ہو، اگر اس حد تک مبالغہ نہ ہو تو حرام نہیں ہے۔ تلاوت قرآن میں آواز کو خلاوت و مٹھاس سے مزین کرنے کے سلسلے میں بکثرت مشہور احادیث کتب صحاح میں وارد ہوئی ہیں، اس کا کچھ حصہ میں نے ”آداب القراءۃ“ میں ذکر کیا ہے۔

(فصل)

تلاوت کی کیفیت:

قاری جب درمیان سورت سے قراءت شروع کرے تو مستحب ہے کہ ایسی جگہ سے شروع کرے کہ اس آیت کے کلمات ایک دوسرے سے مربوط ہوں اور جب درمیان میں ختم کرے تو ایسی ہی جگہ ختم کرے جہاں بات پوری ہو رہی ہو اور اس کا ربط ما قبل سے برقرار ہو، شروع کرنے یا ختم کرنے میں پارہ، حزب، منزل، یا رکوع وغیرہ کی کوئی قید نہیں، کیونکہ یہ علامتیں اگر بگلیوں پر درمیان کلام میں لگی ہوتی ہیں، جو ما قبل یا ما بعد سے مربوط ہوتا ہے۔

اس مقام پر ہم نے جن امور سے منع کیا ہے، اس کے برعکس بہت سے لوگوں کا اس کے برخلاف عمل کرنے اور آداب قراءت کی رعایت نہ کرنے سے انسان کو دھوکا نہیں ہونا چاہئے کہ وہی صحیح ہے، اور اسی پر عمل پیرا ہونا چاہئے۔ ہر انسان کو چاہئے کہ جلیل القدر بزرگ

ابوعلیٰ فضیل بن عیاض کے اس قول کی تعمیل کریں جس میں وہ فرماتے ہیں:

”ہدایت کے راستوں پر بہت کم لوگوں کے عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اس راہ کو تعجب سے نہ دیکھو، اور ہلاکت میں پڑھنے والوں کی کثرت سے دھوکے میں مت مبتلا ہو“

کچھ اور علماء فرماتے ہیں:

”کسی ایک سورت کا پورا پڑھنا، لمبی صورت میں سے اسی کے بقدر پڑھنے سے افضل ہے“

اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ بہت سے بلکہ اکثر لوگوں پر بسا اوقات بعض مقامات یا بعض حالتوں میں آیتوں کا ایک دوسرے سے ارتباط و تعلق پوشیدہ رہ سکتا ہے۔

(فصل)

تلاوت کی بعض بدعات:

منکر و ناپسندیدہ بدعات میں ایک وہ ہے جو بہت سے جاہل ائمہ حضرات تراویح میں کرتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ساتویں شب کی تراویح کی آخری رکعت میں پڑھتے ہیں، اور انکا اعتقاد ہوتا ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے اور یہ کہ یہ پوری سورت یکنخت نازل ہوئی ہے، یہ حضرات اپنے اس طرز عمل سے بہت سے بدعات و منکرات کو یکجا کر لیتے ہیں، مثلاً اس کے مستحب ہونے کا اعتقاد رکھنا، عوام کو اس کے مستحب ہونے کے وہم میں مبتلا کرنا، دوسری رکعت کو پہلی رکعت سے لمبی کرنا، مقتدیوں پر نماز کو بیجا طول دینا، قرآن کی تلاوت غیر معمولی روانی سے کرنا، اور اس سے پہلے کی رکعتوں کو حد سے زیادہ مختصر کرنا۔

(فصل)

سورتوں کو مختلف ناموں سے موسوم کرنے کا حکم:

سورتوں کا نام لیتے ہوئے ”سورۃ بقرۃ“ (گائے کی سورت) ”سورۃ آل عمران“ (آل عمران کی سورت) ”سورۃ نساء“ (عورتوں کی سورت) ”سورۃ عنکبوت“ (مکڑی کی

سورت) اور دیگر سورتوں کا اس طرح نام لینا جائز و درست ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ بعض سلف صالحین کا خیال ہے کہ اس طرح ان سورتوں کا نام لینا مکروہ ہے، اس کے بجائے اس طرح کہنا چاہئے:

”بقرہ والی سورت“ یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے یا وہ سورت جس میں عورتوں کا تذکرہ ہے، وغیرہ مگر صحیح پہلا قول ہے اور وہی تمام علماء اسلام اور سلف و خلف کا مذہب ہے، اور اس کے جواز پر دلالت کرنے والی بے شمار احادیث نبوی، آثار صحابہ اور اقوال تابعین موجود ہیں۔

اسی طرح ”ابو عمرو حفص“ کی قراءات“ ”ابن کثیر کی قراءت“ وغیرہ کہنا درست ہے اس میں کوئی کراہت و قباحت نہیں۔ یہی صحیح مذہب ہے جس پر سلف صالحین اور خلف امت کا بغیر کسی تکبر کے عمل رہا ہے۔ ابراہیم نخعی سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں:

”لوگ ”سنت فلاں“ (فلاں کا طریقہ) یا ”قراءت فلاں“ (فلاں کی قراءت) کہنے کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کہنا جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں درست ہے“

(فصل)

”میں قرآن بھول گیا“ کہنے کی ممانعت:

یوں کہنا کہ میں ”فلاں آیت یا فلاں سورت بھول گیا“ مکروہ ہے، اس کے بجائے اسے یوں کہنا چاہئے کہ میں نے اسے بھلا دیا، یا ہم سے بھول ہو گئی۔

۳۳۰ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن مسعودؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

”لَا يَقُولُ أَحَدٌ نَسِيتُ آيَةَ كَذَا وَ كَذَا، بَلْ هُوَ نُسِيَ“ (۱)

تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا بلکہ
اسے اس سے بھلا دیا گیا ہے۔

۳۳۱ - ایک روایت میں یہ بھی ہے:

”بِسْمِ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ اَنْ يَقُوْلُ نَسِيْتُ اَيَّةَ كَيْتٍ وَكَيْتٍ ، بَلْ
هُوَ نَسِيٌّ“ (۱)

ایسے شخص کے لئے برائی ہے جو کہے کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا،
بلکہ وہ اسے بھلا دیا گیا۔

۳۳۲ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو
قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا:

”رَحِمَهُ اللّٰهُ لَقَدْ اَذْكُرْنِي اَيَّةٌ كُنْتُ اَسْقَطُهَا“ (۲)

اللہ اس پر رحم کرے، اس نے مجھے وہ آیت یاد دلا دی جس کا مجھ سے
بھول ہو گیا تھا۔

دوسری روایت میں ”اسقطها“ کی جگہ ”كنت انسيتها“ ہے۔

(فصل)

تلاوت کے آداب:

قاری اور قراءت کے آداب کا شارکی جلدوں سے کم میں ممکن نہیں، مگر اس مختصر کتاب کے
اندر میں نے بعض اہم مقامات کی نشاندہی کی ہے، مثلاً شروع کتاب کی فصلوں میں ذاکر و قاری
کے کچھ آداب، اور نماز کے اذکار میں قراءت سے متعلق بعض آداب، اور کتاب التبیان فی آداب
حملۃ القرآن“ کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے۔ جسے مزید کی خواہش ہو اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ وبالله
التوفیق وهو حسبی ونعم الوکیل .

جس نے دس آیتوں کی تلاوت کر لی وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائیگا۔

اس باب میں اس جیسی بے شمار احادیث وارد ہوئی ہیں، اس طرح شب و روز میں مختلف سورتوں کے پڑھنے کے بارے میں بھی بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں، مثلاً سورۃ یس، تبارک الملک، واقعہ، دخان، وغیرہ۔

۳۳۵ - حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ قَرَأَ يَسَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ابْتِغَاءً وَجِهَ اللَّهُ غُفْرَانَهُ“ (۱)

جس نے اللہ کی خوشنودی کے لئے شب و روز میں سورہ یس پڑھا اس کے گناہ بخش دئے جائیں گے۔

۱/۳۳۵ - دوسری روایت میں ہے:

”مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الدُّخَانِ فِي لَيْلَةٍ أَصْبَحَ مَغْفُورًا“ (۲)

شب میں جس شخص نے سورۃ دخان پڑھ لیا اس کی صبح بخشائش کے ساتھ ہوتی ہے۔

۳۳۶ - حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا:

”مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ فِي شَحْلِ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ“ (۳)

جو شخص ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے وہ کبھی ناقص سے دوچار نہیں ہوگا۔

۳۳۷ - حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کبھی بھی رات میں ”آلہم تنزیل الكتاب“ اور ”تبارک الملک“ پڑھے بغیر نہیں سوتے۔ (۴)

۳۳۸ - حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(۱) عمل الیوم لابن سنی ۶۷۹:۹ یہ حدیث ضعیف ہے

(۲) عمل الیوم واللیلۃ لابن سنی ۶۸۴ و سنن الترمذی ۲۸۸:۲ یہ حدیث ضعیف ہے

(۳) عمل الیوم لابن سنی ۶۸۵:۹ یہ ضعیف ہے

(۴) سنن ترمذی ۲۸۹۲:۲ عمل الیوم للسنائی ۷۰۶:۲ مسند احمد ۳۳۰۶:۳ مسند دارمی ۳۵۵:۲ حاکم ۴۲۲

حمد باری تعالیٰ اور اس کا شکر بجالانے کے صریح حکم اور اس کے فضائل سے متعلق بے شمار آیت قرآنی ہے جو مشہور و معروف ہیں۔

۳۴۰ - سنن ابی داؤد، ابن ماجہ اور مسند ابی عوانہ میں تخریج مسلم حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يَبْدَأُ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ“ (۱)

ہر مہتمم بالشان امر جس کی ابتداء اللہ کے حمد سے نہ کی جائے وہ بربیدہ و ناقص ہے۔

ایک روایت میں ”بحمد اللہ“ اضافت کے ساتھ ہے۔ (۲) ایک اور روایت میں ”اللہ“ کے حذف کے ساتھ اس طرح ہے ”بالحمد فهو اقطع“ (۳) ایک اور روایت میں یہ حدیث ان الفاظ میں وارد ہوئی ہے:

”كُلُّ كَلَامٍ لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْدَمُ“

ہر وہ کلام جس کی ابتداء ”الحمد لله“ سے نہ ہو وہ ناقص ہے۔ (۴)

ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں۔

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يَبْدَأُ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَقْطَعُ“ (۵)

ہر مہتمم بالشان کام جس کے شروع میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ نہ کہا گیا ہو وہ بربیدہ و ناقص ہے۔

یہ تمام الفاظ حافظ عبد القادر الرہاوی کی کتاب ”الاربعین“ کی مرویات میں سے ہیں اور تمام احادیث حسن درجہ کی ہیں، اس کی روایت موصولاً بھی ہیں اور مرسلہ بھی۔ موصولاً روایت

(۱) سنن ابی داؤد، ۱، ۴۸۳، ۶۸۹، ۲) دیکھئے: الموارث لابن حبان ۵۷۸، عمل اليوم للسنائی ۳۹۳

(۳) دیکھئے: ابن ماجہ ۱۸۹۳، (۴) سنن ابی داؤد، ۳۸۴۰

(۵) دیکھئے: الجامع لأدب القاری والسامع للخطیب، ابجد ادوی

کی سند عمدہ ہے، اور جب کوئی حدیث موصولاً اور مرسلہ دونوں طرح سے مروی ہو تو اس پر جمہور علماء کے نزدیک موصول ہونے کا حکم لگتا ہے، کیونکہ اس میں ثقاہت و اعتماد کی زیادتی ہوتی ہے، اور وہ جمہور کے نزدیک مقبول ہے۔

”ذی بال“ کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی بات ہو جس کا اہتمام کیا جاتا اور اس پر توجہ دی جاتی ہو اور ”اقطع“ کا مفہوم ناقص اور کم ہرکت والا ہے، اور ”اجلّم“ کا معنی بھی یہی ہے یعنی ناقص۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ہر مؤلف و مصنف، طالب و مدرس، اور خطیب و مقرر کے لئے تمام اہم امور اور اپنی بات کو ”الحمد لله“ سے شروع کرنا مستحب ہے۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ تقریر اور ہر مطلوبہ امور سے پہلے حمد باری تعالیٰ، اور ثناء کرنا، اور نبی کریم ﷺ پر درود و سلام بھیجنا مجھے محبوب ہے۔

(فصل)

ہر کام کی ابتداء حمد سے کرنا چاہئے:

جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے ہر مہتمم بالشان امور کی ابتداء ”الحمد لله“ سے کرنا مستحب ہے، اسی طرح کھانے پینے سے فراغت کے وقت، چھینکتے وقت، عورت کو پیغام نکاح دیتے وقت، عقد نکاح کے وقت، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد، الحمد لله کہنا مستحب ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات ہیں جہاں الحمد لله کہنا مستحب ہے، اس کا اور اس کے جزئیات کا مدلل بیان انشاء اللہ آگے اپنی جگہ آئے گا، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کیا کہنا چاہئے؟ پہلے گذر چکا ہے۔

اسی طرح تصنیف کی جانے والی کتاب کو الحمد لله سے شروع کرنا، اور مدرس کا الحمد لله سے سبق شروع کرنا، یا طالب علم کا الحمد لله سے پڑھنے کی ابتداء کرنا، خواہ حدیث پڑھ رہا ہو یا فقہ یا کچھ اور مستحب ہے۔

حمد بیان کرنے کے لئے سب سے عمدہ عبارت ”الحمد لله رب العالمین“ ہے۔

(فصل)

حمد باری تعالیٰ خطبہ جمعہ کا رکن ہے:

خطبہ خواہ جمعہ ہو یا کسی اور کا حمد باری تعالیٰ اس کا ایک ایسا رکن ہے جس کے بغیر خطبہ درست نہیں ہوتا، اور اس واجب کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ کم از کم ”الحمد لله“ کہے، اور انفضل یہ ہے کہ حمد کے ساتھ ثناء بھی کہے، اس کی تفصیل کتب فقہ میں مفصل مذکور ہے، اور اس کے لئے شرط ہے کہ وہ عربی زبان میں ہو۔

(فصل)

دعاء کو حمد پر ختم کرنا چاہئے:

دعاء کو ”الحمد لله رب العالمین“ پر ختم کرنا اس طرح مستحب ہے جس طرح اس کی ابتداء اس سے کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یونس: ۱۰)
اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ ”تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔“

دعاء کو حمد و تجمید سے شروع کرنے کی دلیل عنقریب ”نبی کریم ﷺ پر درود بھیجنے کے باب“ میں صحیح احادیث کی روشنی میں انشاء اللہ آئے گی۔

(فصل)

حصولِ نعمت یا دفعِ مضرت پر الحمد لله کہنا:

کسی نعمت کے حصول یا کسی ناگوار بات کے ٹل جانے پر اللہ کا حمد بیان کرنا مستحب ہے،

خواہ وہ نعمت اسے حاصل ہوئی ہو یا اس کے کسی دوست یا ساتھی یا عام مسلمانوں میں سے کسی کو۔
۳۴۱ - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات آپ کو معراج کے لئے لیجایا گیا آپ کے سامنے شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اسے غور سے دیکھا پھر دودھ کا پیالہ تھام لیا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا:

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ

لَفَوَتْ أُمَّتُكَ“ (۱)

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے آپ کو فطرت کی رہنمائی کی،

اگر آپ نے شراب کا پیالہ لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔

نصوحت: صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ دونوں پیالے آپ کے سامنے ”شہریلیا“ میں پیش کئے گئے تھے (یہ شہر فلسطین میں واقع ہے اور اس وقت یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے) اس روایت میں اختیار کرنے کا حکم مخدوف ہے۔ دوسری روایتوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ پیالہ پیش کرنے کے بعد آپ سے کہا گیا ”اخْتَرِ أَيُّهُمَا شِئْتَ“ ان دونوں میں سے جسے چاہیں آپ منتخب فرمائیں۔

صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے دودھ منتخب کرنے کے لئے آپ کو الہام فرمایا، کیونکہ اللہ جل شانہ آپ کی امت کے ساتھ لطف و کرم اور توفیق و عنایت کا معاملہ کرنا چاہتے تھے۔

”هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ“ کے بجائے بعض روایتوں میں ”اصبْتَ الْفِطْرَةَ“ یعنی آپ

نے فطرت کو پالیا کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت جبریلؑ کو بتا دیا تھا کہ دودھ کا انتخاب کس بات کا پتہ دیتا اور شراب کا انتخاب کس بات کی غمازی کرتا ہے، اور فطرت سے مراد اس جگہ دین اسلام اور اس پر استقامت ہے، جیسا کہ کتاب الاشریۃ، اور باب الاسراء، کی روایتوں سے اس کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس وقت اس کا مفہوم ہوگا کہ اپنے دین

اسلام اور اس پر استقامت کو منتخب فرمایا، اور دودھ کو اسلام کی علامت کے طور پر اس وجہ سے پیش کیا گیا کہ دودھ پاک و صاف، عمدہ و سہل اور معدہ کے لئے نہایت خفیف و سرلیج الہضم ہوتا ہے اور یہی معاملہ اسلام کا بھی ہے، جبکہ شراب ساری برائیوں کی جڑ اور ہر طرح کے شرکافی الحال یا بدیہ ذریعہ ہوتا ہے، واللہ اعلم۔

(فصل)

جگر گوشے کی وفات پر صبر کے ساتھ حمد بیان کرنا:

سنن ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: قَبِضْتُمْ
وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: قَبِضْتُمْ نَمْرَةً
فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي؟
فَيَقُولُونَ حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:
ابْنُ عَبْدِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ“ (۱)

بندہ خدا کا جب کوئی بچہ وفات پاتا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، تم نے میرے بندے کے بچہ کی روح قبض کر لی؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو نے اس کے دل کا پھول توڑ لیا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں: اس نے آپ کی تعریف و حمد بیان کی اور آپ کی طرف رجوع ہوا (یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا) تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہ میرے اس بندے کے لئے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور

اس کا نام ”بیت الحمد“ رکھو۔

حمد باری تعالیٰ کے فضائل کی احادیث بے شمار و مشہور ہیں، اس میں سے چند صحیح احادیث کا تذکرہ اس کتاب کے شروع میں ”سُبَّحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ“ کے فضائل میں بیان کر چکا ہوں۔

(فصل)

حمد کے الفاظ:

خراسان کے متاخرین شوافع فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ ہمہ گیر و جامع حمد کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کریگا (بعضوں نے جامع کے بجائے حمد عظیم کا ذکر کیا ہے) تو قسم پوری کرنے کے لئے اس طرح حمد بیان کرنا ضروری ہے۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَتَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ“

اللہ کے لئے ایسا حمد ہے جو اس کی نعمتوں کے برابر اور اس کی مزید عطیوں کے مماثل ہو۔

اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مزید نعمت و احسان حاصل ہو رہا ہے انسان اس کا شکر ادا کرے۔

علماء شوافع فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ سب سے عمدہ ثناء کے ذریعہ اللہ کی ثناء کرے گا تو قسم پوری کرنے کے لئے اس طرح کہنا ضروری ہے۔

”لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِيكَ“

اے اللہ میں آپ کی ثناء اس طرح شمار نہیں کر سکتا جس طرح آپ نے اپنی ثناء کی ہے۔

بعض حضرات نے اس دعاء کے اخیر میں اس کا اضافہ بھی کیا ہے ”فَلِكِ الْحَمْدُ

حَتَّى تَرْضَى. آپ کے لئے مسلسل حمد ہے تا آنکہ آپ راضی ہو جائیں۔“

ابوسعبد متولی نے اس مسئلہ کی تصویر کشی کرتے ہوئے یوں کہا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ ”أَجَلٌ ثَنَاءٌ“ یا ”أَعْظَمُ ثَنَاءٌ“ کے ذریعہ اللہ کی حمد و ثناء کرے گا تو قسم پوری کرنے کے لئے اس طرح کہنا ضروری ہے۔

”سُبْحَانَكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ ، فَلِكَ الْحَمْدُ حَتَّى تَرْضَى“

میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں آپ کی ثناء کو اس طرح شمار نہیں کر سکتا جس طرح آپ نے اپنی ثناء کی ہے، آپ ہی کے لئے مسلسل تعریفیں ہیں، آپ کے راضی ہو جانے تک۔

۳۲۳ - ابونصر تمار محمد بن النصرؒ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدمؑ نے فرمایا:

يَا رَبِّ شَغَلْتَنِي بِكَسْبِ يَدِي فَعَلَمْنِي شَيْئًا فِيهِ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيْهِ ، يَا آدَمُ ، إِذَا أَصْبَحْتَ فَقُلْ ثَلَاثًا ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَقُلْ ثَلَاثًا [الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ] فَذَلِكَ مَجَامِعُ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ ،،

اے میرے رب تو نے مجھے ہاتھ کی کمائی میں مشغول کر دیا، تو مجھے ایسی چیز بتادے جس میں حمد و تسبیح کا مجموعہ اور نچوڑ ہو اتو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وحی کر کے فرمایا اے آدم، تم جب صبح کرو تو تین بار کہو، اور جب شام کرو تو تین بار کہو، الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ اللہ کے لئے ایسی حمد ہے جو اس کی نعمتوں کے برابر اور اس کے مزید عطیوں کے مماثل ہو، تو یہ حمد و ثناء کا مجموعہ اور نچوڑ ہوگا۔

واللہ اعلم

کتاب الصلاة علی رسول اللہ ﷺ

(رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے کا بیان)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب: ۵۶)

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے

ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجئے رہو۔

رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے کے حکم اور اس کے فضائل کے بارے میں بے شمار احادیث

ہیں، یہاں ہم اس کا ایک معمولی حصہ بطور تبرک ذکر کر رہے ہیں، تاکہ باقی ماندہ کی طرف
رہنمائی ہو جائے اور یہ کتاب اس برکت سے عاری نہ رہے۔

۳۳۳ - صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول
اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا:

”مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا“ (۱)

جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر دس بار رحمت نازل
فرماتے ہیں۔

۳۳۵ - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا“ (۲)

جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر دس بار رحمت نازل

فرماتے ہیں۔

۳۳۶ - ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً“ (۱)

قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے افضل و مقرب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہوگا۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عبدالرحمن بن عوف، عامر بن ربیعہ،

عمار بن یاسر، ابوطالب، انس بن مالک، ابی بن کعب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات بھی ہیں۔

۳۳۷ - سنن ابی داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں بسند صحیح حضرت اوس بن اوسؓ سے مروی ہے، وہ

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَكَثِّرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ،“

تمہارے ایام میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، لہذا اس دن

مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش

کیا جاتا ہے۔

صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ رسول کس طرح ہمارے درود آپ کے سامنے پیش کئے

جائیں گے، جبکہ آپ قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کہتا ہے بوسیدہ

ہو چکے ہوں گے پھر فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَنْجَسَادِ الْأَنْبِيَاءِ“ (۲)

اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسم کو حرام کر رکھا ہے۔ (یعنی مٹی انبیاء کے

جسم کو نہیں کھا سکتی، ان کا جسم مٹی کے اندر اس کے تصرف سے محفوظ

رہتا ہے)

(۱) سنن ترمذی: ۲۸۴، وقال الترمذی: حدیث حسن (۲) ابوداؤد: ۱۰۳۷، نسائی: ۱۳۷۷، ابن ماجہ: ۱۰۸۵-۱۶۳۶

۳۳۸ - سنن ابی داؤد میں کتاب الحج کے اخیر ”باب زیارة القبور“ میں بسند صحیح حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ“ (۱)

میری قبر کو میلے کی جگہ (مقام عرس) مت بناؤ البتہ مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ کو پہنچ جاتا ہے۔

۳۳۹ - ابوداؤد ہی میں بسند صحیح حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ الْآرِدَ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى آرِدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ“ (۲)

جب بھی کوئی شخص مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ میری روح کو جسم میں واپس لوٹا دیتا ہے تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں۔

(اور سارے عالم میں شاید ایک سکنڈ بھی ایسا نہ گذرتا ہو کہ آپ پر درود نہ بھیجا جاتا ہو)

اس لئے آپ اپنے روضہ میں باحیات ہیں)

(باب-۱)

جس شخص کے پاس نبی کریم ﷺ کا ذکر آئے اسے درود بھیجنے کی تاکید:

۳۵۰ - ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ“ (۳)

ایسا شخص ذلیل و خوار ہو جس کے پاس میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔

(۲) ابوداؤد: ۲۰۳۱

(۱) ابوداؤد: ۲۰۳۳

(۳) سنن ترمذی: ۳۵۲۵ و قال الترمذی: حدیث حسن

۳۵۱ - ابن سنی کی کتاب میں بسند جید حضرت انسؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ ذَكَرْتُ عَنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ عَشْرًا، (۱)

جس کے پاس میرا ذکر آئے وہ مجھ پر ضرور درود بھیجے، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر دس بار رحمت نازل فرمائیں گے۔

۳۵۲ - اسی کتاب میں بسند ضعیف حضرت جابرؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ ذَكَرْتُ عَنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَقَدْ شَقِيَّ، (۲)

جسکے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، تو اس نے بدبختی کی۔

۳۵۳ - ترمذی میں حضرت علیؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”الْبَخِيلُ مَنْ ذَكَرْتُ عَنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ“ (۳)

ایسا شخص بخیل ہے جسکے پاس میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے،

یہ روایت نسائی میں حضرت حسن بن علیؓ سے بھی مروی ہے، امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل علم سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص مجلس میں ایک بار نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے تو یہ اس مجلس کی لغزشوں کی طرف سے کافی ہے۔

(باب-۲)

رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے کا طریقہ:

رسول اللہ ﷺ پر درود بھیجنے کا طریقہ اور اس سے مربوط کچھ باتیں، اور اس کا اقل ترین

(۱) عمل الیوم لابن سنی ۳۸۶ و عمل الیوم للنسائی ۶۱ (۲) ابن سنی ۳۸۳

(۳) سنن ترمذی ۳۵۳۶ و قال الترمذی: حدیث حسن صحیح

درجہ، اذکار نماز کے بیان میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

بعض علماء شوافع، اور مالکیہ میں ابن ابی زید مالکی نے جو درود کے کلمات میں ”وَأَرْحَمَ مُحَمَّدًا وَأَالَ مُحَمَّدًا“ کے اضافہ کو مستحب قرار دیا ہے، بالکل بے اصل اور بدعت ہے، امام ابو بکر ابن عربی مالکی نے اپنی کتاب شرح ترمذی میں شدت سے اس کی تردید کی ہے، اور ابن ابی زید کو خطا کار قرار دیکر ایسا کرنے والوں کو جاہل قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

”کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اوپر درود بھیجنے کا طریقہ ہمیں تفصیل سے بتا دیا ہے، اس پر اپنی طرف سے زیادتی نبی کریم ﷺ کے قول میں نقص اور ہماری طرف سے اس کی ٹکی پابجائی کے مترادف ہے،“

وبالله التوفیق۔

نبی کریم ﷺ پر جب درود بھیجے تو درود و سلام (صلاة سلام) دونوں کو جمع کرے نہ صرف ”صلی اللہ علیہ“ کہے اور نہ صرف ”علیہ السلام“ بلکہ ”صلی اللہ وسلم علیہ“ کہے۔

(فصل)

بآواز بلند درود و سلام پڑھنا:

حدیث وغیرہ پڑھنے والوں کے لئے مستحب ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کا ذکر آئے تو بآواز بلند درود و سلام پڑھے، مگر آواز بلند کرنے میں حد سے زیادہبالغہ نہ کرے۔ درود و سلام میں آواز بلند کرنے کی صراحت خطیب بغدادی اور دیگر محدثین نے کی ہے، میں نے اس کا تذکر علم حدیث کے بیان اور اس کے ضمن میں کیا ہے۔ علماء شوافع و دیگر علماء نے اس کی بھی صراحت کی ہے کہ تلبیہ اور جواب کے وقت بھی درود و سلام کو بآواز بلند کہا جائے۔

(باب-۳)

دعاء کی ابتداء اللہ کے حمد اور درود و سلام سے کرنی چاہئے:

۳۵۴ - سنن ابی داؤد، ترمذی و نسائی میں حضرت فضالہ بن عبیدہ سے مروی ہے وہ فرماتے

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو نماز میں دعاء کرتے سنا، جس نے نہ اللہ کی تمجید (بزرگی و عظمت) بیان کی اور نہ ہی رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجا، تو آپ ﷺ نے فرمایا ”عجل لذلک“ اس نے جلدی کی۔ پھر اسی کو یا کسی اور کو بلا کر فرمایا:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمَجِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ ، وَالشَّاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ۔ (۱)

جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہئے کہ اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی تمجید و تعظیم اور اس کی حمد و ثناء سے شروع کرے پھر نبی ﷺ پر درود بھیجے، پھر جو چاہے دعاء کرے۔

۳۵۵- ترمذی میں حضرت عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دعاء آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اور جب تک اپنے نبی پر درود نہ بھیجا جائے اوپر نہیں جاتی ہے۔ (۲)

(امام نووی فرماتے ہیں) میری رائے میں تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ دعاء کی ابتداء و اختتام باری تعالیٰ کے حمد و ثناء اور رسول اللہ ﷺ پر صلاۃ و سلام کے ساتھ کرنا مستحب ہے۔ اس باب میں بے شمار آثار صحابہ منقول ہیں، اور وہ مشہور و معروف ہیں۔

(باب-۳)

تمام انبیاء علیہم السلام اور ان کے آل و اتباع پر درود بھیجنا:

ہمارے آقا محمد ﷺ پر درود بھیجنے کے بارے میں تمام امت کا اجماع ہے، اسی طرح قابل لحاظ معتبر اہل علم کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ تمام انبیاء اور فرشتوں پر انفرادی طور پر بھی درود و سلام بھیجنا درست ہے، البتہ غیر انبیاء پر درود و سلام بھیجنا درست ہے یا نہیں؟ تو جمہور کی

(۱) سنن ابی داؤد ۱۲۸۱ سنن ترمذی ۳۲۸۶ سنن نسائی ۱۲۸۳ و قال الترمذی: حسن صحیح

(۲) سنن ترمذی ۳۲۸۶ موقوف علی عمرونی سندہ مقال

رائے میں درست نہیں ہے، اس لئے مثال کے طور پر ابو بکر علیہ الصلاۃ والسلام کہنا جائز نہیں، پھر اس ممانعت کی نوعیت کیا ہے؟ بعض علماء شوافع کی رائے میں یہ حرام ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک مکروہ تنزیہی ہے اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خلاف اولیٰ ہے مکروہ نہیں۔

مگر صحیح قول جو اکثر علماء کی رائے ہے، یہ ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ غیر انبیاء پر درود و سلام بھیجنا اہل بدعت کا شعار ہے، اور ہمیں ان کے شعار سے منع کیا گیا ہے، اور مکروہ وہی ہوتا جس کے بارے میں کوئی بالقصد نبی یا ممانعت آئی ہو۔

ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اس مسئلہ میں قابل اعتماد بات یہ ہے کہ سلف صالحین کی زبانوں میں صلاۃ و سلام کا لفظ انبیاء علیہم السلام کے لئے مخصوص ہو گیا ہے، جس طرح کے ”عز و جل“ کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے مخصوص ہو گیا ہے، تو جس طرح ”مجد عز و جل“ نہیں کہہ سکتے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز بھی ہیں اور جلیل بھی (جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ، حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ ، بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ) اسی طرح ابو بکر یا علی علیہ الصلاۃ والسلام بھی نہیں کہہ سکتے، حالانکہ اس کا مطلب و مفہوم درست ہے۔

پھر علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ضمن و جمعیت میں ان پر درود و سلام بھیجنا جائز و درست ہے، لہذا اس طرح کہنا درست ہے، اللہم صل علی محمد و علی آل محمد و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و اتباعہ“ (اے اللہ تو صلاۃ یعنی رحمت نازل فرما محمد پر ان کے آل پر، ان کے تمام صحابہ پر، ان کے تمام ازواج مطہرات پر ان کی ذریت پر، اور ان کے تابعین و پیروکار پر) کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، اور تشہد میں اسی طرح پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور خارج نماز بھی تمام سلف صالحین اسی طرح کہتے چلے آ رہے ہیں۔

رہی بات سلام کی تو علماء شوافع میں ابو محمد الجونی فرماتے ہیں کہ ”سلام کا لفظ صلاۃ ہی کی طرح ہے، لہذا افرادی طور پر غیر انبیاء کے لئے غائبانہ سلام پڑھنا جائز نہیں، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ، مثلاً علی علیہ السلام کہنا جائز نہیں، ہاں اگر سامنے موجود ہو تو سلام کے ذریعہ اسے مخاطب کیا

جاسکتا ہے، مثلاً کہیں گے، سلامٌ علیک یا سلامٌ علیکم یا السلام علیک یا السلام علیکم اور اس کی صحت پر سب کا اجماع و اتفاق ہے۔ اس کی مزید وضاحت انشاء اللہ آگے اپنے مقام پر آئے گی۔

(فصل)

صحابہ کو ”رضی اللہ عنہ“ اور تابعین وغیرہم کو ”رحمہ اللہ“ کہنا :

توضیح و ترجمہ یعنی ”رضی اللہ عنہ“ اور ”رحمہ اللہ“ کہنا صحابہ، تابعین، علماء، صلحاء، اور تمام بزرگان دین کے لئے کہنا مناسب ہے، لہذا ان کے ذکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ، یا رحمۃ اللہ علیہ، یا اس کے مشابہ الفاظ کہنا بہتر ہے۔

بعض حضرات کا یہ قول ہے کہ ”رضی اللہ عنہ“ صحابہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور دوسروں کے لئے جائز نہیں، دوسروں کے لئے صرف ”رحمہ اللہ“ کہنا چاہئے، غلط اور ناقابل قبول بات ہے، اس سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا، بلکہ صحیح قول جو کہ جمہور کا مسلک ہے یہ ہے کہ سب کے لئے یہ کہنا مستحب و جائز ہے، اور اس کے دلائل بے شمار ہیں۔

اگر کسی ایسے صحابی کا ذکر ہو جن کے والد بھی صحابی ہوں تو رضی اللہ عنہما کہنا چاہئے جیسے قال ابن عمرؓ، قال ابن عباسؓ، قال ابن الزبیر، قال ابن جعفر، قال اسامہ بن زید، قالت عائشہ بنت ابی بکرؓ وغیرہ۔

(فصل)

حضرت مریم و لقمان کے لئے صلا و سلام پڑھنے کا حکم :

اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت لقمان یا حضرت مریم کا اگر ذکر آئے تو اس وقت ان پر انبیاء کی طرح صلا و سلام بھیجا جائے یا صحابہ و اولیا کی طرح رضی اللہ عنہ، یا رضی اللہ عنہا، کہا جائے؟ یا صرف سلام بھیجتے ہوئے علیہ السلام یا علیہا السلام کہا جائے؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک یہ دونوں نبی نہیں ہیں، اگرچہ بعض غیر

معروف علماء نے انہیں نبی شمار کیا ہے، جو ناقابل التفات و توجہ ہے، اور اس کی تفصیل میں نے کتاب ”تہذیب الاسماء واللغات“ میں ذکر کر دی ہے۔

تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ نبی نہیں ہیں تو بعض علماء کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذکر کے ساتھ یوں کہنا چاہئے ”صلی اللہ علی الانبیاء وعلیہ وسلم“ (اگر حضرت لقمان کا ذکر ہو) اور ”صلی اللہ علی الانبیاء وعلیہا وسلم“ (اگر حضرت مریم کا ذکر ہو) کیونکہ اس طرح ان کا مقام اس سے اونچا ہو جائیگا جنہیں رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن میں ان کے ذکر نے ان کے مقام کو بلندی عطا کر دیا ہے۔

اور میری رائے میں اس کے اندر کوئی مضائقہ یا حرج نہیں مگر بہتر و راجح یہ ہے کہ ”رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا کہا جائے کیونکہ غیر انبیاء کا یہی رتبہ و مقام ہے، اور ان کا نبی ہونا ثابت نہیں، امام الحرمین نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ حضرت مریم نبی نہیں تھیں، جیسا کہ ”الارشاد“ میں مذکور ہے۔

اور اگر حضرت لقمان کو علیہ السلام یا حضرت مریم کو علیہا السلام کہا جائے تو بظاہر اس میں کوئی حرج بھی نہیں، واللہ اعلم۔

کتاب الاذکار والذوات للامور العارضات :

(پیش آمدہ حالات کی دعاؤں کا بیان)

پچھلے ابواب میں جن اذکار و دعاؤں کا ذکر ہوا اس کا اعادہ بیان کردہ طریقہ پر ہر روز صبح و شام ہوتا رہتا ہے، مگر یہاں جن دعاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا اہتمام مخصوص وقت اور حالات میں کسی ناگہانی صورتحال کے پیدا ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس میں ترتیب کی رعایت ضروری نہیں۔

(باب -۱)

دعاء استخارہ :

۳۵۶ - صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر معاملہ میں قرآن کی سورتوں کی طرح ہمیں استخارہ سکھاتے تھے، آپ ﷺ فرماتے تھے :
 إِذَا بَهِمَ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَسْرُكْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ لِيَقُلْ ” جب تمہیں کوئی معاملہ پیش آئے تو فرض کے علاوہ دو رکعت نماز پڑھو پھر کہو“ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ،
 وَاسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ، فَاِنَّكَ تَعْلَمُ وَاَنَا لَا اَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَاَنَا اَعْلَمُ ، وَانْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ، اَللّٰهُمَّ اِنْ
 كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَمَعَالِيْ
 وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ ، اَوْ قَالَ : عَاجِلِ اَمْرِيْ وَاجِلِهٖ ، فَاقْدُرْهُ لِيْ
 وَيَسِّرْهُ لِيْ ، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ ، وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا
 الْاَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ اَوْ قَالَ :

عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ
كَانَ ، ثُمَّ رَضِنِي بِهِ،، [

اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعہ تجھ سے بہتری طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعہ قدرت طلب کرتا ہوں، اور تیرے عظیم فضل و انعام کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس لئے کہ تو قدرت رکھتا ہے، اور میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اے اللہ، اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے (یا یہ کہا) یا میری دنیوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے تو تو اس کو میرے لئے مقدر فرما دے اور آسان کر دے پھر اس میں میرے لئے برکت عطا فرما، اور اگر تجھے معلوم ہے کہ یہ کام میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اور انجام کار کے اعتبار سے یا (یہ کہا کہ) میری دنیوی زندگی کے اعتبار سے اور اخروی زندگی کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر نہیں تو تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور جہاں بھی میرے لئے بہتری ہو اسے مجھے نصیب فرما دے، پھر اس سے میرے اندر رضاء مندی پیدا فرما دے۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی ضرورت کا تذکرہ کرے ”قال: ویسئمی حاجتہ“ (۱) علماء فرماتے ہیں کہ ”استخارہ“ مذکورہ دعاء اور نماز کے ساتھ مستحب ہے، اور نماز دو رکعت نفل ہونی چاہئے، دو رکعت نماز اگر سنت موکدہ یا تحسینۃ المسجد یا اور نوافل ہے تو بھی بظاہر

یہ استحباب حاصل ہو جائے گا۔

پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ”قل یا ایہا الکافرون“ اور دوسری رکعت میں ”قل هو اللہ احد“ پڑھنا چاہئے۔

اگر نماز پڑھنا دشوار ہو تو صرف دعاء کے ذریعہ استخارہ کرے، مذکورہ دعاء کو حمد باری تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام کے ذریعہ شروع کرے اور اسی پر ختم کرے۔ جیسا کہ اس حدیث میں بصراحت مذکور ہے کہ استخارہ تمام امور و معاملات میں مستحب ہے، اور استخارہ کے بعد جس جانب شرح صدر ہو اسی پر عمل کرے، واللہ اعلم۔

۳۵۷۔ ترمذی میں ایک ایسی سند ہے جس کی خود امام ترمذی نے اور دوسرے محدثین نے بھی تضعیف کی ہے، حضرت ابو بکرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے تو فرماتے:

”اللَّهُمَّ خَيْرِي وَاخْتَرِي“ (۱)

اے اللہ تو میرے معاملہ کو خیر بنا اور بہتر کا انتخاب فرما۔

۳۵۸۔ ابن سنی کی کتاب میں حضرت انسؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”يَا اَنَسُ: اِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتِخِرِي خَيْرَ رَبِّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَاتٍ

ثُمَّ انْظُرِي اِلَى الَّذِي سَبَقَ اِلَى قَلْبِكَ، فَاِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ“ (۲)

اے انس جب تمہیں کسی چیز کے کرنے کی فکر ہو تو اس میں اپنے رب سے سات بار استخارہ کرو (طلب خیر کرو) پھر دیکھو کہ دل میں

کون سا پہلو پہلے آیا ہے، جو پہلے آئے اسی میں خیر ہے۔

(۱) سنن ترمذی ۲۵۱۶

(۲) عمل الیوم واللیلہ لابن سنی ۶۰۳ سنن غریب

(باب-۲)

مصائب و آلام اور کرب و پریشانی کے وقت کی دعائیں:

۳۵۹ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کرب و پریشانی کے وقت کہا کرتے تھے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ“ (۱)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظمت والا اور نہایت بردبار ہے
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں جو آسمانوں کا رب ہے، اور زمین کا رب اور عرش کریم کا
رب ہے۔

۱۳۵۹ - مسلم کی ایک روایت میں اس طرح ہے:

”أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ قَالَ ذَلِكَ“ (۱)

کہ نبی کریم ﷺ پر جب کوئی ناگہانی بات پیش آتی یا غم لاحق ہوتا تو یہ
کہتے۔

۳۶۰ - ترمذی میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی پریشانی یا غم
لاحق ہوتا تو آپ ﷺ فرماتے:

”يَا حَسْبِيَ يَا قِيَوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَمِيْتُ“ (۲)

(۱) بخاری ۶۳۳۵ صحیح مسلم ۲۷۳۰

(۲) سنن ترمذی ۳۵۲۳ وقال الحاكم ۵۰۹۱ مہذا حدیث صحیح الا سناد

اے وحی قیوم (ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے)
میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔

۳۶۱ - سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی معاملہ
عملگین کرتا تو آپ ﷺ اپنا سر آسمان کی طرف بلند کرتے اور فرماتے:

”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“

ہم پا کی بیان کرتے ہیں اللہ کی جو بڑا عظمت والا ہے۔

اور جب دعاؤں میں غرق ہوتے تو فرماتے:

”یا حسی یا قیوم“ (۱)

اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے۔

۳۶۲ - صحیح مسلم و بخاری میں حضرت انسؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی
بیشتر دعاء اس طرح ہوتی تھی:

”اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ“

اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی
عطا فرما، اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچالے۔

امام مسلم نے اپنی روایت میں اس اضافے کا بھی ذکر کیا ہے ”وكان انس اذا اراد
ان يدعوا بدعوة دعابها“ حضرت انس جب کوئی دعاء کرنا چاہتے تو اس کے ذریعہ دعاء
فرماتے، لہذا جب کوئی انسان کسی طرح کی کوئی دعاء کرنا چاہے تو بہتر ہے کہ پہلے یہ دعاء
کرے۔ (۲)

۳۶۳ - نسائی و ابن سنی کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن جعفر حضرت علیؓ سے روایت کرتے

(۱) سنن ترمذی ۳۳۶۳ و قال الترمذی: حدیث حسن غریب

(۲) بخاری ۶۳۸۹ مسلم ۲۶۹۰

ہیں کہ حضرت علیؑ نے فرمایا:

”رسول اللہ ﷺ نے مجھے ان کلمات کی تلقین کی اور مجھے حکم دیا کہ جب کوئی مصیبت یا غم و پریشانی لاحق ہو تو میں یہ دعا کیا کروں۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْعَظِيمُ ، سُبْحَانَكَ ، تَبَارَكَ اللَّهُ

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ (۱)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا کرم کرنے والا اور بڑا عظمت والا ہے،

اس کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جو عرش عظیم کا

رب ہے، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔

حضرت عبداللہ بن جعفر اپنی اولاد کو اس کی تلقین کرتے اور بخار میں مبتلا شخص کو یہ پڑھ

کردم کیا کرتے، اور صاحبزادیوں میں جن کی شادی خاندان سے باہر اجنبیوں میں ہوتی انہیں

یہ سکھایا کرتے تھے۔

۳۶۳ - سنن ابی داؤد میں حضرت ابوبکرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”دَعَاَاتِ الْمَكْرُوبِ“ یعنی مصائب و آلام اور غم و اندوہ میں مبتلا شخص کی دعا یہ ہے:

”اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَآ تَكْلِبْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

وَاصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ ، لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ“ (۲)

اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، تو مجھے میرے نفس کے

حوالے پلک جھپکنے کے بقدر ایک لمحہ کے لئے بھی مت فرما، اور میرے

تمام امور و معاملات کو درست فرما دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

۳۶۵ - سنن ابی داؤد و ابن ماجہ میں حضرت اسماء بنت عمیسؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ

رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

(۱) عمل الیوم للنساء ۶۱۳ عمل الیوم لابن سنی ۱۳۳۳ موار و دلائل جان ۲۳۷ الحکم ۵۰۸ صحیح علی شرط مسلم

(۲) ابوداؤد ۵۰۹ حدیث حسن

”أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهِنَّ عِنْدَ الْكُرْبِ - أَوْ فِي الْكُرْبِ“

کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جسے تو مصیبت و بے چینی کے وقت، یا مصائب و آلام میں کہا کرو؟
یعنی میں تمہیں ان حالات میں کہنے کے لئے وہ کلمات بتا رہا ہوں، کہو:
”اللَّهُ، اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا“ (۱)
اے اللہ، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اسکے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔

۳۶۶ - اسی میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا:

”إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فُرِّجَ عَنْهُ، كَلِمَةٌ أَحْسَى يُونُسَ، فَنَادَى، فِي الظُّلُمَاتِ: أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ (۲)

میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جب بھی اسے کوئی مصیبت زدہ کہتا ہے، تو اس کی مصیبت و بے چینی دور کر دی جاتی ہے، اور وہ میرے بھائی یونسؑ کا کلمہ ہے، جبکہ انہوں نے تاریکیوں (مچھلی کے پیٹ میں) کہا کہ لا الہ الا انت الخ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا۔

امام ترمذی نے حضرت سعد سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

دَعْوَةٌ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحَوَى [لَا

(۱) سنن ابی داؤد ۱۵۳۵، ابن ماجہ ۳۸۸۲، قال الحافظ: حدیث حسن

(۲) عمل الیوم لابن سنی ۳۳۵ حدیث غریب

إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ [لَمْ
يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ ، ،
ذوالنون۔ علیہ السلام کی دعاء جس کے ذریعہ انہوں نے اپنے رب
سے اس وقت دعاء مانگا جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ (یہ تھی)
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْخِجْبُ كَبَّهِيَ بَعْضُ كَوْنِي مُسْلِمًا كَسَى حَاجَتِ كَلِّ لِي
اس کی دعاء کرتا ہے تو اس کی دعاء ضرور قبول کی جاتی ہے۔ (۱)

(باب-۳)

خوف یا گھبراہٹ کے وقت کی دعاء:

۳۶۸ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت ثوبانؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کسی چیز
سے پریشانی ہوتی تو فرماتے:

”هُوَ اللَّهُ ، اللَّهُ رَبِّي ، لَا شَرِيكَ لَهُ“ (۲)

وہی اللہ ہے، اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔

۳۶۹ - سنن ابی داؤد و ترمذی میں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مروی ہے کہ رسول اللہ
ﷺ خوف و گھبراہٹ سے تحفظ کے لئے انہیں کلمات سکھاتے:

”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ
هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَنْ يَحْضُرُون“

میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ لیتا ہوں اللہ کے غضب، اس کے
بندوں کے شر اور شیاطین کے وساوس و خطرات اور اس کی آمد سے۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے صاحبزادگان میں سے جو بڑے و ذی شعور ہوتے
انہیں یہ کلمات یاد کرا دیتے تھے۔ (۳)

(۱) سنن ترمذی ۳۵۰۵ حدیث حسن (۲) عمل الیوم لابن سنی ۳۲۷ عمل الیوم للنسائی ۶۵۷ حدیث حسن

(۳) سنن ابی داؤد ۳۸۹۳ سنن ترمذی ۳۵۲۸ وقال الترمذی: حدیث حسن

(باب ۴)

حزن و ملال اور غم و اندوہ کے وقت کی دعاء:

۳۷۰- ابن سنی کی کتاب میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حُزْنٌ فَلْيَدْعُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ ، يَقُولُ :

[أَنَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ فِي قَبْضَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ ، أَسْأَلُكَ كُلَّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ نُورًا صَدْرِي ، وَرَبِيعَ قَلْبِي ، وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذِهَابَ هَمِّي]
جسے کوئی غم یا ملال لاحق ہو تو وہ ان کلمات کے ذریعہ دعاء کرے

وہ کہے: میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے ہی بندے اور تیری ہی بندی کا بیٹا ہوں (میرے ماں باپ بھی تیرے بندے ہیں) تیری ہی مٹھی میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ (قبضہ) میں ہے (میرا وجود تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے) تیرا حکم میرے حق میں نافذ ہے، تیرا فیصلہ میرے حق میں مبنی بر انصاف ہے، میں تیرے ہر اس نام کے توسل سے جو تیرا معروف ہے، جس کے ذریعہ تو نے اپنا نام رکھا ہے، یا اس کو اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا تو نے اس کو علم غیب کے خزانہ میں اپنے پاس ہی محفوظ رکھا ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے سینے کا نور میرے دل کا بہار اور میرے غم

کے ازالہ اور پریشانی کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔

قوم کے ایک شخص نے عرض کیا ”إِن الْمَغْبُونِ مِّنْ غِبْنِ هَوْلَاءِ الْكَلِمَاتِ“ وہ گھائٹے میں ہے جو ان کلمات کا نقصان کرے، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

أَجَلٌ فَاقْسُوا لَهُمْ وَعَلِّمُوهُمْ ، فَإِنَّهُ مَن قَالَهُنَّ التَّمَّاسَ مَا فِيهِنَّ أَذْهَبَ اللَّهُ تَعَالَى حُزْنَہُ وَأَطَالَ فَرَحَہُ“ (۱)

بے شک، لہذا یہ کلمات خود بھی کہو، اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ یہ کلمات جن باتوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے اس کی طلب و خواہش اور تڑپ لئے ہوئے جو بھی اسے کہے گا، اللہ اس کے حزن و ملال کو دور فرمادیں گے اور اس کی خوشی دراز کر دیں گے۔

(باب-۵)

بتاہ کن مصیبت میں گرفتار ہونے کے وقت کی دعاء:

۳۷۱ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت علیؑ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”يَا عَلِيُّ ، أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا وَقَعَتْ فِي وَرْطَةٍ قُلْتَهَا“ اے علی کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں کہ جب تم کسی الجھن یا تباہ کن مشکلات میں گرفتار ہو تو اسے کہا کرو، حضرت علیؑ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا بے شک ضرور بتادیں، اللہ مجھے آپ کا جانثار بنائے، تو آپ نے فرمایا: ”إِذَا وَقَعَتْ فِي وَرْطَةٍ فَقُلْ : جب تم کسی الجھن و پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ تو کہو:

[بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“]

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کوئی

(۱) عمل الیوم لابن سنی ۳۳۱ یہ ضعیف ہے مگر اسکے بعد نمبر ۳۳۲ و ۳۳۳ والی اسی جیسی حدیث حسن ہے

بھی طاقت اور کوئی بھی قوت اللہ کے بغیر میسر نہیں جو بلند و برتر اور بڑا ہی عظمت والا ہے۔

”فَإِنَّ اللَّهَ يَصْرِفُ بِهَا مَا شَاءَ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ“ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مختلف آفتوں میں سے جسے چاہیں دور کر دیتے ہیں۔

(باب-۶)

کسی قوم سے خوف کے وقت کی دعاء:

۳۷۲ - سنن ابی داؤد و نسائی میں بسند صحیح حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کو جب کسی قوم سے خطرہ ہوتا تو آپ فرماتے:

”اللَّهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ“ (۱)

اے اللہ میں تجھے ان کے مد مقابل بناتا ہوں اور ان کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔

(باب-۷)

حاکموں سے خوف کے وقت کی دعاء:

۳۷۳ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا خِفْتَ سُلْطَانًا أَوْ غَيْرَهُ فَقُلْ: اَللّٰهُمَّ اِنَّا جَعَلْنَاكَ فِيْ سُلْطَانِهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهَا“
 ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْحَكِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ“

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی حکمت والا ہے، اللہ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں جو ساتوں آسمان کا پروردگار اور عرش عظیم کا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری پناہ مضبوط، اور تیری حمد و ثناء عظیم ہے۔ (۱)

(باب-۸)

دشمن کا سامنا ہونے کے وقت کی دُعاء:

۳۷۴- ابن سنی کی کتاب میں حضرت انسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، جب آپ کا دشمن سے آمناسا منا ہوا تو آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا: ”يَا مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ، اِيَّاكَ اَعْبُدُ وَاِيَّاكَ اَسْتَعِينُ“
اے یوم قیامت کے مالک میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔

تو ہم نے لوگوں کو پچھرتے (شکست کھاتے) ہوئے دیکھا ملا نکلہ ان پر آگے اور پیچھے سے ضربیں لگا رہے تھے۔ (۲)

اس وقت وہ دعاء بھی مستحب ہے جو پچھلے باب میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث میں گذری یعنی اللَّهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

(باب-۹)

شیطان کے پیش آنے یا اس سے خوف کے وقت کی دُعاء:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاَمَّا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعًا فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ“
(اعراف: ۲۰۰)

اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، بلاشبہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔

نیز فرمانِ الہی ہے:

”وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، (الاسراء- بنی اسرائیل: ۴۵)

تو جب قرآن پڑھتا ہے، ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔

اس لئے مناسب ہے کہ پہلے تعوذ پڑھے پھر جس قدر آسانی سے قرآن پڑھ سکتا ہو قرآن پڑھے۔

۳۷۵ - صحیح مسلم میں حضرت ابو برداءؓ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو ہم نے انہیں یہ کہتے سوئے سنا: ”أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ“ میں تجھ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، پھر آپ نے یہ تین بار فرمایا: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ“ میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔

اور آپ نے ایک ہاتھ اس طرح بڑھایا جیسے کوئی چیز لیتا ہو، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو پہلے کبھی نہیں سنا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ بھی بڑھایا، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشَهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ، أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ فَاسْتَأْخَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أَخُذَهُ، وَاللَّهِ لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سَلِيمَانَ لَأَصْبَحَ مُؤْتَقًا تَلْعَبُ بِهِ وَلِدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، (۱)

دشمن خدا بلیس آگ کا ایک دکھتا ہوا ٹکڑا میرے چہرے پر ڈالنے کے لئے لیکر آیا، تو میں نے تین بار ”اعوذ باللہ منک“ کہا (میں تجھ سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں) پھر میں نے ”الْعَنُكَ بِلُغْنَةِ اللّٰهِ السَّامَةِ“ میں تجھ پر اللہ کی مکمل لعنت بھیجتا ہوں، کہا تو وہ تین بار پیچھے ہٹا، پھر میں نے اسے پکڑنا چاہا، بخدا اگر میرے بھائی سلیمان (علیہ السلام) کی دعاء نہ ہوتی تو وہ صبح میں بندھا ہوا ملتا، اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے ہوتے۔

میرا خیال ہے کہ ان حالات میں اذان دینا بھی مناسب ہے۔

نوٹ: ”بخدا اگر سلیمان کی دعاء نہ ہوتی“ اس عبارت سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی خبر دیتے ہوئے اس کی صداقت، اور اوصاف یا اس کی عظمت اور مہتم بالشان ہونے کے اظہار کے لئے قسم کھانا جائز و درست ہے، بے شمار احادیث میں اس طرح قسم کھانا ثابت ہے، خود اللہ تعالیٰ نے، سخی، عصر، لیل، شمس، قمر، فجر وغیرہ کی قسم کھائی ہے۔

حضرت سلیمان کی دعاء کا ذکر قرآن میں یوں آیا ہے: ”زَبَّ هَبْ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي“ (اے میرے رب مجھے ایسی حکومت عطاء فرما جو میرے بعد کسی اور کے لئے مناسب نہ ہو) اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنوں پر حکومت یا اسے گرفتار کرنا حضرت سلیمان کی خصوصیت تھی، اسی وجہ سے آپ ﷺ نے اسے گرفتار کر کے باندھنے سے احتراز کیا، کیونکہ حضرت سلیمان کی دعاء کے یاد آنے کے بعد آپ کو خیال ہوا کہ یا تو آپ ایسا کر نہیں سکتے، یا آپ نے بطور تواضع و ادب ایسا نہیں کرنا چاہا۔

۳۷۶ - صحیح مسلم میں حضرت اہل بن ابی صالح سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کے پاس بھیجا، میرے ساتھ ایک لڑکا یا ہمسفر بھی تھا، کسی آواز لگانے والے نے دیوار کے پیچھے سے اس کا نام لیکر پکارا، میرے ساتھی نے دیوار پر چڑھ کر اسے جھانکا تو کوئی بھی نہیں تھا، میں نے اس واقعہ کا ذکر اپنے والد سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے احساس

ہوتا کہ تمہارے ساتھ یہ پیش آئے گا تو میں تمہیں نہیں بھیجتا، لیکن اگر کوئی آواز سنو تو نماز کے لئے اذان دو (یعنی جس طرح نماز کے لئے اذان دی جاتی ہے اسی طرح اذان دینے لگو) کیونکہ میں نے ابو ہریرہؓ کو رسول اللہ ﷺ کے حوالہ سے یہ بیان کرتے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ“

جب نماز کیلئے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ (۱) ”ولی ولہ حصاص“ وہ ریاح خارج کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔

(باب-۱۰)

کسی چیز سے مغلوب ہونے کے وقت کی دُعاء:

۳۷۷ - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، إِخْرَصُ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ
وَأَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزَنْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ
لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ [قَدَّرَ اللَّهُ
وَمَا شَاءَ فَفَصَلِّ] فَإِنَّ ”لَوْ“ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ“ (۲)

طاقتور مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک کے اندر خیر ہے، نفع بخش چیز کی جستجو رکھو اور اللہ سے مدد حاصل کرو اور کسی چیز سے بے بس مت ہو، اور اگر تمہیں کچھ لاحق ہو جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا یا ویسا کرتا تو یوں ہوتا، لیکن اس طرح کہو کہ اللہ نے مقدر کر رکھا تھا، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے،

کیونکہ ”اگر مگر“ شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

۳۷۸ - سنن ابی داؤد میں حضرت عوف بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دو شخص کے درمیان فیصلہ فرمایا، جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا وہ جب واپس ہوا تو اس نے کہا ”حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ اللہ ہی میرے لئے کافی اور وہی بہتر کارساز ہے، تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَلُومُ عَلَى الْعَبْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ ،
فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ : [حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ] (۱)
اللہ تعالیٰ بے بسی و پسپائی پر ملامت کرتا ہے، البتہ تمہارے لئے
اعتدال ضروری ہے، اور جب تم پر کسی معاملے کا دباؤ یا غلبہ ہو تو
”حسبى الله ونعم الوكيل“ کہو یعنی اللہ ہی میرے لئے کافی
ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔

”کیس“ کا مطلب مختلف ہے، مثلاً عقل، سمجھ، دانائی، زیرکی، بخشش، جماعت، اور
کاموں میں سنجیدگی وغیرہ مگر شاید اس جگہ اس کا مفہوم اعتدال اور کاموں میں سنجیدگی ہے، کہ
انسان جس کی پابندی کر سکے۔

(باب - ۱۱)

مشکل پیش آنے کے وقت کی دُعاء:

۳۷۹ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
”اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ : الْحَزْنَ
إِذَا شِئْتَ سَهْلًا“ (۲)
اے اللہ! آسان صرف وہی ہے جسے تو آسان بنا دے اور تو سخت مٹھی

(۱) سنن ابی داؤد ۳۶۷۲ حدیث حسن (۲) عمل الیوم لابن سنی ۳۵۳ و ابن حبان فی الاحسان ۹۷۲ حدیث صحیح

کو اگر چاہے تو نرم و آسان بنا دے۔

”حزن“ زاء کے زبر کے ساتھ حزن و ملال اور غم کے معنی میں اور زاء کے سکون کے ساتھ سخت و کھردری زمین کے معنی میں ہے، مذکورہ دعاء میں دونوں احتمال ہے۔

(باب-۱۲)

معاشی تنگی کے وقت کی دعاء:

۳۸۰ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا عَسِرَ عَلَيْهِ أَمْرٌ مَعِيشَتِهِ أَنْ يَقُولَ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ [بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَمَالِي وَدِينِي ، اللَّهُمَّ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ ، وَبَارِكْ لِي فِي مَا قُدَّرَ لِي ، حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعَجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ] (۱)

جب کسی پر معاشی تنگی پیدا ہو جائے تو کوئی مانع نہیں کہ وہ گھر سے نکلنے وقت کہے: اپنے نفس، مال، اور دین پر اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ! تو اپنے فیصلہ و تقدیر پر میرے اندر رضاء مندی پیدا فرما، اور جو تو نے میرے لئے مقدر فرما دیا ہے اس میں برکت عطاء فرماتا کہ جو تو نے مؤخر کر رکھا ہے اسے جلد حاصل کرنے، اور جسے تو نے پیشگی دینا چاہا ہے اسے مؤخر کرنے کی خواہش نہ رکھوں۔

(باب-۱۳)

رفق بلبلیات و آفات کی دعائیں :

۳۸۱ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

(۱) عمل الیوم لابن سنی ۳۵۲ یہ حدیث ضعیف ہے، بیہی بن میمون کی محدثین نے تصحیف کی ہے

ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فِي أَهْلِ وَمَالٍ وَوَلَدٍ
فَقَالَ: [مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ] فَيَرَى فِيهَا آفَةَ دُونَ
الْمَوْتِ [۱] (۱)

اللہ عزوجل نے جو انعام کسی بندہ پر اس کے اہل و عیال، مال و اسباب، اور آل و اولاد میں کر رکھا ہے، بندہ اگر اس پر ”ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ“ کہے تو موت کے علاوہ اور کوئی آفت ان نعمتوں میں وہ نہیں دیکھے گا۔

(باب-۱۴)

چھوٹے بڑے حادثات کے وقت کی دُعاء:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا: «إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ» أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ
وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ: ۱۵۷-۱۵۵)

اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

۳۸۲ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(۱) عمل الیوم لابن سنی ۳۵۹ یہ حدیث ضعیف ہے، عبد الملک بن زرارہ انصاری ضعیف ہیں

”لَيْسَتْ رُجْعَ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ فِي شَيْءٍ نَعَلِهِ ،
فِيَّانَهَا مِنَ الْمَصَائِبِ“ (۱)

تم میں سے ہر کسی کو ہر چیز میں حتیٰ کہ جو تا کے تسمہ ٹوٹنے میں بھی
”اناللہ“ کہنا چاہئے کیونکہ اس کا لوٹنا بھی ایک مصیبت ہے۔

(باب-۱۵)

اداء قرض کی دُعاء جبکہ اس کی ادائیگی دشوار ہو :

۳۸۳ - سنن ترمذی میں حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ایک مکاتب غلام ان کے پاس آیا اور
عرض کیا کہ میں آزادی کے لئے مطلوبہ رقم کی ادائیگی سے قاصر رہا ہوں، آپ میری مدد
فرمائیں، تو حضرت علیؓ نے اس سے کہا، کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتا دوں جو رسول اللہ ﷺ نے
مجھے سکھایا ہے، کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے مانند بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے وہ
ادافرما دیں گے؟ پھر فرمایا کہو:

”اَللّٰهُمَّ اَكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَن حَرَامِكَ ، وَاعْزِزْنِيْ
بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ“ (۲)

”اے اللہ تو اپنا ہلال رزق دیکر مجھے حرام سے بچالے، اور اپنے فضل
کے سہارے تو اپنے ماسوا سے مجھے بے نیاز کر دے“

نوٹ: مکاتب ایسے غلام کو کہتے ہیں جس کے آقا نے اس سے بذریعہ معاہدہ طے کر لیا ہو کہ
اتنی مقدار رقم ادا کرنے کی صورت میں وہ آزاد ہے، اس کے علاوہ صبح و شام کی دعاء کے ضمن
میں ابو داؤد کی روایت گزر چکی ہے جس میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے حضرت ابو امامہ نامی
صحابہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے ”ہموم لومنتی و دیون“
(غم و اندوہ اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے) کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے اس دعاء کی تلقین کی۔

(۱) عمل الیوم لابن سنی ۳۵۴ بزار ۳۱۲ یہ حدیث بھی ضعیف ہے بوجہ بکر بن حلیس

(۲) سنن ترمذی ۳۵۶۳ قال: حدیث حسن

(باب -۱۶)

تیسرے میں ڈرنے یا وحشت زدہ ہونے کی دعاء:

۳۸۴- ابن سنی کی کتاب میں حضرت ولید بن ولیدؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے وحشت زدہ ہونے کی شکایت ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ: جب سونے لگو تو کہو:

[”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ عَضْبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ] فَإِنهَا لَا تَضُرُّكَ أَوْ لَا تَقْرُبُكَ“ (۱)

میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس کے غضب اس کی سزا اس کے بندوں کے شر اور شیاطین کے دوسرے اور اس کی آمد سے، (اسے کہہ لینے سے) شیاطین تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا، یا یہ کہا کہ وہ تمہارے قریب نہیں آسکتا۔

۳۸۵- اسی میں حضرت براء بن عازبؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر (خواب میں) وحشت زدہ ہونے کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

[”سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، جَلَّتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوتِ“] (۲)

پاک ہے ملک القدوس کی ذات جو فرشتوں اور روح القدس کا رب ہے، اے اللہ تو ہی نے آسمانوں اور زمین کا اپنی قدرت و گرفت کے ساتھ احاطہ کر رکھا ہے، اس شخص نے اسے کہا تو وحشت کی وہ

(۱) عمل الیوم لابن سنی ۶۳۳، دروہ احمدی مسندہ ۱۰۸۴، اور ۶۶۶، در رجال رجال الصحیح لابن محمد بن یحییٰ بن حبان لم یسمع من الولید۔

(۲) عمل الیوم لابن سنی ۶۳۳ یہ حدیث ضعیف ہے، محمد بن ابان محمد شین کے نزدیک ضعیف ہیں

کیفیت اس سے دور ہوگی۔

نوٹ: حدیث میں ”روح“ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، اکثر اس کا استعمال ان معنوں میں ہوا ہے (۱) انسانی زندگی جس سے اس کی بقاء ہے۔ (۲) قرآن۔ (۳) وحی۔ (۴) رحمت۔ (۵) جبریل علیہ السلام۔ (۶) روح القدس مگر اس جگہ ”روح“ سے مراد وہ فرشتہ ہے جو فرشتوں میں سب سے عظیم اور خلقت میں سب سے بڑا ہے، اسے عام فرشتے اسی طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، یا اس سے مراد اس جگہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔

(باب-۱۷)

وسوسے میں مبتلا شخص کی دُعا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَإِنَّمَا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ، إِنَّهُ

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ،، (نصرت: ۳۶)

اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کرو،

یقیناً وہ بہت ہی سننے والا جاننے والا ہے۔

سب سے بہتر یہ ہے کہ وسوسے آنے کی صورت میں وہ کہا جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے

حکم دیا اور اس کا ادب سکھایا ہے۔

۳۸۶ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا:

”يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ

كَذَا ، حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبِّكَ ؟ فَمَاذَا بَلَغَ ذَلِكَ

فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهْ“ (۱)

شیطان تم میں سے کسی کے پاس آ کر کہتا ہے، کس نے فلاں چیز کو پیدا کیا اور کس نے فلاں چیز کو پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب وہ یہاں تک پہنچے تو انسان اللہ کی پناہ مانگے، اور رک جائے۔

صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں:

”لَا يَزَالُ النَّاسُ يَفْسَأُونَ لُنَّ حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَلْيَقُلْ : [آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ]“

لوگ ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے، اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر کسی کو اس کا احساس ہو تو اسے ”آمنت باللہ ورسولہ“ کہنا چاہئے۔ (کہ میں نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر)

۳۸۷ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ وَجَدَ هَذَا الْوَسْوَاسَ ، فَلْيَقُلْ : [آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ] ثلاثاً ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُذْهِبُ عَنْهُ“ (۲)

جو یہ وسوسہ محسوس کرے، اسے ”آمنت باللہ ورسولہ“ (ہم نے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا) تین بار کہنا چاہئے، کیونکہ وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔

(۱) صحیح بخاری ۶/۳۲۷ صحیح مسلم ۱۳۳-۲۱۴۰

(۲) عمل الیوم لابن سنی ۶۳۱ ضعیف ہے، محدثین نے لیث بن سلیم کی تصحیف کی ہے

۳۸۸ - صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن ابی العاصؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شیطان میرے اور نماز و قراءت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور خلط ملط کر دیتا ہے (اشتباه کر دیتا ہے) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ ، وَاتَّقِ عَلِيَّ يَسَارِكُ ثَلَاثًا ،

وہ شیطان ہے جسے خنز کہا جاتا ہے، جب تمہیں اس کا احساس ہو تو اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ) کہو، اور تین بار اپنے بائیں جانب تھوک دو۔ (۱)

۳۸۹ - سنن ابی داؤد میں بسند جید البوزمیل سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے عرض کیا کہ میں اپنے سینہ میں کچھ محسوس کرتا ہوں، تو حضرت عبد اللہ بن عباس نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، بخدا میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا، تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا کچھ شکوک و شبہات ہیں؟ پھر ہنسے اور فرمایا کوئی شخص اس سے اس وقت تک مبرا نہیں رہا جب تک کہ اللہ نے یہ نازل نہ فرمایا: ”فَإِنْ كُنْتَ فِى شَكِّ مِمَّا نَزَّلْنَا“ (یونس: ۹۳)

(جو ہم نے نازل فرمایا اگر تمہیں اس میں شک ہے) پھر مجھ سے کہا اگر تم اپنے دل میں اس طرح کچھ محسوس کرو تو کہو:

”هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيمٌ“ (۲)

وہی پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔

استاد ابوالقاسم القشیری کے رسالہ میں جلیل القدر عالم احمد بن عطاء الروذباری سے صحیح طور پر منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ طہارت کے مسئلہ میں میرے اندر شک پیدا ہو گیا، ایک رات بے انتہاء پانی بہانے کی وجہ سے میرا دل کبیدہ خاطر اور تنگ ہو گیا، حد درجہ پانی بہانے کے باوجود میرا دل مطمئن نہیں ہو سکا تو میں نے کہا ”یارب عفوک عفوک“ (اے میرے رب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں) تو میں نے ایک آواز سنی، وہ کہ رہا تھا، معافی علم کے اندر ہے، پھر اس کے بعد میرا وہ وسوسہ دور ہو گیا۔

بعض علماء کی رائے ہے کہ وضوء، نماز یا اس طرح کی چیزوں میں مبتلاء وسوسہ شخص کو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنا چاہئے کیونکہ شیطان جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا اور دور بھاگتا ہے اور ”لا الہ الا اللہ“ تمام اذکار میں حسب سے افضل ذکر ہے۔

اسی وجہ سے اہل سلوک و طریقت اور امت کے چنیدہ حضرات سالک کی تربیت اور مریدین کی تہذیب و تزکیہ باطن کے لئے اہل خلوت کو ”لا الہ الا اللہ“ کی پابندی اور اس کا ورد کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ ان حضرات کا یہ قول بھی ہے کہ دفع وسوس کا کارگر علاج ذکر الہی کی طرف رجوع اور بکثرت اس میں انہماک ہے۔

جلیل القدر بزرگ حضرت احمد بن ابوالحواری فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسلیمان دارانی سے وسوسہ پیدا ہونے کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا: اگر تم چاہتے ہو کہ یہ تم سے دور ہو جائے تو جب اس کا احساس ہو خوشی کا اظہار کرو، کیونکہ تمہارے خوش ہونے سے وہ دور ہو جائیگا، اور یہ اس وجہ سے کہ شیطان کو مومن کی خوشی سب سے زیادہ ناپسند ہے (تمہارے خوش ہونے سے وہ مایوس ہو کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیگا) اور اگر تم غمگین ہو گئے تو اس میں مزید اضافہ ہوگا۔

میرا خیال ہے کہ اس کی تائید بعض حضرات ائمہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ وسوسہ میں وہی شخص مبتلا ہوتا ہے جس کا ایمان کامل و مکمل ہو، کیونکہ چور ویران مکان کا رخ نہیں کرتا۔

(باب-۱۸)

پاگل پن، جنون، اور زہریلے ڈنک کا جھاڑ :

۳۹۰- صحیح مسلم و بخاری میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے بعض اصحاب ایک سفر میں نکلے، ان کا پڑاؤ عرب قبیلہ کے کسی محلہ میں ہوا، ان حضرات نے محلہ والوں سے اپنی ضیافت کی خواہش کی مگر علاقہ والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، پھر قبیلہ کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، ان لوگوں نے علاج کی ہر تدبیر کر لی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا، تو کچھ لوگوں نے کہا اگر اس قافلہ کے پاس جایا جائے جو یہاں خیمہ زن ہے تو شاید ان کے پاس کچھ مل جائے، چنانچہ وہ لوگ آئے اور بولے، قافلے والو میرے سردار کو زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے، ہم لوگ ہر طرح کی کوشش کر چکے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں، آپ لوگوں کے پاس کچھ ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہاں ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں، مگر بخدا ہم نے آپ لوگوں سے مہمان داری کی خواہش کی تھی جسے آپ لوگوں نے ٹھکرادیا تھا اس لئے میں اجرت متعین کئے بغیر نہیں جھاڑ سکتا، چنانچہ ان لوگوں نے بکری کے ایک ریوڑ کی ادائیگی پر اتفاق کر لیا، وہ اس کے پاس گئے اور الحمد للہ رب العالمین (سورہ فاتحہ) پڑھ کر اس پر دم کرتے اور تھوکتے رہے، اس سے وہ شخص اس طرح چنگا ہو گیا جیسے اس کی گرہ کھل گئی ہو، پھر چلنے لگا اور اسے کوئی تکلیف نہ تھی، پھر ان لوگوں نے طے شدہ اجرت انہیں ادا کر دیا، بعض ساتھیوں نے ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی خواہش کی تو جنہوں نے جھاڑا تھا وہ بولے کہ ایسا مت کرو یہاں تک کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کریں پھر دیکھیں کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، بالآخر وہ لوگ (واپسی کے بعد) آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کا تذکرہ کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا:

وَمَا يَذُرُ بِكَ أَنَّهُا رُقِيَّةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ، ائْتِسُمُوا
وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، وَضَحِكَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

علیہ وسلم“

تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ یہ جھاڑ ہے؟ پھر فرمایا: تم نے درست کیا، اسے تقسیم کر لو اور میرے لئے بھی ایک حصہ رکھو، اور آپ ﷺ ہنس پڑے۔

یہ بخاری کے الفاظ ہیں، دوسری روایت میں ہے کہ وہ ”ام الكتاب“ یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنا تھوک منہ میں جمع کر کے اس پر تھوک دیتے، تو وہ شخص صحت یاب ہو گیا، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے تمیں بکری دینے کا حکم دیا تھا۔ (۱)

۳۹۱ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا، ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرا بھائی درد میں مبتلا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وَمَا وَجُعُ أَخِيكَ“ تیرے بھائی کا درد کیا ہے؟ اس شخص نے کہا ”بہ لَمَمٌ“ تھوڑا جنون جیسا ہے، تو آپ نے فرمایا ”فَابْعَثْ بِهِ إِلَيَّ“ اسے میرے پاس بھیجو، وہ آیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ ﷺ نے مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر اسے دم فرمایا:

(۱) سورۃ فاتحہ۔ (۲) سورۃ البقرہ کے شروع کی چار آیتیں۔ اَمِّمٌ مِّنْ مَّقْلُوحَاتِكَ،

(۳) درمیان سورت کی دو آیتیں یعنی ”وَاللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ السَّمِيَّةِ وَالْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰى، لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ“،

(۴) آیت الکرسی۔ (۵) سورۃ بقرہ کی آخری تین آیات۔ (سورۃ بقرہ آیہ ۱۶۳-۱۶۴)

(۶) سورۃ آل عمران کے شروع کی آیت ”شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ“ (آل عمران: ۱۸)

(۷) سورۃ اعراف کی آیت ”اِنَّ رِبْكَمَ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ (اعراف: ۵۴)

(۸) سورۃ مومنون کی آیت ”فَتَعَالٰى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيْرِ“ (المومنون: ۱۱۶)

(۱) صحیح بخاری: ۵۷۴۳۹ و صحیح مسلم: ۲۲۰۱

- (۹) سورۃ جن کی آیت ”وانہ تعالیٰ جہد رینا مما اتخذ صاحبة ولا ولدا“ (الحج ۳۰)
 (۱۰) سورۃ ”الصّٰلٰت“ کے شروع کی دس آیات۔ (۱۱) سورۃ حشر کے اخیر کی تین آیات۔
 (۱۲) قل هو اللہ احد۔

(۱۳) معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق ، وقل اعوذ برب الناس۔ (۱)

۳۹۲ - سنن ابی داؤد میں بسند صحیح حضرت خارجہ بن صلت اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے چچا نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور واپس ہو گیا، واپسی میں میرا گذر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کا ایک شخص جنون میں مبتلا اور زنجیر میں بندھا ہوا تھا، اس کے گھروالوں نے مجھ سے کہا کہ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا ساتھی (نبی) خیر لیکر آیا ہے، کیا تمہارے پاس کچھ ہے جس سے تم اس کا علاج کر سکو میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اسے جھاڑ تو وہ صحت یاب ہو گیا، ان لوگوں نے مجھے سو بکریاں دیں، میں جب نبی کریم ﷺ کے پاس آیا تو اس کی اطلاع دی، آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: هل الاھذا؟ بس صرف یہی تھا؟ ایک اور روایت میں ہے ”هل قُلْتَ غَيْرَ هٰذَا؟“ کیا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ کہا یا پڑھا تھا، میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا:

”خُذْهَا : فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ“ لَقَدْ أَكَلْتُ

بِرُقِيَّةٍ حَقًّا،، (۲)

اسے لے لو، میری قسم ہے ان لوگوں کو جو باطل کے جھاڑ پھونک کا کھائے، تم نے برحق جھاڑ پھونک کا کھایا ہے۔

۳۹۳ - ابن سنی کی کتاب الفاظ جو کہ ابوداؤد کی ایک دوسری روایت ہے، قدرے مختلف ہے، اس میں یوں مروی ہے کہ حضرت خارجہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس سے لوٹے تو عربوں کے ایک محلے میں آئے، محلے والوں نے کہا، کیا تم

(۱) اعلیٰ الیوم لابن سنی ۶۳۷ حدیث غریب

(۲) سنن ابی داؤد: ۳۸۹۶

لوگوں کے پاس کوئی دوا علاج ہے؟ ہمارے پاس ایک معمولی جنون میں مبتلا شخص بندھا ہوا ہے، پھر ان لوگوں نے اسے بندھا ہوا میرے پاس لایا تو میں نے اسے تین دن صبح و شام سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا رہا، میں اپنا تھوک منہ میں جمع کر کے اس پر تھوک دیا کرتا تھا، تو وہ اس سے صحت یاب ہو گیا جیسے گرہ کھل گئی ہو، ان لوگوں نے مزدوری دی تو میں نے انکار کیا، ان لوگوں نے کہا اپنے نبی کریم ﷺ سے پوچھ لینا ہم نے آپ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُقِيَّةٍ

حَقًّا“ (۱)

کھاو، میری قسم ان لوگوں کو جو باطل چیز کے جھاڑ بھونک کا کھاتے ہیں، بیشک تو نے برحق جھاڑ کا کھایا ہے۔

خارجہ کے بیچا کا نام علاقہ بن صحار ہے، بعض لوگوں نے ان کا نام عبداللہ ذکر کیا ہے۔

۳۹۴- ابن سنی کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے جب مبتلا شخص کے کان میں پڑھ کر دم کیا اور وہ صحت یاب ہو گیا تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”مَافَرَأَتْ فِيهِ أُذُنُهُ“ تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: میں نے یہ آیت اخیر سورت تک پڑھا، اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ“ (سورۃ: المؤمنون) تو آپ ﷺ نے اس پر ارشاد فرمایا:

”لَوْ اَنَّ رَجُلًا مَوَّقِنَا قَرَابَهَا عَلٰى سَجَلٍ لَزَالَ“ (۲)

اگر کوئی شخص اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھ کر پہاڑ کے اوپر دم کر دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے کھسک جائے گا۔

(۱) عمل الیوم لابن سنی ۶۳۵ سنن ابی داؤد ۳۸۹۷

(۲) عمل الیوم لابن سنی ۶۳۶ حدیث ثریب، اخرجہ البطرانی فی الدعاء، ۰۸۱ او ابو یعلیٰ ۵۰۴۵ فریب حسن

(باب-۱۹)

بچوں کو دم کرنے کا طریقہ :

۳۹۵ - صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اس طرح تعویذ کے ذریعہ دم کیا کرتے تھے:

[أُعِيذُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ
وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ،] وَيَقُولُ: اِن اباكم ايعوذ بهما
اسماعيل واسحاق“

میں تم دونوں کو اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان،
زہریلے جانور اور نظر بد سے۔ اور فرماتے تھے تمہارے جد امجد (یعنی
ابراہیمؑ) اسی کلمات سے اسماعیل و اسحاق کو دم کیا کرتے تھے۔

ہامہ کی جمع ہوام ہے، اس کا اطلاق ہر اس جانور پر ہوتا ہے جو زہریلا ہو، خواہ اسے
مارا جاتا ہو جیسے: سانپ بچھو یا نہ مارا جاتا ہو، کبھی اس کا اطلاق ایسے کیڑے مکوڑوں پر بھی ہوتا
ہے جو زہریلا تو نہ ہو مگر باعث تکلیف و اذیت ہو جیسے: سر کی جویں اور کپڑے کے چلر، مثلاً
حضرت کعب بن عجرہؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
”اَيُّوْذِيْكَ هَوَامٌ رَّاسِكٌ“ کیا تیرے سر کا کیڑا یعنی جویں تمہیں تکلیف دیتی ہیں، یہاں
ہوام سے مراد قُمَّل یعنی جویں ہیں۔

(باب-۲۰)

پھوڑا پھنسی کی دُعاء :

اس باب میں حضرت عائشہؓ کی وہ حدیث بھی ہے جو عنقریب ”مریض کی دُعاء“ یا
مریض کو کیا پڑھ کر دم کرنا چاہئے کے بیان میں آئیگی۔

۳۹۶- ابن سنی کی کتاب میں بعض ازواج مطہرات سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے جبکہ میری انگلی میں پھنسی لگی ہوئی تھی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”عِنْدَكَ ذُرَيْرَةٌ؟ فَوَضَعَهَا عَلَيْهَا وَقَالَ: قَوْلِي: [اللَّهُمَّ

مُصَغَّرَ الْكَبِيرِ، وَوَمُكَبَّرَ الصَّغِيرِ، صَغَّرَ مَا بِي] فَطَفِفْتُ“ (۱)

کیا تیرے پاس صنبل یا چندن کی لکڑی ہے؟ پھر اسے انگلی پر رکھ دیا

اور فرمایا کہو: اللھم مصغر الکبیر العج، اے اللہ، اے چھوٹے کو

بڑا اور بڑے کو چھوٹا کرنے والے، جو مجھے ہے اسے چھوٹا کر دے تو

وہ مجھ کو ختم ہو گیا۔

(۱) عمل الیوم للنسائی ۱۰۳۱ عمل الیوم لابن سنی ۶۳۰ مسند احمد ۵۰۷۰۲ حدیث صحیح

کتاب اذکار المرض والبعوت و ما يتعلق بهما :

(امراض و موت اور اس سے متعلق اذکار کا بیان)

(باب-۱)

بکثرت موت کو یاد کرنا :

۳۹۷ - سنن ترمذی، نسائی وابن ماجہ میں بسند صحیح حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: "أَخْبِرُوا ذُكُورَ بَهَائِمِ اللَّذَاتِ" لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو بکثرت یاد کیا کرو۔ (۱)

(باب-۲)

بیمار پرسی کی فضیلت :

۳۹۸ - صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے مرض و وفات کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے باہر آئے تو لوگوں نے دریافت کیا اے ابو حسن رسول اللہ ﷺ نے کس حالت میں صبح کی تو حضرت علی نے جواب دیا بجمہ اللہ آپ نے صحت یابی کے ساتھ صبح فرمائی ہے۔ (۱)

(باب-۳)

مریض کے پاس کیا کہنا اور کیا پڑھنا چاہئے :

۳۹۹ - صحیح مسلم و بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں، کہ رسول اللہ

(۱) سنن ترمذی ۲۳۰۸ نسائی ۱۱۸۲۳ ابن ماجہ ۳۲۵۸ وقال الترمذی: حدیث حسن (۲) صحیح بخاری ۶۲۶۶

ﷺ جب سونے کے لئے بستر پر جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو یکجا کرتے تھے اور اس میں ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“، پڑھ کر پھونکتے اور جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا اپنے پورے جسم پر پھیرتے، اس کی ابتدا سر چہرہ اور جسم کے اگلے حصہ سے کرتے، اور اسی طرح تین بار کرتے، پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مرض کی شدت میں اضافہ ہو گیا تو آپ ﷺ اس طرح کرنے کے لئے مجھے حکم دیتے۔ (۱)

بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ مرض وفات میں معوذات کے ذریعہ خود سے اپنے اوپر دم کرتے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب خود سے کرنا دشوار ہو گیا تو مجھے حکم دیتے کہ میں آپ کو معوذات کے ذریعہ دم کروں، اور میں آپ کے دست مبارک کو اس کی برکت کی خاطر پھرتی تھی۔ (۲)

ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ جب مرض کی شدت میں اضافہ ہو گیا تو آپ ﷺ معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے تھے۔ (۳)

اس حدیث کے ایک راوی نے امام زہری سے دریافت فرمایا کہ آپ ﷺ کا پھونکنا یا دم کرنا کس طرح تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ معوذات پڑھ کر پہلے اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرہ پر پھیرتے۔ میرے خیال میں اس باب میں وہ احادیث بھی ہیں جو مجنون پر پڑھ کر دم کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں یعنی سورۃ فاتحہ وغیرہ۔

۴۰۰ - صحیح مسلم و بخاری اور سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص رسول اللہ ﷺ سے کسی تکلیف یا زخم یا پھوڑا پھنسی وغیرہ کی شکایت کرتا تو نبی کریم ﷺ اپنی انگلی اس طرح رکھ کر فرماتے، پھر راوی حدیث حضرت سفیان بن عتبہ نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھ کر اوپر کیا کہ اس طرح:

(۲) صحیح بخاری ۵۷۵۱

(۱) صحیح بخاری ۵۰۱۷ صحیح مسلم ۲۱۹۲

(۳) صحیح بخاری ۵۰۱۶ صحیح مسلم ۲۱۹۲

”بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا يُشْفٰى بِهٖ سَقِيْمُنَا
بِاِذْنِ رَبِّنَا،“ (۱)

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے ہماری سرزمین کی مٹی، ہمارے
بعض مومنین کے لعاب دہن سے ہمارے بیماروں کو شفاء دیا جاتا ہے
اپنے رب کے حکم سے۔

بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں ”تُرْبَةُ اَرْضِنَا وَرِيقَةُ بَعْضِنَا“ ہماری سرزمین
کی مٹی اور ہمارے بعض مومنین کے لعاب دہن سے۔ (۲)
۴۰۱ - صحیحین میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعض اہل خانہ کے
لئے تعویذ کہتے اور اپنا داہنا ہاتھ اس پر پھیرتے ہوئے فرماتے:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اذْهَبِ الْبَاسَ اِشْفِ اَنْتَ الشّٰفِي
لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ ، شِفَاءٌ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا، (۳)
اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار تو بیماری کو دور کر دے، تو شفاء
دے کیونکہ تو ہی شفاء دینے والا ہے، تیری شفاء کے سوا کوئی شفاء
نہیں، ایسی شفاء دے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ آپ بیمار کو اس طرح کہتے ہوئے جھاڑتے:

”اِمْسَحِ الْبَاسَ رَبُّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا
اَنْتَ“ (۴)

اے لوگوں کے پروردگار تو بیماری کو مٹا دے، تیرے ہی ہاتھ میں شفاء
ہے، اسے تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔

۴۰۲ - صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ثابت سے کہا: کیا

(۲) بخاری: ۵۷۳۶

(۱) صحیح بخاری ۵۷۳۵ صحیح مسلم ۲۱۹۳ سنن ابی داؤد ۳۸۹۵

(۳) بخاری: ۵۷۳۳

(۴) صحیح بخاری ۵۷۳۳ صحیح مسلم ۲۱۹۱

میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کے منتر کے ذریعہ نہ جھاڑوں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ تو حضرت انسؓ نے فرمایا:

”اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِي ، لَا شَافِيَ اِلَّا اَنْتَ ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا“ (۱)

اے لوگوں کے پالنہار بیماریوں کو دور کرنے والے شفاء عطا فرما، تو ہی شفاء دینے والا ہے، تیرے سوا اور کوئی شفاء دینے والا نہیں، ایسی شفاء عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ رکھے۔

۴۰۳ - صحیح مسلم میں حضرت عثمان بن العاصؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے جسم میں پائے جانے والی تکلیف و درد کی شکایت کی تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ضَعُ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْتُكَ مِنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ تَلَمْنَا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ [اَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ]“

اپنے جسم کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھو جہاں تکلیف ہو اور تین بار ”بسم اللہ“ کہو اور سات بار ”اعوذ بعزۃ اللہ الخ کہو (میں اللہ کی قدرت و غلبہ کی پناہ لیتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جسے میں محسوس کرتا اور جس سے میں خائف ہوں۔

۴۰۴ - صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میری عیادت کی اور فرمایا:

”اللَّهُمَّ اِشْفِ سَعْدًا ، اللَّهُمَّ اِشْفِ سَعْدًا ، اللَّهُمَّ اِشْفِ سَعْدًا“ (۲)

اے اللہ تو سعد کو شفاء عطا فرما، اے اللہ تو سعد کو شفاء عطا فرما، اے

اللہ تو سعد کو شفاء عطا فرما۔ (سعد کی جگہ مریض کا نام لیا جائے)

۴۰۵ - سنن ابی داؤد و ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلَهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَاتٍ،،

[أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ] إِلَّا

عَافَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ“ (۱)

جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت

ابھی نہیں آیا ہے، پھر اس کے پاس سات بار کہے ”اسأل العظیم

السخ،، میں اللہ سے جو بڑا عظمت والا اور عرش عظیم کا رب ہے، سوال

کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفاء عطا فرمائے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ

اسے اس مرض سے شفاء عطا فرمادیتے ہیں۔

وقال الترمذی: حدیث حسن، امام ابو عبد اللہ الحاکم نے اپنی کتاب

”المستدرک علی الصحیحین،، میں [۳۴۲/۲] کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور بخاری کی

شرط کے مطابق ہے۔

۴۰۶ - سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوذُ مَرِيضًا فَلْيَقُلْ: جب کوئی شخص کسی

مریض کی عیادت کو آئے تو اسے یوں کہنا چاہئے،،

[اللَّهُمَّ أَشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَى

صَلَاةٍ] (۲)

اے اللہ تو اپنے بندے کو شفاء دے، وہ تیرے لئے کسی دشمن پہ

ضرب لگائے گا یا تیرے واسطے نماز کو جائے گا۔

۳۰۷ - ترمذی میں حضرت علیؑ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے درد کی شکایت تھی، رسول اللہ ﷺ کا میرے پاس سے گذر ہوا جبکہ میں کہہ رہا تھا:

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَجَلِي قَدْ حَضَرَ فَأَرْحَمْنِي ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا
فَأَرْفَعْنِي ، وَإِنْ كَانَ بَلَاءٌ فَصَبِّرْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ ،
فَضْرَبَ بِهِ بَرَجِلَهُ وَقَالَ : [اللَّهُمَّ عَافِهِ] أَوْ اشْفِهِ ، شَكَّ
شُعْبَةُ ، قَالَ : فَمَا اشْتَكَيْتُ وَجَعِي أَبَدًا“

اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو مجھے سکون بخش، اور
اگر اس میں دیر ہے تو اسے دور فرما، اور اگر آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، تو
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم نے کس طرح کہا؟ تو حضرت علیؑ نے
اسے آپ کے سامنے دہرایا، تو آپ ﷺ نے انہیں اپنے پاؤں سے
ٹھوکر دیکر فرمایا، اے اللہ تو اسے عافیت دیدے یا یہ کہا اسے شفاء
دے، شعبہ کو شک ہے کہ ”عافہ“ کہا یا ”اشفہ“ کہا حضرت علیؑ
فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے کبھی درد کی شکایت نہ ہوئی۔

۳۰۸ - ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابوسعید خدریؓ و ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، یہ دونوں گواہی
دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، صَدَّقَهُ رَبُّهُ فَقَالَ :
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ ، قَالَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَوَحْدِي
لَا شَرِيكَ لِي ، وَإِذَا قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لِي الْمُلْكُ وَلِي الْحَمْدُ ، وَإِذَا
قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا مَوْلَى وَلَا مَمْلُوقٌ إِلَّا بِاللَّهِ ، قَالَ : لَا إِلَهَ

إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“

جس نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا اور فرماتا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں میں ہی بہت بڑا ہوں، اور جب ”لا الہ الا اللہ لا شریک لہ“ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تنہا ہوں میرا کوئی شریک نہیں اور جب وہ ”لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد“ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لئے حکومت و بادشاہی ہے اور اسی کے لئے حمد و ثناء ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے ہی لئے حکومت و بادشاہ ہی ہے اور میرے ہی لئے حمد و ثناء ہے، اور جب وہ ”لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کہتا ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ساری طاقت اللہ ہی سے ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ساری طاقت و قوت مجھ ہی سے ہے۔

اور آپ ﷺ فرماتے تھے کہ:

”مَنْ قَالَهَا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمَهُ النَّارُ“۔ (۱)

جس نے اسے اپنی بیماری کی حالت میں کہا پھر اسی بیماری میں وفات ہوگی تو جہنم کی آگ اسے نہیں کھائے گی۔

۴۰۹ - صحیح مسلم، سنن ترمذی، و نسائی و ابن ماجہ میں صحیح اسانید کے ساتھ حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے کہ۔ حضرت جبریلؑ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور گویا ہوئے، اے محمد! کیا آپ کو تکلیف کی شکایت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، تو حضرت جبریلؑ نے فرمایا:

(۱) سنن ترمذی: ۳۳۰ سنن ابن ماجہ ۹۴۷۳ و قال الترمذی: حدیث حسن

”بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ
نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفِيكَ ، بِسْمِ اللَّهِ
أَرْقِيكَ“ (۱)

اللہ کے نام سے میں آپ کو جھاڑتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ
کو تکلیف دے، اور ہر انسان کے یا حد کرنے والی نگاہ کے شر سے،
اللہ آپ کو شفاء دے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔

۳۱۰ - صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی اعرابی
(دیہاتی بدو) کی عیادت کو گئے، اور آپ ﷺ جب کسی کی عیادت کو جاتے تو فرماتے:
”لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ“ (۲)

گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انشاء اللہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کر
دینے والی ہے۔

۳۱۱ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی اعرابی کی عیادت
کو گئے جبکہ وہ بخار میں مبتلا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”كِفَارَةٌ وَ طَهُورٌ“ گناہوں کا کفارہ
اور بیماریوں سے پاک کرنے والا ہے۔ (۳)

۳۱۲ - ترمذی اور ابن سنی کی کتاب میں حضرت ابوامامہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَبْهَتِهِ
أَوْ عَلَى يَدِهِ فَيَسْأَلُهُ ، كَيْفَ هُوَ“

عیادت کی تکمیل یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنا ہاتھ مریض کے پیشانی یا
اس کے بازو پر رکھ کر دریافت کرے کہ ”آپ کیسے ہیں۔“

(۱) صحیح مسلم ۲۱۸۶ سنن ترمذی ۹۷۲ عمل الیوم للسنائی ۱۱۰۰۵ ابن ماجہ ۲۵۲۳ وقال الترمذی حسن صحیح

(۲) عمل الیوم لابن سنی ۵۳۰ حدیث حسن غریب

(۳) صحیح بخاری ۵۶۵۶

یہ الفاظ ترمذی کی روایت کے ہیں، ابن سنی کی روایت میں اس طرح ہے:

”مِنْ تَمَامِ الْعِيَادَةِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْمَرِيضِ فَتَقُولُ :

كَيْفَ أَصْبَحْتَ أَوْ كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ (۱)

عیادت کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ مریض پر رکھو پھر کہو کس حال میں تم نے صبح کی یا کس حال میں تم نے شام کی۔

۳۱۳ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت سلمانؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میری عیادت کی جبکہ میں بیمار تھا اور فرمایا:

”يَا سَلْمَانَ شَفَى اللَّهُ سَقَمَكَ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَعَافَاكَ

فِي دِينِكَ وَجَسْمِكَ الَّتِي مُدَّةَ أَجَلِكَ“ (۲)

اے مسلمان! اللہ تمہیں بیماری سے شفاء دے، تیرے گناہ معاف فرمائے، اور تیرے دین و جسم میں زندگی کے آخری لمحات تک عافیت بخشنے۔

۳۱۴ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت عثمان بن عفانؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار بیمار پڑا تو رسول اللہ ﷺ مجھے معذرت پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، ایک بار آپ نے مجھے اس طرح تعویذ پڑھ کر دم کیا:

”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَعْيُنُكَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ

الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مِنْ

شَرِّ مَا تَجِدُ“ (۳)

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو ایک اور بے نیاز ہے جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کا

(۱) سنن ترمذی ۲۷۳۱، عمل الیوم لابن سنی ۵۳۱ و تالالترمذی: اسنادہ یس بقوی

(۲) عمل الیوم لابن سنی ۵۵۸ حدیث ضعیف

(۳) عمل الیوم لابن سنی ۵۵۳ حدیث ضعیف

کوئی ہمسر ہے، جس تکلیف میں تو ہے اس کے شر سے۔

پھر آپ جب جانے کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا: ”یا عثمان تغو ذبھا فما تعوذتم بمثلھا، اے عثمان اس کے ذریعہ تعوذ و پناہ طلب کیا کرو کیونکہ اس جیسے تعوذ سے تم نے اب تک تعوذ نہیں کیا ہے۔“

(باب-۴)

اہل خانہ کو حسن سلوک کی تلقین کرنا :

ظاہری اسباب مثلاً حدود و قصاص یا امراض وغیرہ کی وجہ سے جس شخص کی موت کا وقت قریب آچکا ہو، تو اس کے اہل خانہ و خدام وغیرہ کو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اور اس کے تصرفات کو برداشت کرنے اور اس کی جفاؤں پر خندہ پیشانی سے صبر کرنے کی تلقین کرنا بہتر ہے۔

۴۱۵ - صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حصینؓ سے مروی ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک دوشیزہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول! میں نے حد جاری ہونے والے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لہذا آپ مجھ پر حد جاری کریں، نبی کریم ﷺ نے اس کے سر پرست کو بلوایا اور ان سے ارشاد فرمایا:

أَحْسِنُ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأَتِنِي بِهَا“ (۱)

اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرو، اور جب بچہ پیدا ہو

جائے تو اسے میرے پاس لاؤ۔

تو ایسا ہی ہوا نبی کریم ﷺ نے حکم دیا تو اس کا کپڑا اس پر اچھی طرح مضبوطی سے لپیٹ دیا گیا (کہ کھلنے نہ پائے) پھر حکم دیا اور اسے رجم کر دیا گیا، پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔

(حدیث کا بقیہ حصہ یوں ہے) تو حضرت عمرؓ نے آپ ﷺ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ ﷺ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس نے زنا کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”لَقَدْ ثَابَتْ تَوْبَةُ لَوْ قَسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ
لَوْ سَعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ
بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى“ (۱)

اس نے ایسی عظیم الشان توبہ کی ہے کہ اسے اگر اہل مدینہ کے ستر مسلمانوں پر تقسیم کیا جائے تو ان سب پر بھاری ہو جائے گا، کیا تم نے اس سے افضل توبہ پایا ہے کہ اس نے اپنی جان خود ہی اللہ کے لئے سخاوت کے ساتھ قربان کر دی۔

(باب-۵)

دوسرے، بخاریا اور کسی طرح کی تکلیف کے وقت کی دعاء :

۴۱۶ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر طرح کی تکلیف اور بخار سے نجات کے لئے انہیں یہ کہنے کی تعلیم دیتے تھے:

”بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، مِنْ شَرِّ عَوْقِ نَعَارٍ
وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ“ (۲)

شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا ہے، ہم پناہ طلب کرتے ہیں اللہ کی جو بڑا عظمت والا ہے، ہر جوش مارتے رگ اور آگ کی تپش کے شر سے۔

(۱) حوالہ سابقہ

(۲) عمل الیوم لابن سنی ۵۷۱، سنن ترمذی ۲۰۷۵، سنن ابن ماجہ ۳۵۲۶، وقال الترمذی: حدیث غریب

اس کے علاوہ سورۃ فاتحہ، اخلاص، اور معوذتین بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہئے، اس کا طریقہ پہلے گزر چکا ہے کہ پڑھ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر پھونکے پھر اسے جسم اور تکلیف کے مقام پر پھیرے، اس موقع پر پریشانی کے وقت کی دعاء بھی پڑھنا بہتر ہے۔

(باب-۶)

مریض کا آہ و بکا کرنا:

مریض کا، مجھے شدید تکلیف ہے، میں بخار میں مبتلا ہوں، مجھے بیماری ہے وغیرہ کہنا بلا کراہت درست ہے بشرطیکہ واو بلا یا اظہار خفگی نہ ہوں۔

۴۱۷ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ:

”ذَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ
فَمَسَسْتُهُ فَقُلْتُ، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعَكَأَ شَدِيدًا أَقَالَ:

أَجَلُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ“ (۱)

میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، آپ ﷺ بخار کی شدید تکلیف میں مبتلا تھے، میں نے آپ کو چھوا اور کہا، آپ کو سخت بخار ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، تمہارے دو شخص کے بخار کی تکلیف کی طرح۔

۴۱۸ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی

تکلیف کی شدت کے وقت رسول اللہ ﷺ مجھے تعویذ کے ذریعہ دم کرنے کے لئے تشریف لائے، میں نے عرض کیا، میں جس حال کو پہنچ گیا ہوں اسے آپ دیکھ رہے ہیں، میں الما دار ہوں، اور ایک بچی کے علاوہ میرا اور کوئی وارث نہیں، پھر پوری حدیث نقل فرمائی۔ (۲)

۴۱۹ - صحیح بخاری میں حضرت قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے

”وَأَرْأَسَاهُ“ ہائے آپ کے سر کی تکلیف کہا تو آپ ﷺ اس کے جواب میں فرمایا ”بَلْ أَنَا

وَارْسَاهُ، بلکہ میں تیرے سر پر ہائے افسوس کرتا ہوں (یعنی سختی کے وقت بھی اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہئے، صبر کرنا چاہئے آہ اور چیخ و پکار کے بجائے اللہ سے دعاء کرنی چاہئے) پھر پوری حدیث نقل کی ہے۔ (۱)

(باب-۷)

موت کی تمنا کرنا :

کسی ضرر یا نقصان یا تکلیف کی وجہ سے ان حالات میں موت کی آرزو کرنا مکروہ ہے، البتہ اگر دین میں فتنہ کا خطرہ و اندیشہ ہو تو یہ جائز ہے۔
۳۲۰ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ
فَاعِلًا فَلْيَقُلْ : [اللَّهُمَّ أَخْبِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ،
وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي]“ (۲)

تم میں سے کسی کو جب کوئی تکلیف پہنچے تو اس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر کہنا ہی ہو تو یوں کہنا چاہئے، اے اللہ جب تک زندگی میں میرے لئے خیر ہے زندہ رکھ، اور اگر موت میں میرے لئے بہتری ہے تو مجھے وفات دیدے۔

شوافع و دیگر علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جبکہ کسی تکلیف یا نقصان وغیرہ کی وجہ سے موت کی تمنا کرے، البتہ اگر زمانے کے رگاڑ کے پیش نظر دین کو خطرہ لاحق ہونے یا فتنہ میں پڑنے کے اندیشے کی وجہ سے موت کی تمنا کرے تو مکروہ نہیں۔

(۱) صحیح بخاری ۷۲۱۷ یہ حدیث ان الفاظ میں مرسل ہے

(۲) صحیح بخاری ۵۶۷۱ صحیح مسلم ۲۶۸۰

(باب-۸)

دیار رسول میں موت آنے کی دعاء کرنا افضل ہے

۳۲۱ - صحیح بخاری و مسلم میں ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر الفاروق سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ دعاء فرمایا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيْلِكَ وَاَجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ
رَسُوْلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور مجھے دیار رسول ﷺ میں موت دے۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ان سے عرض کیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو ایسا کر دے۔ (۱)

(باب-۹)

مریض کی دلجوئی مستحب ہے:

۳۲۲ - سنن ترمذی وابن ماجہ میں بسند ضعیف ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اِذَا دَخَلْتُمْ عَلٰی مَرِيْضٍ فَتَقَسُّوْا لَهٗ فِيْ اَجَلِهٖ غَيَّرَ ذٰلِكَ
لَا يَرُوْذُ شَيْئًا وَيُطَيِّبُ نَفْسَهٗ. (۲)

جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس کے موت کے غم کو دور کرو کیونکہ تمہارا یہ عمل کسی چیز (موت کو) روک نہیں سکتا البتہ اس کی دلجوئی کر سکتا ہے۔

(۱) صحیح بخاری ۱۸۹۰

(۲) ترمذی ۲۰۸۷، ابن ماجہ ۱۳۳۸، یہ حدیث ضعیف ہے

مریض کے پاس کیا کہنا اور کیا پڑھنا چاہئے، اس کا تذکرہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں آچکا ہے کہ ”لا باس طہور انشاء اللہ“ کہنا چاہئے، اس جگہ بس اتنا ہی کافی ہے۔

(باب-۱۰)

مریض سے وحشت دور کرنا:

مریض اگر مایوس اور خوف زدہ ہو تو اس کے اچھے اعمال کا تذکرہ کر کے اس کی تعریف و توصیف کرنی چاہئے تاکہ اس کا خوف دور ہو اور اپنے رب سے حسن ظن پیدا ہو۔

۴۲۳ - صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب حضرت عمرؓ کو نیزہ مارا گیا، اور وہ شدت سے کرا رہے تھے تو ابن عباس نے ان سے کہا: اے امیر المؤمنین یہ سب ٹھیک نہیں آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہے اور آپ کی صحبت خوشگوار رہی وہ آپ سے راضی خوشی جدا ہوئے پھر آپ حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ رہے اور ان کی صحبت بھی خوشگوار رہی اور وہ آپ سے راضی خوشی جدا ہوئے، پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ رہے اور ان کی صحبت بھی خوشگوار رہی اگر آپ ان سے جدا ہوتے ہیں تو اس طرح جدا ہونگے کہ وہ آپ سے راضی و خوش ہونگے۔ پھر آگے بقیہ حدیث نقل کی ہے، حضرت عمرؓ نے ان کے جواب میں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک ہے۔ (۱)

۴۲۴ - صحیح مسلم میں حضرت شامہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں عمرو بن العاصؓ کے پاس گیا جب وہ کہ موت کی دوڑ میں تھے اور خوب رورہے تھے، وہ اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیرے ہوئے تھے ان کا لڑکا کہنے لگا، والد بزرگوار، کیا اللہ کے رسول ﷺ نے آپ کو خوشخبری نہیں دی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ یہ بشارت نہیں دی؟ تو انہوں نے اپنا چہرہ سامنے کیا اور بولے، سب سے افضل توشہ جو ہم نے تیار کیا ہے وہ کلمہ شہادت یعنی ”لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ“ ہے پھر بقیہ حدیث نقل کی۔ (۲)

۴۲۵ - بخاری ہی میں ابن ابی ملیکہ کی روایت ہے کہ حضرت عائشہؓ کی موت سے پہلے جبکہ وہ

مدھوش تھیں، حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے آنے کی اجازت چاہی تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں، تو ان سے کہا گیا: وہ لوگوں میں خاص، رسول اللہ ﷺ کے پچازاد بھائی ہیں، تو حضرت عائشہؓ نے فرمایا، انہیں اجازت دیدو، حضرت ابن عباسؓ نے (آنے کے بعد) عرض کیا، آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہؓ نے فرمایا، بخیر ہیں اگر آپ بچیں (یعنی مدح سرائی سے) ابن عباسؓ نے فرمایا، تو آپ انشاء اللہ بخیر ہی رہیں گی، آپ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ ہیں، اللہ کے رسول نے آپ کے سوا کسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی اور آپ کی براءت آسمان سے اتری ہے۔ (۱)

(باب-۱۱)

مریض سے اس کی خواہش دریافت کرنا:

۳۲۶- ابن سنی کی کتاب اور ابن ماجہ میں بسند ضعیف حضرت انسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک شخص کی عیادت کو گئے اور فرمایا: هل تشتهي شيئاً تشتهي كغفكاً، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ کیا تمہیں ایک چائے؟ اس شخص نے کہا، ہاں تو آپ نے اس کے لئے ایک منگوا لیا۔ (۲)

۳۲۷- سنن ترمذی و ابن ماجہ میں حضرت عقبہ بن عامرؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَا تُكْرَهُوا مَرَضًاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ
وَيَسْقِيهِمْ۔ (۳)

تم اپنے مریضوں کو کھانے کے لئے مجبور مت کرو، کیونکہ اللہ اسے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

(۲) سنن ابن ماجہ، ۳۲۲۱، عمل الیوم لابن سنی ۵۳۵

(۱) بخاری ۲۷۳۵

(۳) سنن ترمذی، ۲۰۲۰، سنن ابن ماجہ، ۳۲۲۴، وقال الترمذی: حدیث حسن

(باب-۱۲)

عیادت کرنے والوں کا مریض سے دعاء کی درخواست کرنا:

۳۲۸- ابن ماجہ وابن سنی کی کتاب میں بسند صحیح یا بسند حسن بواسطہ میمون بن مہران حضرت عمر بن الخطاب سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَذَا دَخَلْتَ عَلَيَّ مَرِيضٍ وَامْرَأَةٌ فَلْيَدْعُ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ
كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ. (۱)

جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ وہ تمہارے لئے دعاء کرے، کیونکہ اس کی دعاء فرشتوں کی دعاء جیسی ہے۔

(باب-۱۳)

مریض کو توبہ وغیرہ کے ذریعہ وفاق عہد کی تلقین:

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: وَأَوْزُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الاسراء: ۳۴)

اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔

الْمُؤْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا (اور جب وہ وعدہ کریں تو اپنے وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں، نیز اس باب میں اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں۔

۳۲۹- ابن سنی کی کتاب میں حضرت خوات بن جبرئیل سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار

بیمار پڑا تو رسول اللہ ﷺ نے میری عیادت کی اور فرمایا: صَحَّ الْجِسْمُ يَسْخُوَاتُ، تمہارا بدن

صحتیاب ہوا، خوات، میں نے عرض کیا اور آپ کا جسم بھی اے اللہ کے رسول، پھر آپ ﷺ

نے فرمایا، فَفِ اللّٰهَةِ بِمَا وَعَدْتَهُ، تو تم نے اللہ سے جو وعدہ کر رکھا ہے اسے پورا کرو میں نے

عرض کیا میں نے اللہ عزوجل سے تو کچھ بھی وعدہ نہیں کیا ہے، آپ نے فرمایا:

(۱) سنن ابن ماجہ، ۱۳۳۱، عمل الیوم لابن سنی ۵۶۲، واضح رہے کہ میمون بن مہران نے حضرت عمر کو نہیں پایا ہے۔

بَلَسَىٰ إِنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ بِمَرَضٍ إِلَّا أَخَذَتْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا
فَقَبِ اللَّهُ عَهْدَهُ (۱)

ہاں کر رکھا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی بندہ بیمار پڑتا ہے تو اللہ اس کیلئے خیر
پیدا فرماتے ہیں، لہذا جو تم نے وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔

(باب-۱۴)

زندگی سے مایوس شخص کو کیا کہنا چاہئے:

۴۳۰- سنن ترمذی وابن ماجہ میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو
یوقت وفات دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بڑے پیالہ میں پانی تھا، آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈالتے
اور پانی اپنے چہرہ پر پھیرتے اور فرماتے تھے:

“اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى عَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَوَاتِ الْمَوْتِ” (۲)

اے اللہ تو موت کی سختیوں اور جان کنی (کی تکلیف) پر میری مدد فرما۔

۴۳۱- صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ
ﷺ سے یہ کہتے سنا جبکہ آپ (یوقت وفات) مجھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحَقِيقِي بِالرَّفِيقِي الْأَعْلَىٰ” (۳)

اے اللہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیقِ اعلیٰ (انبیاء

و ملائکہ) کے ساتھ ملا دے۔

اس وقت بکثرت قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار مستحب ہے و او ایلا مچانا، آہ فغاں کرنا،
بدخلتی، گالی گلوچ، لڑائی، جھگڑا اور غیر دینی باتوں میں الجھنا ناپسندیدہ و مکروہ ہے، بہتر ہے کہ اپنے
زبان و دل سے اللہ کا شکر گزار رہے اور اپنے ذہن میں مستحضر کرے کہ یہ دنیا کا آخری لمحہ ہے اس

(۱) عمل الیوم لابن سنی ۵۶۳، یہ حدیث ضعیف ہے (۲) ترمذی ۹۷۸، وقال الترمذی: حدیث غریب

(۳) صحیح بخاری ۴۴۲۰، صحیح مسلم ۲۲۲۲

لئے اسے بخیر و خوبی انجام کو پہنچانے کی کوشش کرے، اور حقداروں کے حقوق کی ادائیگی میں پہل کرے، مثلاً ظلم و زیادتی کی معافی، امانت یا مطلوب شے کی واپسی اور اہل خانہ مثلاً بیوی بچے، والدین، خادم و غلام یا پڑوسیوں دوستوں یا جن جن سے ان کے معاملات یا میل جول رہے ہوں ان سے معافی اور نامعلوم حقوق کو حلال و معاف کرنے کی درخواست کرے۔

اور اگر بچوں کو دادا یا کوئی دوسرا سرپرست نہ ہو تو ان کی دیکھ بھال کی وصیت، یا جو وہ اس وقت خود نہ کر سکتا ہو، مثلاً قرض وغیرہ کی ادائیگی تو اس کے ادا کرنے کی وصیت کرے، اور اللہ جل شانہ سے حسن ظن رکھے کے اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اپنے ذہن میں اس کا استحضار کرے کہ وہ مخلوق میں سب سے حقیر ہے، اور اللہ اس کو عذاب دینے یا اس کی اطاعت کی طرف نظر کرنے سے بے نیاز ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے سوا کسی اور سے غفور و درگزر، احسان و کرم اور معافی کی درخواست نہیں کی جاسکتی۔

قرآن کی وہ آیات جس میں امید و بیم اور رجاء و آرزو کا تذکرہ ہے، اس کی پابندی سے رقت آمیز اسلوب میں تلاوت کرتا رہے، اگر خود نہ پڑھ سکتا ہو تو دوسروں سے پڑھوا کر سننے اسی طرح بوقت وفات امید افزا احادیث اور صالحین کے قصص و واقعات و آثار پڑھوا کر سننے، اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہو جائیں نمازوں کی پابندی اور نجاستوں سے پرہیز کرے اور دین کے دیگر فرائض و واجبات وغیرہ کا اہتمام رکھے۔

ان عبادات کی مشقتوں پر صبر کرے، اور اس میں تساہل برتنے سے پرہیز کرے، کیونکہ سب سے بری اور خطرناک بات یہ ہے کہ دنیا جو کہ آخرت کی کھیتی ہے اس کے آخری لمحات میں کسی واجب یا مستحب چیز میں کوتاہی پیدا ہو۔

ایسے شخص کی بات جو ان مذکورہ باتوں سے اسے روک دے قبول نہ کرے کیونکہ اس کی

بات گویا آزمائش و امتحان ہے، ایسا کہنے والا درحقیقت جاہل دوست اور چھپا ہوا دشمن ہے، لہذا وہ اس کے قریب نہ آئے، اپنی زندگی کا خاتمہ مکمل ایمانی حالت پر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ اپنے اہل خانہ و احباب کو اپنے فرائض پر اور مرض کے بعد جو بھی اللہ کی طرف سے حالات پیش آئیں اس پر صبر کرنے کی وصیت کرے، اور اگر موت کا حادثہ پیش آئے تو اس پر بھی صبر کرتے۔

مرنے کے بعد رونے، ماتم کرنے یا بین کرنے سے سختی سے منع کرے اور انہیں بتائے کہ رسول اللہ ﷺ سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا: "الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ" میت پر اہل میت کے رونے اور بین کرنے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ (۱) اس لئے دوستو میرے عذاب کا سب بننے کی کوشش مت کرو۔ اور جو اپنے پیچھے چھوٹے بچے بچیاں خدام و غلام چھوڑ رہا ہے ان کے ساتھ نیز دوست و احباب کے ساتھ رحم دلی اور حسن سلوک کرنے کی وصیت کرے، اور انہیں بتائے کہ رسول اللہ ﷺ سے صحیح طور پر ثابت ہے آپ نے فرمایا:

إِنَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَذُؤَابِيَهُ، (۲)

سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کے دوست و محبوب سے اچھا برتاؤ کرے۔

اور رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ حضرت خدیجہ کی ساتھی سہیلیوں کی ان کی وفات کے بعد تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے (۳)۔ اور جنازے میں جو بدعات مروج ہیں اس سے سختی سے منع کرے، اور مکمل اجتناب کرنے کی وصیت کرے اور بہتر ہے کہ اس کا سنت طریقہ بتائے اسی طرح ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنے اور زمانہ گزر جانے کے بعد بھول نہ جانے کی وصیت کرے، وقتاً فوقتاً یہ بھی کہنا مستحب ہے کہ، اگر تم لوگ میرے اندر کسی چیز میں کوتاہی کرتا دیکھو تو

(۱) دیکھئے: بخاری ۱۲۸۶، مسلم ۹۲۷، ابن عمر (۲) مسلم ۲۵۵۲، ترمذی ۱۹۰۳، ابن عمر

(۳) بخاری ۳۸۱۶، مسلم ۲۳۳۵، ابن عمر

مجھے نرمی کے ساتھ اس پر متنبہ کرو، اور اس کی نصیحت کرو کیونکہ میں کاہلی، لاپرواہی، اور غفلت میں گرفتار ہوں، لہذا جب کوتاہی دیکھو تو مجھے متحرک و سرگرم کرو اور اس دور دراز کے سفر کی تیاری میں میری مدد کرو۔

اس باب کے اندر میں نے جن امور کا تذکرہ کیا ہے اس کے دلائل مشہور و معروف ہیں، اختصار کے پیش نظر اسے حذف کر رہا ہوں، ورنہ تو اس کے لئے ضخیم کاپیاں درکار ہیں۔ جب نزاع کا وقت آئے تو بکثرت ”لا الہ الا اللہ“ الخ پڑھے تاکہ یہی کلمہ اس کی آخری بات ہو۔

۴۳۲ - سنن ابی داؤد میں مشہور حدیث حضرت معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ“ (۱)

جس کا آخری کلام ”لا الہ الا اللہ“ ہو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔

امام حاکم اپنی کتاب، المستدرک علی الصحیحین (۳۵۱/۱) میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

۴۳۳ - صحیح مسلم و سنن ابی داؤد، ترمذی و نسائی وغیرہ میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (۲)

اپنے وفات پانے والوں کو ”لا الہ الا اللہ“ کی تلقین کرو،

۴۳۴ - صحیح مسلم ہی میں حضرت ابو ہریرہؓ بھی رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ (۳)

حضرات علماء فرماتے ہیں کہ جانکنی کی حالت میں اگر وہ خود لا الہ الا اللہ نہ پڑھ سکتا ہو تو وہاں پر موجود لوگ پڑھ کر اس کی تلقین کریں اور تلقین کرتے ہوئے اس خطرہ کے پیش نظر نرمی کا

(۱) سنن ابی داؤد ۳۱۱۶

(۲) صحیح مسلم ۹۱۶، سنن ابی داؤد ۳۱۱۷، سنن ترمذی ۹۷۶، سنن نسائی ۱۸۲۶، وقال الترمذی حسن صحیح

(۳) دیکھئے صحیح مسلم ۹۱۷

ہڑتاؤ کریں کہ مبادا وہ چھڑک کر اسے ٹھکرانہ دے۔ اور جب ایک بار وہ کلمہ پڑھ لے تو دوبارہ اس سے اعادہ نہ کروایا جائے، یہاں تک کہ وہ کوئی دوسری بات نہ کر لے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تلقین کرنے والا متہم نہ ہونا چاہئے، تا کہ مرنے والا نہ اسے متہم و مشکوک گردانے اور نہ ہی اس سے الجھن محسوس کرے، علماء شوافع کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ تلقین کرتے ہوئے اس طرح کہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، مگر جمہور نے صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر اکتفا کیا ہے، قائلین کے دلائل اور اس کی تفصیلی بحث میں نے شرح المہذب کے کتاب الجنائز میں ذکر کر دی ہے۔ (۱)

(باب-۱۵)

میت کی آنکھ بند کرنے کے بعد کی دعا:

۴۳۵ - صحیح مسلم میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جن کا نام ہند ہے، مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ابوسلمہ کے پاس آئے جبکہ ابوسلمہ کی نگاہیں پھٹی ہوئی تھیں، آپ نے ان کی آنکھ بند کیا اور فرمایا:

”إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قَبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ ، فَقَالَ : لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَئِذٍ عَلَى مَا تَقُولُونَ ، ثُمَّ قَالَ : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ الْغَائِبِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ) (۲)

روح جب قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا چمچا کرتی ہیں ان کے اہل خانہ میں سے کوئی اس پر چیخ پڑا تو آپ ﷺ نے فرمایا تم اپنے اوپر بددعا نہیں صرف خیر ہی کی دعاء کرو، کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر

آمین کہتے ہیں، پھر فرمایا: اے اللہ تو ابوسلمہ کی مغفرت فرما اور ہدایت یافتہ لوگوں میں (جنتوں میں) ان کا درجہ بلند فرما اور ان کے پسماندگان میں تو اس کا قائم مقام بن جا، اور اے رب العالمین تو ہماری اور اس کی سب کی مغفرت فرما اور اس کی قبر کو کشادہ کر دے اور قبر میں اس کو نور عطاء فرما۔

نوٹ: دعاء کے وقت ابوسلمہ کی جگہ میت کا نام لے یا اسے ذہن میں رکھے۔

۴۳۶ - سنن بیہقی میں صحیح جلیل القدر تابعی حضرت بکر بن عبداللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میت کی آنکھ جب بند کر دی جائے، تو ”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ کہا جائے (یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ ﷺ کے دین پر) اور جب اسے اٹھایا جائے تو ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کہے اور جب تک اٹھائے رہے تسبیح پڑھتا رہے۔ (۱)

(باب-۱۶)

میت کے پاس کیا کہنا چاہئے:

۴۳۷ - صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ وَالْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ“

جب تم مریض اور میت کے پاس آؤ تو صرف خیر ہی کی بات کرو، کیونکہ فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔

پھر فرماتی ہیں کہ جب ابوسلمہ کی وفات ہوئی تو میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور

عرض کیا اے اللہ کے رسول ابوسلمہ وفات پا چکے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا ”قولی“ کہو۔

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عَقْبِي حَسَنَةً“ (۲)

اے اللہ تو میری اور ان کی مغفرت فرما اور ان کے بعد مجھے اچھا صلہ دے۔
میں نے کہا تو اللہ نے مجھے ان سے بہتر صلہ رسول اللہ ﷺ کی صورت میں عطاء کیا۔
یہ روایت صحیح مسلم میں اسی طرح واردی ہوئی ہے اور ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

”إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ“

جب تم مریض یا میت کے پاس آؤ۔

ترمذی کی روایت میں اسی طرح شک کے ساتھ ہے کہ جب تم مریض یا میت کے پاس

آؤ تو یہ دعاء کہو۔ (۱)

اور ابوداؤد وغیرہ کی روایت میں بغیر شک کے صرف میت کا ذکر ہے، مریض کا ذکر نہیں

ہے کہ جب تم میت کے پاس آؤ تو اسی طرح دعاء کرو۔ (۲)

۳۳۸ - سنن ابی داؤد ابن ماجہ میں صحابی رسول حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اقْرَأْ وَ اَيَسْ عَلٰى مَوْتَاكُمْ“

اپنے وفات پانے والے پر سورہ یا سین پڑھو۔ (۳)

اس کی سند ضعیف ہے اس میں دو راوی مجہول ہیں، مگر امام ابوداؤد نے اس کی تضعیف

نہیں کی ہے (اس لئے ممکن ہے یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح یا حسن ہو)

ابن ابی داؤد نے ”عن مجالد عن الشعبي“ روایت کی ہے امام شعبی فرماتے ہیں کہ

انصار جب جمع ہوتے تو میت کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے مگر مجالد ضعیف ہیں۔

(۲) سنن ابی داؤد ۳۱۱۵

(۱) سنن ترمذی: ۹۷۷

(۳) سنن ابی داؤد ۱۳۱۲ ابن ماجہ ۱۳۳۸

(باب-۱۷)

جس کے گھر میں میت ہو گئی ہو اسے کیا کہنا چاہئے:

۴۳۹ - صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا:

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: [إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ اجْرِنِي فِي مُصِيبَتِي وَ اخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا]
إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَ اخْلِفْ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا.

جب کسی بندہ پر کوئی مصیبت آئے وہ پھر یہ کہے ”بیشک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ تو مجھے میری اس مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے بہتر بدل عطا فرما“ تو اللہ اس کی مصیبت میں اسے اجر دیتا اور اس کے بدلے اسے بہتر بدل عطاء فرماتا ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابوسلمہ کی وفات ہوئی تو میں نے اسی طرح کہا جس طرح رسول اللہ ﷺ نے مجھے کہنے کا حکم فرمایا تھا تو اللہ رب العزت نے مجھے ان سے بہتر یعنی رسول اللہ ﷺ کو عطاء کیا۔ (۱)

۴۴۰ - سنن ابی داؤد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ: [إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجْرِنِي فِيهَا وَ ابْدِلْنِي بِهَا
خَيْرًا مِنْهَا] (۲)

بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ میں اپنی مصیبت کا ثواب تیرے ہی پاس پاتا ہوں، اس لئے تو مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر صلہ دے۔

۳۳۱ - سنن ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِذَا مَاتَ عَبْدِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ قَبِضْتُمْ وَكَذَلِكَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ، نَعَمْ فَيَقُولُ: قَبِضْتُمْ ثَمْرَةً فَأُوَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ فَيَقُولُ: فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ابْنُ عَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ. (۱)

جب کسی بندے کا نو نہال بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچہ کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا پھول توڑ لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اس پر کیا کہا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اس نے الحمد لله کہا اور انا لله وانا اليه راجعون پڑھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندہ کیلئے جنت میں ایک گھر تعمیر کرو اور اس کا نام قصر حمد (بیت الحمد) رکھو۔

۳۳۲ - اسی مفہوم میں صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول

(۱) سنن ترمذی ۱۰۲۱، وقال الترمذی: حدیث حسن

اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَدِيِّ الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبِضْتُ

صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ أَحْتَسِبُهُ إِلَّا الْجَنَّةَ (۱)

میرے مومن بندے کی جزاء جنت کے سوا کچھ اور نہیں، جبکہ اہل دنیا میں اس کے سب سے چہیتے کی روح میں قبض کرتا اور وہ اس پر صبر کرتا اور ثواب کی امید رکھتا ہے۔

(باب-۱۸)

کسی عزیز کی وفات کی اطلاع ملنے پر کہی جانے والی دعاء:

۴۴۳ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الْمَوْتُ فَرَعٌ فَإِذَا بَلَغَ أَحَدَكُمْ وَفَاةٌ أَخِيهِ فَلْيَقُلْ

موت ایک دہشت کی چیز ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کی وفات کی خبر ملے تو اسے یوں کہنا چاہئے۔

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ

اَكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي الْمُحْسِنِينَ وَاجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ ،

وَاخْلُفْهُ فِي أَهْلِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا

بَعْدَهُ) (۲)

بیشک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بیشک اپنے رب ہی کی طرف ہم سب کو واپس ہونا ہے، اے اللہ تو اسے اپنے پاس محسنین میں لکھ دے، اور اس کا نامہ اعمالِ علیین میں رکھ کر

اس کے پسماندگان میں اس کا جانشین بنا، اور اس کے ثواب سے (صبر شکر پر) مجھے نہ محروم فرما اور نہ ہی اس کے بعد مجھے کسی فتنہ میں مبتلا کر۔

(باب-۱۹)

کسی دشمن اسلام کی موت کی خبر سن کر کیا کہنا چاہئے:

۴۴۴- ابن سنی کی کتاب میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ عزوجل نے ابو جہل کو قتل کر دیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ دِينَهُ. (۱)

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے اپنے بندے کی نصرت و مدد کی اور اپنے دین کو غلبہ بخشا۔

(باب-۱۰)

میت پر بین کرنے یا زمانہ جاہلیت کے کلمات کہنے کی حرمت:

ساری امت کا اجماع ہے کہ میت پر بین کرنا یا زمانہ جاہلیت کے کلمات کہنا یا تباہی، بربادی و ہلاکت کی دعائیں کرنا حرام ہے۔

۴۴۵- صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى

الْجَاهِلِيَّةِ“ (۲)

(۱) عمل الیوم لابن سنی، ۵۶۷، مسند احمد ۶/۱، ۴۰۶، حدیث غریب و اسناد صحیح

(۲) صحیح بخاری ۱۲۹۳، صحیح مسلم ۱۰۳.

وہ ہم میں سے نہیں جو چہروں پر تھپڑ مارے (مصیبت کے وقت)
گر بیان چاک کرے اور جاہلیت کے کلمات کہے۔

و شق الجبوب ، و دعاب دعویٰ میں واو کی جگہ مسلم کی روایت میں او ہے بمعنی ”یا“ ہے
۴۳۶ - صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
”صالقة“ حائلہ اور ”شاقہ“ سے براءت ظاہر کی ہے۔ (۱)

”صالقة“ اس عورت کو کہتے ہیں جو نوحہ خوانی کرتی اور باواز بلند رو کر بین کرتی ہے۔
”حائلہ“ اس عورت کو کہتے ہیں، جو مصیبت کے وقت اپنے سر کا بال موٹا لیتی ہے ”شاقہ“ اس
عورت کو کہتے ہیں مصیبت کے وقت اپنا کپڑا یا گریبان چاک کر لیتی ہے، یہ سب کا سب بالاتفاق
حرام ہے، اس کے علاوہ بالوں کو بکھیرنا، چہرے پر مارنا، رخساروں کو نوحہ کر زخمی کرنا، واویلا مچانا،
اور ہلاکت وغیرہ کی دعائیں کرنا بھی حرام ہیں۔

۴۳۷ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ نے ہم سے بیعت کے وقت عہد لیا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ (۲)

۴۳۸ - صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اِنَّتَنَ فِي النَّاسِ هَمَا بِهِمْ كُفِّرَ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ
عَلَى الْمَيِّتِ. (۳)

انسانوں میں دو چیزیں انکا کفر ہے، نسب میں الزام لگانا اور میت پر
نوحہ کرنا۔

۴۳۹ - ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدریؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی پر لعنت بھیجی ہے۔ (۴)

(۱) صحیح بخاری ۱۲۹۶، مسلم ۱۰۳، (۲) صحیح بخاری، ۱۳۰۶، صحیح مسلم ۹۳۶

(۳) سنن ابی داؤد ۳۱۲۸ ضعیف ہے (۴) صحیح مسلم ۶۷

نوحہ کیا ہے؟ نوحہ کہتے ہیں، میت کے محاسن کو عورتوں کا آواز بلند چیخ چیخ کر بیان کرنا یا اس کا مفہوم ہے، محاسن کو چیخ چیخ کر رونے کے ساتھ بیان کرنا، علماء کا کہنا ہے کہ حادثہ کے وقت رونے میں ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا حرام ہے، البتہ بغیر محاسن گنائے اور بغیر آواز و نوحہ میت پر رونا حرام نہیں۔

۲۵۰ - صحیح مسلم میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ہمراہ حضرت سعد بن عبادہؓ کی عیادت کی تو آپ ﷺ انہیں دیکھ کر رو پڑے، اور جب قوم نے آپ کو روتے دیکھا تو وہ سب کے سب رو پڑے، پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَلَا تَسْمَعُونَ إِنْ اللَّهُ لَا يُعَذِّبُ بَدْمَعِ الْعَيْنِ وَلَا يَحْزِنِ الْقَلْبُ
وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا أَوْ يَرْحَمُ وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ (۱)

کیا تم سن رہے ہو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو، یا قلب کی غمگینی کی وجہ سے عذاب نہیں دیتے، البتہ اس کی وجہ سے یا تو عذاب دیں گے، رحم فرمائیں گے، اور آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔

۲۵۱ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آپ کے نواسے کو جاکنی کی حالت میں لایا گیا، تو آپ کی آنکھیں ابل کر بہہ پڑیں، حضرت سعد نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ
اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءِ (۲)

یہ وہ رحمت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرنے والے بندوں ہی پر رحم فرماتے ہیں۔

۳۵۲ - صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیمؓ کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ جائفی کے عالم میں تھے، تو آپ ﷺ کی آنکھیں بے تحاشہ بہہ پڑیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف نے آپ سے عرض کیا، اور آپ بھی اللہ کے رسول؟ (یعنی آپ بھی اس طرح رورہے ہیں) تو آپ ﷺ نے فرمایا:

يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ، ثُمَّ اتَّبَعَهَا بِأَخْرَى فَقَالَ: إِنَّ الْعَيْنَ
تَذْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ: إِلَّا مَا يُرْضَى رَبَّنَا، وَأَنَا
بِفِرَاقِكَ يَا اِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونٌ. (۱)

اے ابن عوف یہ رحم ہے پھر اسی جملہ کو دوبارہ کہا، پھر فرمایا بیشک
آنکھ اشک بار ہیں اور ذل عمگین ہے اور ہم صرف وہی بات کہتے ہیں جو
اپنے رب کو پسند ہو، اور اے ابراہیم میں تیری جدائی سے عمگین ہوں۔

اسی جیسی بے شمار مشہور و معروف احادیث وارد ہوئی ہیں اور وہ صحیح احادیث جس میں مذکور
ہے "ان السمیت یعدب بیکوا و اهلہ علیہ کہ میت کو اہل میت کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا
جاتا ہے" یہ اپنے ظاہری مفہوم میں نہیں ہے، پھر اس کی تاویل میں علماء کے کئی اقوال ہیں، سب
سے مشہور و معروف قول یہ ہے کہ یہ اس وقت ہے جبکہ اس شخص نے مرنے سے پہلے اس کی وصیت
کی ہو۔۔۔ اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں ان سبھوں کو میں نے شرح الہمذب کے کتاب
الجنائز میں جمع کر دیا ہے۔ علماء شوافع کی رائے ہے کہ مرنے سے پہلے بھی رونا جائز ہے اور اس کی
وفات کے بعد بھی، لیکن وفات سے پہلے اس حدیث کے پیش نظر بہتر ہے۔ جس میں آپ ﷺ نے
فرمایا:

”فَاذَا وَجَبَتْ فَلَا تَبْكِينَ يَا كَيْتَةَ“

جب ثابت و متحقق ہو جائے، (یعنی موت واقع ہو جائے) تو کوئی

رونے والی ہرگز نہ روئے۔

امام شافعی اور دیگر علماء نے صراحت کی ہے کہ موت کے بعد رونا مکروہ متزیہی ہے حرام نہیں، اور اس حدیث کی تاویل کراہت سے کی ہے۔

(باب-۲۱)

تعزیت کا بیان:

۳۵۳ - سنن ترمذی و بیہقی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ عَزَى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ“ (۱)

جس کسی نے مصیب زدہ (جس کے یہاں میت ہوئی ہے) کی تعزیت کی تو اس کے لئے اتنا ہی ثواب ہے جتنا مصیبت زدہ کے لئے۔

۳۵۴ - ترمذی ہی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ عَزَى ثَكْلِي كُتِبَ لِي بِرُؤْدِ أَفِي الْجَنَّةِ“ (۲)

جس نے کسی ایسی عورت کی تعزیت کی جس کا بچہ مر گیا ہو تو اسے جنت میں ایک خاص کبیل اوڑھایا جائے گا۔

۳۵۵ - سنن ابی داؤد و نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ سے ایک طویل حدیث

مروی ہے، اس کے اندر مذکور ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہ زہرہؓ سے فرمایا:

مَا أَخْرَجَكَ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَتْ: آتَيْتُ أَهْلَ هَذَا

الْمَيْتِ فَتَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ مِيتَهُمْ أَوْ عَزَيْتُهُمْ بِهِ. (۳)

اے فاطمہ تمہیں کس ضرورت نے اپنے گھر سے باہر نکالا؟ حضرت

(۱) سنن ترمذی ۱۰۷۳، السنن الکبریٰ للبیہقی ۵۹۳، وقال الترمذی: اسنادہ ضعیف

(۲) سنن ترمذی ۱۰۷۶، وقال لیس اسنادہ بالقوی (۳) ابوداؤد ۳۱۳۳، نسائی ۱۸۸۰

فاطمہ نے جواب دیا، میں اس میت کے اہل خانہ کے پاس آئی تھی،
میں نے ان سے میت کے بارے میں ہمدردی کا اظہار کیا، یا یہ کہا کہ
میں نے ان سے ان کی میت کے بارے میں تعزیت کی وپرسہ دیا۔

۲۵۶ - سنن ابن ماجہ و بیہقی میں بسند حسن حضرت عمرو بن حزامؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ عَبْدٍ يُعْزِي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ
حُلَلِ الْكِرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (۱)

جب کوئی بندہ اپنے (مسلم) بھائی کی اس کی مصیبت میں تعزیت کرے تو
اللہ عزوجل قیامت کے روز اسے یقیناً زیور کرامت پہنائیں گے۔

یاد رکھیں کہ تعزیت درحقیقت میت کے اہل خانہ کو تسلی اور صبر دلانا ہے جس سے اس کے
حزن و ملال میں کمی ہو اور مصیبت کا بوجھ ہلکا پڑے، تعزیت اور پرسہ کرنا مستحب ہے کیونکہ یہ نیکی کا
حکم دینے اور برائی سے روکنے جیسے امور کو شامل ہے اور ”تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى“
(تقویٰ اور نیکی کے کام میں تعاون کرو) میں داخل ہے۔ تعزیت کے جواز و ثبوت پر یہ
سب سے بہتر دلیل ہے۔

۱/۲۵۶ - صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ“ (۲)

اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے دوسرے
بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔

تعزیت میت کو دفن کرنے سے پہلے بھی مستحب ہے اور دفن کرنے کے بعد بھی۔ علماء
فرماتے ہیں کہ تعزیت کا وقت موت کے وقت سے دفن کے تین دن بعد تک ہے اور یہ تین دن

بطور تحدید نہیں بلکہ بطور تقریب ہے۔ یہی قول علماء شوافع میں شیخ ابو محمد الجوینی کی ہے، علماء شوافع کی رائے ہے کہ تین دن کے بعد تعزیت مکروہ ہے کیونکہ تعزیت میت کے اہل خانہ کے قلبی تسکین کے لئے ہے، اور یہ سکون تین دن بعد عموماً خود ہی حاصل ہو جاتا ہے، لہذا اس کے بعد از سر نو حادثے کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں اور یہی جمہور علماء شوافع کا قول ہے۔

علماء شوافع میں سے ابو العباس بن القاص کی رائے ہے کہ تین دن کے بعد تعزیت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ کبھی بھی تعزیت کی جاسکتی ہے، خواہ ایک طویل زمانہ کیوں نہ گزر گیا ہو، اسی طرح کا قول امام حریمین نے بھی بعض علماء شوافع سے نقل کیا ہے۔ مگر میرے نزدیک پسندیدہ قول یہ ہے کہ تین دن کے بعد وہی صورتوں میں تعزیت کرنا درست ہے، جس کا استثناء جمہور علماء شوافع نے کیا ہے۔

اول یہ کہ تعزیت کرنا تین دن کے وقت موجود نہ ہو بلکہ کہیں گیا ہو اور اس کی واپسی تین دن گزر جانے کے بعد ہو رہی ہو، یا خود مبتلاء حوادث یعنی جس کی تعزیت کی جا رہی ہے وہی موجود نہ ہو اور اس کی واپسی اس مدت کے بعد ہو رہی ہو۔ علماء کی رائے ہے کہ تین دن کے قبل کے بہ نسبت تین دن کے بعد تعزیت کرنا زیادہ افضل ہے کیونکہ تین دن سے پہلے اہل خانہ تجھیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں، نیز یہ کہ جدائی کا احساس تین دن کے بعد زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ اس وقت ہے جبکہ اس کے اندر شدید بے صبری نہ ہو، اگر اس کے اندر بے صبری یا جزع و فزع شدید ہو تو تین دن سے پہلے ہی تعزیت کے ذریعہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرنی چاہئے۔

(فصل)

تعزیت ہر فرد کے لئے ہونی چاہئے:

مستحب ہے کہ تعزیت عام ہو جس میں تمام اہل خانہ، رشتہ دار چھوٹے بڑے، عورت مرد، سبھوں کو شامل کیا گیا ہو، البتہ اگر لڑکی نوخیز جوان ہو تو اسے صرف محرم لوگ ہی پر سہ دیں۔ علماء

فرماتے ہیں کہ نیک و صالحین کا ضعیفوں اور بچوں کو حادثہ برداشت کرنے کے لئے پرسہ دینا زیادہ ضروری ہے۔

(فصل)

تعزیت کیلئے مجلس بنا کر بیٹھنا:

خود امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر علماء شوافع فرماتے ہیں کہ تعزیت کیلئے مجلس بنا کر بیٹھنا مکروہ ہے، یعنی میت کے اہل خانہ کا کسی گھر میں اس طرح اجتماع کر کے بیٹھنا کہ تعزیت کرنے والے وہاں آئیں اور پرسہ دیں مناسب نہیں اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی ضروریات میں لگ جائیں، علامہ محاملی نے تصریح کی ہے کہ بیٹھنا خواہ مرد کا ہو یا عورتوں کا سب مکروہ ہے، اور خود امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی اس کی صراحت منقول ہے، مگر یہ کراہت تشریحی ہے، بشرطیکہ اس کے ساتھ کوئی اور بدعات و منکرات نہ ہو اگر اس کے ساتھ کچھ بدعات بھی ہوں جیسا کہ عموماً رواج ہے تو پھر یہ مجلس حرام اور سخت ترین برائی ہوگی کیونکہ:

۲/۲۵۶ صحیح حدیث میں ہے کہ :

”كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٍ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. (۱)

دین میں ہر گھڑی ہوئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

نسبہ: حضرت عائشہؓ سے سند صحیح ثابت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو جب حضرت زید بن حارثہ اور جعفر بن رواحہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ ﷺ مسجد میں بیٹھ گئے، آپ کے چہرے سے حزن و ملال کے آثار عیاں تھے، اور لوگ آپ کے پاس آ کر تعزیت کر رہے تھے۔

(فصل)

تعزیت کے الفاظ:

تعزیت کے الفاظ مخصوص و معین نہیں ہیں، جن الفاظ کے ذریعہ بھی تعزیت کرے مقصد

حاصل ہو جائے گا، مگر کچھ علماء کا خیال ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی مسلمان کی وفات پر پرسہ دے رہا ہے تو کہے:

”أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ“

اللہ تیرے اجر و ثواب کو بڑھائے، تیری عمدہ تسلی کرے اور تیرے

میت کی مغفرت فرمائے۔

اور اگر کسی مسلمان کو کسی کافر کی وفات پر پرسہ دے رہا ہے تو کہے:

”أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ“

اللہ تیرے اجر کو بڑھائے اور تیری عمدہ تسلی کرے۔

اور اگر کسی کافر کو کسی مسلمان کے مرنے پر پرسہ دے رہا ہے تو کہے:

”أَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ“

”اللہ تجھے اچھا صبر دے اور تیرے میت کی مغفرت فرمائے۔“

اور اگر کسی کافر کو کافر کی موت پر پرسہ دے رہا ہے تو کہے:

”أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْكَ“ اللہ تیرا جانین بنے۔

سب سے بہتر تعزیت وہ ہے جو کتب صحاح میں مروی ہے۔

۳۵۷ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی

صاحبزادیوں میں سے کسی نے رسول اللہ ﷺ کے پاس قاصد بھیج کر آپ کو بلوایا اور اطلاع دی کہ

ان کا کوئی بچہ یا لڑکا قریب المرگ ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِرْجِعْ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ

شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَمُرَّهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ“ (۱)

اس کے پاس واپس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ جو اللہ لے وہ اسی کا ہے، اور جو

وہ دے وہ بھی اسی کا ہے، اور اس کے نزدیک ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اس لئے اسے کہو کہ وہ صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔

یہ حدیث اسلام کا ایک اہم ستون ہے جو اصول دین اور اس کے جزئیات، آداب اسلامی، حوادث پر صبر و شکر اور ہر طرح کے رنج و الم اور دکھ درد کے بہت سے اہم نکات پر مشتمل ہے۔ ”جو اللہ لے وہ اسی کا ہے“ کا مفہوم یہ ہے کہ ساری کائنات اسی کی ملکیت ہے لہذا اس نے کوئی ایسی چیز نہیں لی جو اس کی نہ ہو بلکہ تمہاری ہو، اس نے تو صرف وہی چیز لی ہے جو بطور عاریت اس نے تمہارے پاس رکھی تھی، ”اور جو وہ دے وہ بھی اسی کا ہے“، کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطاء کیا وہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں بلکہ اسی اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے اور اس کے نزدیک ہر چیز کا وقت مقرر ہے اسی لئے اس پر جزع فزع کرتے یا شور مچانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے جس کی روح قبض کی گویا اس کا مقررہ وقت آ گیا تھا اور دنیاوی میعاد ختم ہو چکی تھی، اس لئے اس میں تقدیم یا تاخیر ناممکن ہے، اور جب یہ ساری باتیں ذہن میں آگئیں تو پھر پیش آمدہ مصیبت پر انسان صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، وباللہ التوفیق۔

۳۵۸ - سنن نسائی میں بسند حسن حضرت معاویہ بن قرہ بن ایاس اپنے والد رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعض صحابہ کو موجود نہ پا کر ان کے بارے میں دریافت کیا، لوگوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول ان کا لڑکا جسے آپ نے دیکھا تھا داعی اجل کو بلبلک کہہ گیا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے ملاقات کی اور لڑکے کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اس کی ہلاکت کی خبر دی اس پر آپ ﷺ نے اس کی تعزیت کی اور فرمایا:

يَا فُلَانُ أَيُّمَا كَمَا أَحَبَّ إِلَيْكَ ؟ أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمَرُكَ ،
أَوْ لَا تَأْتِي غَدًا أَبَا مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ
إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ ، قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى الْجَنَّةِ

فَيَنْفُتْ حُحُهَا لِي لَهْوًا أَحَبُّ إِلَيَّ ، قَالَ : فَذَلِكَ لَكَ . (۱)

اے فلاں: تمہیں ان باتوں میں سے کوئی بات زیادہ محبوب ہے آیا یہ کہ تم اس سے اپنی زندگی میں لطف اندوز ہو یا یہ کہ کل جب تم جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازہ پر پہنچو تو وہ تم سے آگے بڑھ کر تمہارے لئے جنت کا دروازہ کھلوائے اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی بلکہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ جنت میں مجھ سے آگے بڑھ کر میرے لئے اس کے دروازے کھولے، تو آپ ﷺ نے فرمایا تو وہ تمہارے لئے ایسا ہی ہے۔

امام بیہقی نے اپنی مخصوص سند سے امام شافعی رحمہ اللہ کے مناقب میں ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو خبر ملی کہ عبدالرحمن بن مہدی کے لڑکے کی وفات ہو گئی ہے جس پر عبدالرحمن حد سے زیادہ رنجیدہ اور دکھی ہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ نے انہیں لکھا کہ تم اپنے آپ کو اسی طرح پر سہ دو جس طرح دوسروں کو دیتے ہو اور خود اس عمل کو برا سمجھو جسے دوسروں کے لئے برا سمجھتے ہو، اور یاد رکھو کہ سب سے خطرناک مصیبت مسرت و اجر سے محرومی ہے اور جبکہ یہ دونوں معصیت و گناہ کے حصول کے ساتھ ہوتے پھر اور کتنا خطرناک ہوگا؟ اس لئے میرے بھائی محاسبہ سے پہلے اور تمہاری موت کی خبر عام ہونے سے پہلے، قریب آنے والی تقدیر کو قبول کرو، اللہ تمہیں مصائب کے وقت صبر دے اور ہمیں اور تمہیں صبر پر اجر و ثواب عطا فرمائے، پھر یہ شعر تحریر فرمایا:

إِنِّي مُعَزِّيكَ لَا أَنِّي عَلَى ثِقَةٍ

مِنَ الْبُخْلُودِ وَلَكِنْ سُنَّةَ الدِّينِ

میں تیری تعزیت کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ نہیں کہ کوئی

ہمیشہ باقی رہتا، بلکہ اس لئے کہ یہ شرعی طریقہ ہے۔

فَمَا الْمُعَزِّي بِسَاقٍ بَعْدَ مَيِّتِهِ

وَلَا الْمُعَزِّيَ وَلَوْ عَشَا إِلَى حِينٍ
 لہذا اس کی موت کے بعد جسے تعزیت کیا جا رہا ہے نہ وہ باقی
 رہنے والا ہے اور نہ ہی تعزیت کرنے والا خواہ یہ دونوں ایک
 مدت تک زندہ باقی رہیں۔

ایک شخص نے اپنے بعض بھائیوں کو اس کے لڑکے وفات پر تعزیت کرتے ہوئے لکھا ”
 بچہ اگر زندہ رہے تو اپنے والد کے لئے حزن و ملا اور فتنہ ہے اور جب اس سے آگے نکل جائے
 تو رحمت و انعام ہے۔“ (۱)

موسیٰ بن مہدی ابراہیم بن سالم کو ان کے لڑکے کی وفات پر تعزیت کرتے ہوئے کہتے
 ہیں ”اس نے تمہیں خوش کیا جبکہ وہ آزمائش و فتنہ تھا اور تمہیں غمگین کیا جبکہ وہ رحمت و انعام ہے۔“
 ایک شخص نے کسی کو تعزیت کرتے ہوئے یوں کہا ہے: ”تمہیں صبر و تقویٰ کا دامن تھامے
 رہنا چاہئے، کیونکہ اسی کے ذریعہ انسان اجر پاتا، اور اسی کی طرف ہر مصیبت کا مارا (مصیبت زدہ)
 رجوع کرتا ہے“

ایک شخص نے کسی کی تعزیت کرتے ہوئے کہا: ”کسی کا تمہارے لئے اجر و ثواب اور توشہ
 آخرت بنانا دنیا میں خوشی و مسرت ہونے سے بہتر ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو دفن کیا اور اس کی
 قبر کے پاس ہنس پڑے، لوگوں نے ان سے کہا، آپ اس کی قبر کے پاس ہنس رہے ہیں؟ انہوں
 نے جواب دیا کہ میں نے شیطان کو ذلیل و خوار اور رسوا کرنے کے لئے ایسا کیا۔
 ابن جریج رحمہ اللہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت کے وقت حصول اجر
 و ثواب کی امید سے اپنے کو تسلی نہ دے وہ گویا اس طرح چلا جس طرح چوپائے چلتے ہیں۔
 حمید اعرج سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیب رحمہ اللہ کو دیکھا کہ

(۱) دیکھیے: سنن بیہقی، ۲/۹۰۲-۹۱۱ مناقب الشافعی

انہوں نے اپنے بچے پر نظر ڈالا اور فرمایا: مجھے اس کے اندر ایک بہترین خصلت کا اندازہ ہو رہا ہے، لوگوں نے کہا وہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اگر وفات پائیگا تو میں ثواب کی امید پر صبر کرونگا۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ایک شخص اپنے لڑکے کی وفات پر بہت غمگین ہوا، اور حسن بصری سے اپنے غم کی شکایت کی تو حسن بصری نے فرمایا: کیا تیرا لڑکا تم سے کبھی اوجھل ہوتا تھا، اس نے کہا ہاں: اس کی غیر حاضری، حاضری سے زیادہ ہوتی تھی، تو حضرت حسن بصری نے فرمایا: تو پھر اسے غیر حاضر ہی رہنے دو کیونکہ ایسی غیر حاضری جس میں تیرے لئے اجر ہے، اس حاضری سے بہتر ہے، اس شخص نے عرض کیا اے ابوسعید (حسن بصری) آپ نے میرے اس غم کو ہلکا کر دیا جس کے اندر میں بچے کے فراق کی کیوجہ سے مبتلا تھا۔

میمون بن مہران سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیزؒ کی ان کے صاحبزادے عبدالملک رحمہ اللہ کی وفات پر تعزیت کی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، جو حادثہ عبدالملک کے ساتھ ہوا اس سے میں واقف تھا، اور جب اس کا ظہور ہوا تو میں نے اسے ناگوار نہیں سمجھا۔

بشر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے صاحبزادے عبدالملک کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے اور بولے، میرے بچے اللہ تم پر رحم فرمائے، تو پیدائش کے وقت باعث مسرت تھا، جب پلا بڑھا تو فرمانبردار تھا، اور کیا ہی بہتر تھا کہ جب میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا تو تو نے اس پر لبیک کہا۔

اور مسلمہ سے مروی ہے کہ جب عبدالملک بن عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ کا انتقال ہوا تو والد بزرگوار نے چہرہ سے کپڑا ہٹایا، اور بولے میرے بچے: اللہ تم پر رحم فرمائے، جب مجھے تیری خوشخبری دی گئی تو میں مسرور تھا، تو بڑا ہوا تو میں تم سے خوش تھا، اور میرے ساتھ تیری رفاقت کے مسرتوں کی گھڑی اس وقت کی مسرت سے زیادہ نہیں، کیونکہ بخدا تو اپنے والد کو جنت میں بلائے گا۔

ابوالحسن مدائنی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے لڑکے کے پاس تشریف لے گئے جبکہ لڑکا سخت تکلیف میں مبتلا تھا، اور بولے میرے بچے، تم اپنے کو کیسا پاتے ہو، لڑکے نے جواب دیا، میں اپنے کو حق پر پاتا ہوں، حضرت عمر نے جواب دیا تمہارا میرے میزانِ حسنات میں ہونا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں تمہارے میزان میں ہوں؟ لڑکے نے جواب دیا ابا جان: آپ کی محبوب و پسندیدہ چیز مجھے اپنی محبوب شئی سے زیادہ محبوب ہے۔

جویریہ بن اسماء رحمہ اللہ اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ تین بھائی معرکہ کستر میں شریک ہوئے اور شہید کر دیئے گئے، ان کی والدہ کسی ضرورت سے بازار گئی تو ان کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو اس معرکہ میں شریک تھا، انہوں نے اس سے اپنے لڑکوں کے حالات دریافت کئے اس نے جواب میں کہا کہ وہ سب کے سب شہید ہو چکے ہیں، عورت نے کہا، آگے بڑھتے ہوئے یا پیٹھ پھیرتے ہوئے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ پیش قدمی کرتے ہوئے، تو عورت نے کہا: "الْحَمْدُ لِلَّهِ نَالُوا الْفَوْزَ وَحَاطُوا الدَّمَارَ" تمام تر نفیس اللہ ہی کے لئے ہیں، اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور خاندان کی حفاظت کی۔

نوٹ: "کستر" خوزستان کا بڑا شہر ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب کے زیر قیادت شہر فتح ہوا "ذمار" اہل خانہ یا ایسے اشخاص کو کہتے تھے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہو اور حق بنتا ہو "حاط" حفاظت و رعایت اور نگہداشت کے معنی میں ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے صاحبزادے کی وفات ہوئی تو انہوں نے یہ اشعار کہے:

وَمَا الدُّهْرُ إِلَّا هَكَذَا فَاصْطَبِرْ لِي

رَزِيئَةُ مَالٍ أَوْ فِرَاقِ حَيِّبٍ

زمانہ تو اسی طرح ہے، مال کی مصیبت یا محبوب کی جدائی، لہذا

اس پر صبر کریں۔

ابوالحسن مدائنی فرماتے ہیں کہ عبید اللہ بن حسن کے والد یعنی حسن کا جب انتقال ہوا تو

عبید اللہ اس وقت بصرہ کے قاضی اور گورنر تھے، اس لئے تعزیت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان لوگوں نے ایک تدبیر ڈھونڈھی جس سے اندازہ ہو کہ ان کے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو نہیں؟ اور وہ جزع و فزع کرنے والے تو نہیں، پھر ان سبھوں کا اتفاق ہوا کہ عام حالات میں وہ جو کچھ کیا کرتے تھے اور اس میں فرق آگیا ہے اور وہ اس میں سے کسی ایک کو ترک کر رہے ہیں تو گویا وہ بے صبرے اور جزع و فزع کرنے والے ہیں، ورنہ نہیں۔

اس باب میں سلف صالحین کے اقوال بکثرت موجود ہیں، میں نے یہ چند کلمات محض اس گوشہ کی تشنگی دور کرنے کے لئے بطور اشارہ لکھ دیا ہے۔
(فصل)

عہد اسلام میں طاعون پھیلنے کا ذکر :

اسے یہاں ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مصائب و آزمائش کے وقت اسے برداشت کرنے اور اس پر صبر کرنے کی کوشش ہونی چاہئے، انسانی مصائب جو پہلے آئے ہیں، اس کی بنسبت موجودہ دور کے مصائب معمولی و کمتر ہیں۔ ابوالحسن مدائنی فرماتے ہیں کہ عہد اسلام میں مشہور طاعون کی وباء پانچ ہیں: (۱) طاعون شہرہ، جو شہر مدائن میں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ۶ھ میں پھیلا۔ (۲) طاعون عمواس جو حضرت عمر بن الخطابؓ کے دور خلافت میں ملک شام میں آیا، جس میں پچیس ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ (۳) تیسرا حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شوال ۶۹ھ کو آیا، جس میں تین دنوں تک ہر روز ستر ستر ہزار اموات ہوتی تھیں، اسی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تراسی (۸۳) صاحبزادے (بعض حضرات نے تہتر (۷۳) ذکر کیا ہے) اور حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر کے چالیس صاحبزادے لقمہ اجل بنے۔ (۴) چوتھا طاعون نھیات ہے جو شوال سنہ ستاسی (۸۷) ہجری کو آیا (۵) اس کے بعد ایک اور طاعون کی وباء رجب ۱۳۱ھ کو پھیلی، جس کی شدت رمضان میں اور بڑھ گئی ”مسربد“ کی گلیوں میں ہر روز ایک ہزار جنازے کا شمار کیا جاتا تھا، اس کا زور شوال میں پکا ہوا، اس کے علاوہ ۵۰ھ میں بھی ایک

طاعون کوفہ میں آیا تھا، جس میں حضرت منیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ (یہاں تک مدینہ کا قول ہے)

ابن قتیبہ نے بھی اپنی کتاب ”المعارف عن الاصلعی“ میں طاعون کی اتنی ہی تعداد بیان کی ہے، مگر اس میں کچھ کمی زیادتی ہے، طاعون قنیا (نوخیز لڑکیوں والا طاعون) کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اس کی ابتداء کنواری لڑکیوں سے بصرہ، کوفہ اور وسط شام میں ہوئی اسے طاعون اشراف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے اشراف جاں بحق ہوئے۔ اس کی بھی تصریح موجود ہے کہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں کبھی کوئی طاعون نہیں آیا۔ یہ وسیع باب ہے اس کے اندر میں جس قدر ذکر کر دیا اہل غفلت کو متنبہ کرنے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے، اس کی تفصیل میں نے شرح مسلم کے شروع میں وضاحت کے ساتھ کی ہے، قلیراجع، وباللہ التوفیق۔

(باب-۲۲)

موت کی اطلاع دینے یا اعلان عام کرنے کا حکم:

میت کے اہل خانہ ورشتہ داروں کو موت کی اطلاع دینا جائز و درست اور ڈھنڈھورا پیٹنا مکروہ ہے۔

۳۵۹ - ترمذی وابن ماجہ میں حضرت حذیفہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میری اطلاع کسی کو مت دی جائے، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ تشہیر یا ڈھنڈورا پیٹنا نہ ہو جائے، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے تشہیر کرنے یا ڈھنڈورا پیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

۳۶۰ - ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ فَإِنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ. (۲)

(۱) سنن ترمذی ۹۸۶، وسنن ابن ماجہ ۱۲۷۶ او قال الترمذی حدیث حسن صحیح (۲) سنن ترمذی ۹۸۴

خبردار کہ موت کا ڈھنڈھورا پیٹو، کیونکہ اس طرح اس کی تشہیر کرنا جاہلیت کا کام ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی دوسری روایت بھی اسی طرح ہے مگر وہ مرسل ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ غیر مرفوع روایت مرفوع کے بہ نسبت زیادہ راجح ہے، مگر انہوں نے دونوں کی تضعیف کی ہے۔ (۱)

۳۶۱ - صحیح بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کے موت کی اطلاع تمام صحابہ کو دی۔ (۲)

۳۶۲ - صحیحین ہی میں مروی ہے کہ ایک میت کی جب رات میں تدفین کر دی گئی، اور آپ ﷺ کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی تو آپ نے فرمایا: أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ "تم لوگوں نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟"۔ (۳)

محققین علماء کی رائے میں میت کے اہل خانہ اور رشتہ داروں و احباب کو اس حدیث کی روشنی میں خبر کرنا مستحب ہے، ان لوگوں کا خیال ہے کہ جس اعلان و اشتہار سے منع کیا گیا ہے، وہ دراصل زمانہ جاہلیت کے طریقہ پر اعلان کرنا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ جب کسی اشراف کی موت ہوتی تو وہ ایک سوار کو مختلف قبیلوں میں روانہ کرتے اور وہ ہر قبیلہ میں جا کر ہائے فلاں ہائے عرب جیسے کلمات کے ذریعہ اس کی موت کا اعلان کرتا کہ فلاں کی موت گویا پورے عرب قوم کی موت ہے اور اس اعلان کے ساتھ رونا پینٹنا اور شور و ہنگامہ بھی ہوا کرتا تھا۔

موت کی خبر مشہر کرنے اور آواز لگا کر اسے عام کرنے کے استحباب میں علماء شوافع میں سے "الحادوی" کے مؤلف نے دو قول نقل کئے ہیں، ایک یہ کہ میت خواہ اجنبی ہو یا قریبی ہر ایک کیلئے اعلان کرنا مستحب ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نمازی اور دعاء گوشریک ہو سکیں۔

(۲) دیکھئے صحیح بخاری: ۱۳۳۳، صحیح مسلم: ۹۵۱

(۱) سنن ترمذی: ۹۸۵

(۳) صحیح بخاری: ۱۳۳۷، صحیح مسلم: ۹۵۶

اور بعض حضرات کی رائے ہے کہ یہ استحباب اسی وقت ہے جبکہ میت اجنبی ہو، غیر اجنبی کسی بھی شخص کیلئے یہ مستحب نہیں۔

مگر میرے نزدیک صاحب و پسندیدہ قول یہ ہے کہ اعلان اگر محض آگاہ کرنے کی حد تک ہو تو یہ مطلق مستحب ہے، خواہ رشتہ دار ہو یا اجنبی تریبی ہو یا غیر۔

(باب - ۲۳)

میت کو غسل دیتے اور کفن پہناتے وقت کی دعاء:

میت کو غسل دیتے اور کفن پہناتے وقت بکثرت اللہ کا ذکر اور میت کے لئے دعاء کرنا مستحب ہے علماء فرماتے ہیں کہ غسل دینے والے کو اگر میت کے اندر کوئی اچھی اور خوشگوار بات نظر آئے مثلاً چہرہ کاروشن ہونا، یا جسم سے خوشبو آنا وغیرہ تو مستحب ہے کہ وہ اس کا ذکر دوسروں سے کرے، اور اگر اس کے اندر کوئی ناگوار بات نظر آئے مثلاً چہرہ کا سیاہ ہونا، جسم سے بدبو آنا، اعضاء جسمانی میں شدید تبدیلی یا شکل کا بدل جانا وغیرہ تو دوسروں سے اس کا بیان کرنا حرام ہے۔

۳۶۳- اس کی دلیل سنن ابی داؤد و ترمذی کی وہ حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَانِكُمْ وَكَفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ“ (۱)

اپنے میت کی خوبیاں بیان کرو، اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے پرہیز کرو۔

۳۶۴- امام بیہقی کی سنن کبریٰ میں غلام رسول ﷺ حضرت ابورافع سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَمَّ عَلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَوْتَةً“ (۲)

(۱) سنن ابی داؤد، ۳۹۰، و سنن ترمذی، ۱۰۱۶، و قال الترمذی حدیث ضعیف

(۲) سنن الکبریٰ للبیہقی ۳۹۵/۳

جس نے کسی میت کو غسل دیا پھر اس کی پردہ پوشی کی تو اللہ اس کی چالیس بار مغفرت فرمائیں گے۔

امام حاکم نے اس روایت کو اپنی کتاب ”المستدرک علی الصحیحین“ (۳۵۴/۱) میں نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے، جمہور علماء اس پردہ پوشی کے حکم کو مطلق رکھتے ہیں، جبکہ ابوالخیر یعنی صاحب ”البیان“ کا قول ہے کہ میت اگر بدعتی اور کھلے عام بدعت کرنے والا ہو، اور اس کے اندر کوئی ناگوار بات غسل دینے والے کو نظر آئے تو قیاس کا تقاضہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں بتادے تاکہ لوگ بدعات سے بچیں اور ڈریں۔

(باب-۲۳)

نماز جنازہ کی دعائیں :

نماز جنازہ، غسل دینا، کفن پہنانا، اور تدفین فرض کفایہ ہے اس پر تمام علماء کا اجماع و اتفاق ہے، نماز کی فرضیت کے ساقط ہونے کے بارے میں چار اقوال ہیں، زیادہ راجح قول جو کہ عام علماء کا اختیار کردہ مسلک ہے، یہ ہے کہ ایک شخص کے نماز پڑھ لینے سے فرض ساقط ہو جائے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کم از کم دو افراد کی شرط ہوگی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ کم از کم تین کی شرط ہوگی۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ کم از کم چار آدمیوں کی شرط ہوگی، خواہ یہ لوگ باجماعت نماز ادا کریں یا انفرادی طور پر۔

اس نماز کی کیفیت (مسلک شافعی میں) یہ ہے کہ چار تکبیرات کہے اور یہ چاروں تکبیر ضروری ہیں، اگر ایک تکبیر بھی چھوٹ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر ایک تکبیر کا اضافہ کر دے تو نماز باطل ہوگی یا نہیں؟ اس میں شوافع کے دو قول ہیں، صحیح قول یہ ہے کہ باطل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مقتدی ہو اور امام پانچویں تکبیر کہہ لے اور اس کی یہ پانچویں تکبیر مفسدہ صلاۃ ہو تو مقتدی اس سے اسی طرح علاحدگی اختیار کرے جس طرح کہ پانچویں رکعت کے لئے امام کے کھڑے ہونے پر کی جاتی ہے، اور صحیح قول کے مطابق اگر یہ کہا جائے کہ پانچویں تکبیر نماز کو باطل

نہیں کرے گی تو مشہور صحیح قول کے مطابق مقتدی نہ اس سے علاحدہ ہو اور نہ ہی اس کی پیروی کرے۔

بعض علماء شوافع کا ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ مقتدی پانچویں تکبیر میں بھی امام کی پیروی کرے۔ مذہب صحیح کے مطابق اگر مقتدی امام کی پیروی کرے تو کیا وہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا انتظار کرے، یا انتظار کئے بغیر امام سے پہلے ہی سلام پھیر دے؟ اس میں شوافع کے دو قول ہیں، صحیح یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے۔ میں نے اس کی پوری تفصیل شرح وسط کے ساتھ ”شرح المہذب“ میں تحریر کر دی ہے۔ شوافع کے نزدیک ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا افضل ہے (احناف کے نزدیک ہاتھ نہ اٹھانا افضل ہے) تکبیر کا طریقہ، اس کے مستحبات اور اسے باطل کرنے والے امور و دیگر جزئیات وہی ہیں جو ”طریقہ نماز“ اور اس کی دعاء و اذکار کے بیان میں گذر چکا ہے۔

نماز جنازہ میں تکبیرات کے درمیان کہی جانے والی دعائیں اور اذکاریوں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھے (اور اس سے پہلے ثناء پڑھنا بھی مستحب ہے) اور دوسری تکبیر کے بعد رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام پڑھے۔ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعاء کرے کم از کم اتنا پڑھنا واجب ہے جس پر دعاء کا اطلاق ہو۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد کوئی ذکر ضروری نہیں، البتہ کچھ مستحبات ہیں جسے ہم انشاء اللہ آگے ذکر کریں گے۔

پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ سے پہلے ثناء و تعوذ پڑھنا (یعنی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الرَّحْمٰنُ اور اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) کہنا اور فاتحہ کے بعد سورت ملانا مستحب ہے یا نہیں؟ اس میں شوافع کے تین قول ہیں۔ ایک یہ کہ ثناء و تعوذ، اور کوئی سورت ملانا سب مستحب ہے، دوسرا یہ کہ اس میں سے کچھ بھی مستحب نہیں۔ اور تیسرا قول جو شوافع کے نزدیک سب سے راجح و درست ہے یہ ہے کہ تعوذ تو مستحب ہے مگر ثناء یا سورت کا ملانا مستحب نہیں، پھر تمام علماء شوافع کا اتفاق ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا مستحب ہے۔

ترک کرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ پر رو دو سلام بھیجنے کی متعدد احادیث سنن بیہقی میں موجود ہے، اختصار کے پیش نظر میں اسے یہاں نقل نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی تفصیل کا مقام کتب فقہ ہے، اور شرح مہذب میں میں نے اسے تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔

تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعاء کرنا واجب ہے اور کم سے کم اتنا ضروری ہے جس پر دعاء کا اطلاق ہو سکے، مثلاً ”رَحِمَهُ اللّٰهُ“ اللہ اس پر رحم کرے ”عَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ“ اللہ اس کی مغفرت فرمائے ”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ“ اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما ”اَرْحَمُهٗ“ اللہ تو اس پر رحم فرما۔ البتہ مستحب دعائیں وہ ہیں جو احادیث نبوی ﷺ اور آثار صحابہ میں وارد ہوئی ہیں۔ وہ دعائیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔

۴۶۶ - صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی کی نماز جنازہ پڑھائی تو میں آپ کی دعاؤں میں اتنا یاد رکھ سکا، آپ فرما رہے تھے:

”اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَاَرْحَمُهٗ وَعَافِهٖ وَاغْفِرْ عَنْهٗ ، وَاكْرِمْ نُزُلَهٗ
وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَآءِ وَالتَّلْحِجِ وَالبُودِ ، وَنَقِّهٖ مِنْ
الْخَطَايَا كَمَا تُنْقِى الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، وَابْدِ لَهٗ دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهٖ ،
وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ .“

اے اللہ تو اس کی مغفرت کر دے، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت دے، اور اس کی کریمانہ مہمانی کر اور اس کی قبر (مقام داخلہ) کو کشادہ کر دے، اور اسے پانی، برف اور اولوں سے دھو دے اور اسے گناہوں سے اسی طرح دھو کر پاک و صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور اسے اس کے دنیا کے گھر سے بہتر گھر، اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی یا شوہر سے بہتر

بیوی یا شوہر بدلہ میں عطاء فرما، اور اسے جنت میں داخل فرما دے اور قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ کے عذاب سے پناہ دے۔

حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں تمنا کرنے لگا کہ اسے کاش یہ میت میں ہی ہوتا۔ (۱)
مسلم کی ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے دفعہ فتنۃ القبر و عذاب القبر اور اسے قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ (۲)

۳۶۔ سنن ابی داؤد، ترمذی و بیہقی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی کی نماز جنازہ پڑھایا، اور آپ نے فرمایا:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرْنَا وَاَنْشَانَا
وَسَاهِبِنَا وَغَائِبِنَا ، اَللّٰهُمَّ مِنْ اَحْيَيْتَهُ ، مِنْ اَفْأَحْيِهِ عَلٰى
الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلٰى الْاِيْمَانِ ، اَللّٰهُمَّ لَا تَبْحِرْ مِنْنَا
اَجْرَةً وَّلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ . (۳)

اے اللہ تو ہمارے زندہ اور مردہ کو، چھوٹے اور بڑے کو مردوں اور عورتوں کو، حاضر و غائب کو بخش دے، الہی تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جس کو وفات دے اس کو ایمان پر وفات دے، الہی تو ہمیں اس پر صبر کرنے کے اجر سے محروم مت فرما، اور اس کے مرنے کے بعد ہمیں فتنہ میں مبتلا مت فرما (گمراہ مت کر)۔

سنن بیہقی وغیرہ میں حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے اور ترمذی میں ابو ابراہیم اشہل کی اپنے والد سے روایت ہے، ان کے والد صحابی ہیں اور رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

امام ترمذی فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری کے نزدیک، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا

(۲) صحیح مسلم: ۸۶۰

(۱) صحیح مسلم: ۱۹۶۳

(۳) سنن ابی داؤد: ۳۲۰۱، سنن ترمذی: ۱۰۲۳، سنن بیہقی: ۴۳، امام بخاری فرماتے ہیں: صحیح علی شرط الشیخین ۴۱

وَهَيِّسْنَا“ والی متعدد احادیث میں سب سے صحیح حدیث ابو ابراہیم اشہل کی ہے جو وہ روایت اپنے والد سے کرتے ہیں۔ مگر امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ اس باب میں سب سے صحیح حضرت عوف بن مالک کی روایت کردہ حدیث ہے۔ (۱)

ابوداؤد کی روایت میں اس طرح ہے ”فَإِخْبِہِ عَلَی الْإِیْمَانِ وَتَوَفَّہِ عَلَی الْإِسْلَامِ“ ایمان پر زندہ رکھو اور اسلام پر وفات دے، جبکہ اکثر کتب حدیث میں مشہور اس طرح ہے، فَإِخْبِہِ عَلَی الْإِسْلَامِ وَتَوَفَّہِ عَلَی الْإِیْمَانِ، اسلام پر زندہ رکھو اور ایمان پر وفات دے۔ (۲)

۳۶۸ - سنن ابی داؤد ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہتے سنا ”إِذَا صَلَّیْتُمْ عَلَی الْمَیِّتِ فَاخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ“ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لئے دعاء میں اخلاص پیدا کرو۔ (۳)

۳۶۹ - سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ ،
وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا
شُفَعَاءَ فَاخْفِوْهُ لَكَ (۴)

اے اللہ تو ہی اس کا رب ہے تو نے ہی اسے پیدا کیا، تو نے ہی اسے اسلام کی ہدایت دی تو نے ہی اس کی روح قبض کی تو ہی اس کے ظاہر و باطن (مخفی راز) کو زیادہ جانتا ہے، ہم سفارشی بن کر آئے ہیں، تو تو اس کی مغفرت فرما دے۔

(۲) ابوداؤد: ۳۲۰۱

(۱) بیہقی ۴/۳۷۳

(۳) سنن ابی داؤد: ۳۱۹۹، سنن ابن ماجہ: ۱۳۹، اسنادہ قوی

(۴) ابوداؤد: ۳۲۰۰، عمل الیوم للتسائی: ۲۶، نظیر ابی بن الدُّعَاء: ۱۸۰، حدیث حسن

۳۷۰ - سنن ابی داؤد ابن ماجہ میں حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی مسلمان شخص کی نماز جنازہ میں ہماری امامت کی تو میں نے آپ کو یہ کہتے سنا :

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانًا بِنَ فُلَانَةٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ ، فَفِيهِ
فِتْنَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ لِلَّهِمَّ
فَاعْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ (۱)

اے اللہ فلانہ کا بیٹا فلاں تیرے ذمہ (حفاظت) میں ہے اور تیری ہی پناہ کے سہارے پر ہے تو اسے قبر کی آزمائش اور نار جہنم کے عذاب سے بچا، تو اپنا وعدہ پورا کرنے والا اور تو ہی لائق حمد و ثناء ہے اے اللہ تو اس کی مغفرت کر دے اور اس پر رحم فرما، بے شک تو ہی بڑا مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے ان احادیث کے مجموعہ سے چین کر ایک دعاء کا انتخاب کیا ہے، جو اس طرح ہے :

اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ إِنَّ عَبْدَكَ خَرَجَ مِنْ رَوْحِ الدُّنْيَا
وَسَعَتِهَا وَمَحْبُوبُهُ وَأَحِبَّاءُ فِيهَا إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَمِمَّا هُوَ
لَا فِيهِ ، وَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ بِكَ
وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ وَأَصْبَحَ فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ ، وَأَنْتَ
عَنِي عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ شَفَعَاءَ لَهُ ،
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا وَفَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا
فَتَجَا وَرُغْنَهُ وَلَقَبْهُ بِرَحْمَتِكَ رِحْمَاكَ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

وَعَذَابُهُ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ حَنِيئِهِ،
وَلَقِّنْهُ بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَّى تَبْعَثَهُ إِلَى
جَنَّتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ“

اے اللہ یہ تیرا بندہ، تیرے بندے کا لڑکا ہے، دنیا کی آسائش و
وسعت سے نکلا ہے، اس کی محبوب چیزیں اور اس کے احباب ابھی دنیا
ہی میں ہیں، وہ دنیا سے نکل کر قبر کی تاریکی جو اسے ملنے والا ہے، میں
گیا ہے، وہ گواہی دیتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد ﷺ
تیرے بندے اور رسول ہیں، اور تو ہی اس سے زیادہ واقف ہے، اے
اللہ اس نے تیرے پاس قیام کیا اور مہمان بنا ہے، اور تو سب سے بہتر
مہمان نواز ہے، وہ تیری رحمت کا محتاج بنا ہوا ہے، جبکہ تو اسے عذاب
دینے سے بے نیاز ہے ہم آپ کے پاس لاپچی اور اس کے لئے
شفارشی بن کر آئے ہیں، اے اللہ اگر وہ نیکو کار ہے تو اس کے ثواب میں
اضافہ فرما اور اگر وہ خطا کار ہے تو اس سے عفو و درگزر فرما، اور اپنی رحمت
کے سہارے اسے اپنی رضامندی سے نواز اور قبر کی آزمائش اور اس کے
عذاب سے اس کی حفاظت فرما، اس کے لئے قبر کو کشادہ کر دے اور اس
کے پہلوؤں سے زمین کو دور ہٹا دے اور اپنی رحمت سے تو اسے اپنے
عذاب سے امن و سلامتی نصیب فرما، اپنی جنت میں داخلے کے لئے
دوبارہ اٹھانے تک، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے
والے۔

مختصر مزنی میں امام شافعی رحمہ اللہ کی دعاء کی یہ اصل عبارت ہے (دیکھئے: ۳۸) علماء
فرماتے ہیں کہ میت اگر نابالغ بچہ ہو تو اس کے والدین کے لئے دعاء کرتے ہوئے کہے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَهْمًا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَهْمًا ذُخْرًا وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُ
وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَيَّ قَلْبُوبِهِمَا وَلَا تَفْتِنَهُمَا بَعْدَهُ ،
وَلَا تَحْرِمْنَهُمَا أَجْرَهُ .

اے اللہ تو اس کو ان دونوں والدین کے لئے اس سے پہلے پہنچنے
والا اجر بنا اور اسے ان دونوں کے لئے توشہ آخرت اور ذخیرہ بنا اور اس
کے ذریعہ ان دونوں کے میزان حسنات کو وزنی بنا اور ان دونوں کے
دلوں میں صبر عطا فرما اور ان دونوں کو اس کے بعد آزمائش میں مت مبتلا
کرا اور ان دونوں کو اس کے صبر پر اجر سے مت محروم فرما۔

یہ وہ الفاظ ہیں جس کا تذکرہ علماء شوافع میں ابو عبد اللہ زبیری نے اپنی کتاب ”الکافی“ میں
کیا ہے دیگر علماء نے بھی اسی کے ہم معنی الفاظ ذکر کئے ہیں اور کہا ہے کہ اس کے ساتھ ”اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَيِّتِنَا“ والی پوری دعاء بھی کہے۔ علامہ زبیری فرماتے ہیں کہ میت اگر عورت ہو تو
یوں کہے: ”اللَّهُمَّ هَذِهِ امْتِكَ“ اے اللہ یہ تیری کنیز ہے، پھر باقی دعاء کہے واللہ اعلم۔ چوتھی
تکبیر کے بعد بالاتفاق کوئی ذکر یا دعاء واجب نہیں، البتہ بطور استحباب وہ دعاء کہ سکتا ہے جس کی
تصریح امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب البویطی میں کی ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد یوں کہے:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ“ اے اللہ تو مجھے اس کے صبر پر اجر سے مت

محروم فرما اور اس کے بعد مجھے آزمائش میں مت مبتلا فرما، یعنی گمراہ مت کرنا۔ علماء شوافع میں ابو علی
بن ابی ہریرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتدر میں چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعاء کیا کرتے تھے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ .

اے میرے پروردگار تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی
بھلائی عطا کر اور مجھے نارِ جہنم کے عذاب سے بچالے۔

مگر یہ امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول نہیں ہے، اگر کوئی اسے پڑھے تو بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ افضل ہونے میں وہی کافی ہے جو مصائب کے وقت پڑھنے کے بارے میں حضرت انسؓ کی حدیث میں آیا ہے۔

چوتھی تکبیر کے بعد دعاء پڑھنے پر اس روایت سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے، جو امام بیہقی کی سنن کبریٰ میں حضرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کی نماز جنازہ میں چار تکبیر کہا اور چوتھی تکبیر کے بعد پہلی دو تکبیر کے بقدر رکے رہے اور میت کے لئے دعاء استغفار کرتے رہے، پھر فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ اسی طرح کیا کرتے تھے، ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے چار تکبیر کہے اور چوتھی تکبیر کے بعد اتنی دیر رکے رہے کہ ہمیں خیال ہوا کہ پانچویں تکبیر بھی نہ کہیں، پھر اپنے دانسنے اور بائیں دونوں جانب سلام پھیرا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے جو کچھ رسول اللہ ﷺ کو کرتے دیکھا اس پر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کیا، یا یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ (۱)

(فصل)

نماز جنازہ میں سلام کا حکم:

جب تکبیرات اور دعائوں سے فارغ ہو تو دیگر تمام نمازوں کی طرح دونوں جانب سلام پھیرے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ابی اونی کی روایت کی تصریح ہے اور اس کے اندر بھی سلام کا حکم دیگر نمازوں ہی کی طرح ہے۔ یہی صحیح مذہب ہے مجھے اس کے حکم میں قدرے اختلاف ہے مگر چونکہ وہ غیر ضروری ہے اس لئے اس سے صرف نظر کرتا ہوں کیونکہ اسے یہاں بیان کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی گنجائش۔

اگر کوئی مسبوق دوران نماز آ کر امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو فوراً امام کے ساتھ تحریمہ

(۱) قال الحاکم ابو عبد اللہ ۳۶۱۰ ہذا حدیث صحیح

باندھ لے اور پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اسی ترتیب سے پڑھے۔ اگر اس نے پہلی تکبیر کہی اور اس کے ساتھ ہی امام نے چوتھی تکبیر کہہ دی اور اسے کچھ پڑھنے کا موقع نہ ملا تو سورہ فاتحہ یا دیگر دعائیں اس سے اسی طرح ساقط ہو جائیں گی جس طرح کہ مسبوق سے تمام نمازوں میں قراءت ساقط ہو جاتی ہے۔

اور اگر امام سلام پھیر دے جبکہ نماز جنازہ میں مسبوق کے لئے ابھی کچھ تکبیر کہنا باقی ہے تو مقتدی پہلے تکبیرات کو دعاؤں کی ترتیب کے ساتھ ادا کرے پھر سلام پھیرے، شوافع کے نزدیک یہی صحیح و مشہور مذہب ہے مگر مجھے اس سے قدرے اختلاف، میری رائے میں مقتدی مسبوق امام کے سلام پھیرنے کے بعد صرف تکبیرات پوری کرے دعاء نہ پڑھے۔

(باب-۲۵)

میت کو لیکر جاتے وقت کی دعاء :

میت کو قبرستان لیکر جانے والوں کے لئے مستحب ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، میت کے ساتھ جو ہونے والا ہے اس پر غور و فکر کریں، اس کے انجام اور جس دنیا میں وہ تھا اس کے ماحصل کا تصور کریں، اور اس بات پر غور کریں کہ یہی دنیا کی انتہاء اور دنیا والوں کا انجام ہے، اس وقت لایعنی اور بے فائدہ باتیں کرنے سے سخت پرہیز کریں، کیونکہ یہ غور و فکر اور ذکر و اذکار کا وقت ہے اس وقت غفلت، باہو و لعب اور لایعنی باتیں بری ہیں بے فائدہ ولا یعنی باتیں تو عام حالتوں میں بھی ممنوع ہے چہ جائے کہ اس طرح کے حالات ہوں۔

صحیح و راست بات جو سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے یہ ہے کہ جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے خاموش رہا جائے، قراءت قرآن و دعاء وغیرہ میں بھی آواز بلند نہ کیا جائے، اور اس کی حکمت بظاہر یہ ہے کہ خاموشی کے وقت ذہن یکسو ہو جاتا ہے، اور سنجیدگی سے جنازہ کے متعلق غور و فکر کیا جاسکتا ہے، اور اس وقت یہی مطلوب ہے۔

میری یہ مذکورہ بات ہی حق و صائب ہے اس سے اختلاف کرنے والوں کی کثرت سے

لوگوں کو دھوکہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہئے، ابوعلیٰ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بھی اس کے ہم معنی بات کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”ہدایت و سنت کا راستہ اختیار کرو، اس پر چلنے والوں کی قلت تمہارے

لئے نقصان دہ نہیں، اور گمراہی و ضلالت کے راستوں سے بچو،

ہلاک ہونے والوں (گمراہوں) کی کثرت سے تم دھوکہ مت کھاؤ“

سنن بیہقی کی روایت کردہ حدیث کا تقاضہ بھی وہی ہے جو میں نے ذکر کیا کہ دمشق وغیرہ

میں بعض جاہل لوگ جو جنازہ پر پہنچ کر اور گلے پھاڑ پھاڑ کر اور غیر مخارج سے الفاظ نکال کر

قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بالاجماع حرام ہے، اس کی قباحت و حرمت نیز قدرت کے باوجود

اس پر نکیر نہ کرنے والوں کے فسق کے بارے میں پوری وضاحت میں نے ”کتاب آداب القراءۃ

“میں کردی ہے فلیراجع واللہ اعلم.

(باب-۲۶)

جنازہ نظر آتے وقت کی دعاء:

جس کے پاس سے جنازہ گذرے یا اس کی نگاہ کسی جناہ پر پڑے تو اسے ”سُبْحَانَ

الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ“ (پاک ہے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ جسے کبھی موت نہیں آسکتی) کہنا

چاہئے، علماء شوافع میں امام ابوحنبلہ نے اپنی کتاب ”المغرب“ میں فرماتے ہیں: ایسے شخص کے لئے

مستحب ہے کہ دعاء کرے اور کہے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ“ (اللہ کے سوا کوئی

معبود نہیں جو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور جسے کبھی موت نہیں آتی) اس وقت میت کے لئے

دعاء کرنا اور اگر قابل تعریف ہو تو خیر کے ذریعہ اس کی تعریف کرنا بھی مستحب ہے بشرطیکہ تعریف و

توصیف بے تکی و بے جا نہ ہو۔

(باب-۲۷)

میت کو قبر میں اتارنے والوں کی دعاء:

۴۷۱ - سنن ابی داؤد و ترمذی و بیہقی وغیرہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے:

”بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ“ - صلی اللہ علیہ وسلم - (۱)
اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ ﷺ کی سنت و ملت پر (ہم اس کو دفن کرتے ہیں)

امام شافعی اور علماء شوافع رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ میت کے لئے دعاء کرنا بھی مستحب ہے — سب سے عمدہ دعاء وہ ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ کے الفاظ میں مختصر المرئی صفحہ (۳۹) کے اندر مذکور ہے انام شافعی فرماتے ہیں کہ میت کو قبر میں رکھنے والے حضرات یہ دعاء کریں:

اللَّهُمَّ اسَلِّمِ إِلَيْكَ الْأَشْحَاءَ مِنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَقَرَاتِيهِ وَأَخَوَانِيهِ
وَفَارِقِي مَنْ كَانَ يُحِبُّهُ قُرْبَةً وَخَرَجَ مِنْ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْحَيَاةِ
إِلَى ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَضِيْقِهِ ، وَنَزَلَ بِكَ ، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ،
إِنْ عَاقَبْتَهُ فَبِذَنْبٍ وَإِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَأَنْتَ أَهْلُ الْعَفْوِ أَنْتَ غَنِيٌّ
عَنْ عَذَابِهِ وَهُوَ فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ اشْكُرْ حَسَنَتَهُ
وَاعْفِرْ سَيِّئَتَهُ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَاجْمَعْ لَهُ
بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ وَانْكفِهِ كُلَّ هَوْلٍ دُونَ
الْجَنَّةِ اللَّهُمَّ اخْلُفْهُ فِي تَرْكِيهِ فِي الْغَابِرِينَ وَارْفَعْهُ فِي عَلِيْنِ
وَعِزِّهِ عَلَيْهِ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

اے اللہ اس کے گھر والوں ، لڑکوں ، رشتہ داروں ، اور بھائیوں کے

(۱) سنن ابی داؤد: ۳۳۱۳، سنن ترمذی: ۱۰۳۶، سنن بیہقی: ۵۵۷۴، و تال الترمذی حدیث حسن

حریص لوگوں نے اسے سپرد کیا ہے وہ ان لوگوں سے جدا ہوا ہے جس کی قربت اسے محبوب تھی دنیا کی وسعت و زندگی سے نکل کر قبر کی تاریکی و تنگی میں پہنچا ہے وہ آپ کے پاس مہمان بنا ہے، اور آپ بہتر مہمان نواز ہیں، اگر آپ اسے سزا دیں تو اس کے گناہ کی وجہ سے ہوگا (یعنی مبنی بر انصاف ہوگا) اور اگر اسے معاف کر دیں تو آپ معاف کرنے کے سزاوار ہیں، آپ اس کو عذاب دینے سے بے نیاز ہیں، جبکہ وہ آپ کی رحمت کا محتاج ہے، اے اللہ آپ اس کی نیکیوں کا جزا دیں اور اس کی برائیوں کو معاف فرمادیں اور اسے قبر کے عذاب سے پناہ دیں اور اپنی رحمت سے اسے اپنے عذاب سے امان میں رکھیں اور جنت کے علاوہ ہر طرح کی گھبراہٹ اور خوف و دہشت سے اسے بے نیاز کر دیں، اے اللہ تو اس کے پسماندگان میں اس کا قائم مقام بن جا اور اس کا مرتبہ علیین میں بنا اور اے سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اس پر اپنے رحم کے فضل و احسان کا اعادہ فرما۔

(باب-۲۸)

تذقیین کے بعد کی دعاء:

قبر کے پاس موجود لوگوں کے لئے سنت ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے تین لپ مٹی سرہانے کی طرف سے ڈالیں، علماء فرماتے ہیں کہ پہلے لپ میں ”وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ“ (اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا) اور دوسرے میں ”وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ“ (اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے) اور تیسرے میں ”وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى“ (اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے) کہنا سنت ہے۔

تدفین سے فراغت کے بعد اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کئے جانے کے بقدر قبر کے پاس بیٹھنا مستحب ہے، اور جو لوگ وہاں اتنی دیر رکیں انہیں قرآن کی تلاوت، میت کے لئے دعاء، وعظ و نصیحت، بزرگان دین و صالحین کے واقعات و قصص اور دیگر امور خیر میں مشغول رہنا بہتر ہے۔

۴۷۲ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جنازہ میں بقیع غرقہ میں تھے، کہ نبی کریم ﷺ ہمارے درمیان تشریف لائے اور بیٹھ گئے ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی آپ جھکے اور چھڑی کو زمین پر مارے نے لگے، پھر ارشاد فرمایا:

”مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَقْعِدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعِدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ“

تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جہنم یا اس کا ٹھکانا جنت میں نہ لکھ دیا گیا ہو۔

صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول تو پھر ہم اپنے لکھے پر تکیہ نہ کر لیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اعملوا فكلُّ مُيسرٍ لما خُلِقَ له“

عمل کرو کیونکہ ہر عمل آسان بنانے والا ہے اسے جس کے لئے اسے

پیدا کیا گیا ہے۔ (۱)

۴۷۳ - صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا: جب تم لوگ مجھے دفن کرو تو میری قبر کے پاس اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے کے بقدر رکے رہو تا کہ میں تم لوگوں سے مانوس رہوں، اور دیکھوں کہ میں اپنے رب کے قاصد سے کیا مراجعت کرتا ہوں“ (۲)

۴۷۴- سنن ابی داؤد بیہقی میں بسند حسن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ ہوتے تو اس کے پاس ٹھہرتے اور فرماتے:

”أَسْتَغْفِرُ وَإِلَّا خِيْتُكُمْ وَسَأَلُوا لَهُ النَّبِيَّ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ“ (۱)

اپنے بھائی کے لئے دعاء مغفرت کرو اور ثابت قدمی کی درخواست کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔

امام شافعی اور حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اس جگہ قدرے قرآن کی تلاوت کرنا مستحب ہے اور اگر پورا قرآن پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔

۴۷۵- سنن بیہقی میں بسند حسن مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تدفین کے بعد قبر کے پاس سورہ بقرہ کے شروع کی چند آیتیں اور آخر کے آیتیں پڑھنا مستحب قرار دیتے ہیں۔ (۲)

(فصل)

میت کی تلقین کا حکم:

تدفین کے بعد میت کی تلقین جائز ہے یا نہیں؟ شوافع کی ایک بڑی جماعت اس کے مستحب ہونے کی قائل ہے قاضی حسین نے اپنی ”تعلیق“ میں اور ان کے شاگرد ابو سعد متولی نے اپنی کتاب ”التسمۃ“ میں نیز امام زہد ابوالفتح نصر بن ابراہیم المقدسی اور امام ابوالقاسم الرافعی وغیرہم نے اس کے مستحب ہونے کی صراحت کی ہے قاضی حسین نے علماء شوافع سے اس کا استحباب نقل کیا ہے۔

تلقین کے الفاظ کیا ہونے چاہئے؟ شیخ نصر فرماتے ہیں کہ جب تدفین سے فارغ ہو تو سر ہانے میں کھڑا ہوا رکھے:

يا فلان بن فلان اذکر العہد الذی خرجت علیہ من الدنیا

شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمداً
عبدہ ورسولہ وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث
من في القبور قل رضيت بالله وياً وبلاسلام ديناً ومحمد
صلى الله عليه وسلم نبياً، وبالکعبة قبله وبالقرآن اماماً
وبالمسلمين اخواناً، ربى الله لا اله الا هو، وهو رب
العرش العظيم .

اے فلاں بن فلاں (یہاں اس کا نام لے) تو یاد کرو اس عہد و پیمانہ کو
جس کے ساتھ تو دنیا سے رخصت ہوا ہے، یعنی اس بات کی گواہی کہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں اور یہ کہ قیام
مت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یہ کہ قبر والوں کو دوبارہ
زندہ کریں گے تم کہو میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ ہی میرا رب
اسلام ہی میرا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور کعبہ میرا قبلہ اور
قرآن میرا امام (رہنما و مشعل راہ) اور تمام مسلمان میرے بھائی ہیں
اور میرا پروردگار اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عرش عظیم کا
رب ہے یہ شیخ نصر المقدسی کے الفاظ ہیں جو ان کی کتاب ”الہتدیب“
میں مذکور ہیں دیگر علماء کے الفاظ بھی اس طرح ہیں البتہ بعض کے الفاظ
اس کے برخلاف بھی ہیں۔

اس کے اندر یا فلاں بن فلاں ہے، مگر بعض لوگوں نے یا ”عبد اللہ بن امتہ اللہ“ اور بعضوں
نے یا ”عبد اللہ بن حواء“ اور بعضوں نے یا فلاں بن امتہ اللہ (اس کا نام لیکر) یا فلاں بن حواء کہا
ہے، مگر یہ سب کے سب ہم معنی الفاظ ہیں۔

امام ابو عمرو بن صلاح رحمۃ اللہ سے اس تلقین کی بابت دریافت کیا گیا تو انہوں نے

اپنے فتاویٰ میں جواب دیا کہ :

”تلقین کو ہم اختیار کرتے اور رسید عمل کرتے ہیں“ شوافع میں قرآسانی علماء کی ایک جماعت نے بھی اس تلقین کا ذکر کیا ہے، تلقین سے متعلق حضرت ابو امام رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث بھی ہے، مگر اس کی سند درست نہیں البتہ اس کی تائید دیگر شواہد اور اہل شام کے قدیم عمل سے ہوتی ہے۔ دودھ پیتے بچے کی تلقین کے بارے میں کوئی مستندات موجود نہیں اس لئے وہ ناقابل اعتبار ہے۔

میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ بچوں کے متعلق تلقین نہیں کیا جانا چاہئے، خواہ وہ دودھ پیتا ہوا ہو بڑا جب تک کہ وہ بالغ ہو کر اور معلق بگرنہ وفات پایا ہو۔

(باب - ۲۹)

نماز جنازہ پڑھانے یا تدفین سے متعلق وصیت :

میت کی وصیت کہ فلاں شخص ہی جنازہ کی نماز پڑھائے یا مخصوص طریقہ پر مخصوص جگہ میں دفن کیا جائے یا کفن وغیرہ سے متعلق کچھ وصیت کہ اس طرح کرے اور اس طرح نہ کرے جائز و درست ہے۔

۴۷۶ - صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئی جبکہ وہ بیمار تھے تو انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے کتنے کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا تھا؟ میں نے کہا، تین کپڑوں میں، تو وہ بولے، کونسے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی؟ وہ بولی، پیر کے دن، انہوں نے دریافت کیا، آج کونسا دن ہے؟ وہ بولیں، پیر کا دن ہے، وہ بولے، اب سے رات تک کی میری آرزو ہے۔ پھر انہوں نے اپنا کپڑا دکھا جس میں وہ بیمار پڑے تھے، اس میں زعفران کا اثر تھا، تو وہ بولے، میرا یہ کپڑا دھو دو، اور اس کے علاوہ اور دو کپڑوں کا اضافہ کر دو اور اسی میں مجھے کفن دو، میں نے کہا، یہ تو پرانا ہے، وہ

بولے، زندہ لوگ مردوں کے بہ نسبت نئے کے زیادہ حقدار ہیں یہ تو میت کے خون و پیپ کے لئے ہیں، پھر ان کی وفات منگل کی شام کو ہوئی، اور نماز فجر سے قبل تدفین عمل میں آئی۔ (۱)

۴۷۷- صحیح بخاری میں مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ جب زخمی کئے گئے، تو فرمایا، جب میری روح قبض کر لی جائے تو مجھے حضرت عائشہ کے پاس لیکر جاؤ اور انہیں سلسلہ کہو، اور ان سے عرض کرو کہ عمر اجازت چاہتا ہے، اگر وہ مجھے اجازت دیں تو مجھے وہاں (حضرت عائشہ والے مکان میں جہاں روضہ اطہر ہے) داخل کرو، اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں لوٹا کر (دفن کر دو) (۲)

۴۷۸- صحیح مسلم میں حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاصؓ سے مروی ہے کہ حضرت سعد نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

مجھے لحد میں دفن کرنا اور میری قبر کے ساتھ اینٹ کھڑی کر دینا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ (۳)

۴۷۹- صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن العاصؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت فرمایا:

”جب میری وفات ہو جائے تو میرے ساتھ نہ لوحہ کرنے والی جائے اور نہ آگ جائے، اور جب میں دفن کر دیا جاؤں تو مجھ پر تھوڑا تھوڑا مٹی پھینکو پھر میری قبر کے پاس اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے انسیت محسوس کرتا رہوں، اور دیکھوں کہ میں اپنے رب کے قاصد سے کیا مراجعت کرتا ہوں۔ (۴)

اس مفہوم کی ایک حدیث حضرت حذیفہؓ سے میت کے اہل خانہ کو موت کی اطلاع

(۲) صحیح بخاری : ۱۳۹۴

(۱) صحیح بخاری : ۱۳۸۷

(۳) صحیح مسلم : ۱۲۱

(۲) صحیح مسلم : ۹۶۶

دینے کے بیان میں گذر چکی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس طرح کی متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، مگر میں نے جس قدر ذکر کر دیا ہے (حصول مقصد کے لئے) وہی کافی ہے۔

میرا خیال ہے کہ میت کی وصیت کے بارے میں اس کی مکمل تقلید و اتباع مناسب نہیں، بلکہ اس کی وصیت کو اہل علم کے سامنے رکھا جائے، جو مباح و جائز ہو اس پر عمل کیا جائے، اور جو خلاف شرع و غیر مباح ہو اسے نظر انداز کر دیا جائے، اور میں اس کی چند مثالیں اس جگہ ذکر کر رہا ہوں۔

☆ اگر وصیت کرے کہ اسے اپنے شہر کے قبرستان میں فلاں مخصوص جگہ پہ دفن کیا جائے، اور وہ جگہ بزرگان دین و صالحین کی ہو اور خزانہ اولیاء ہو تو مناسب ہے کہ اس کی وصیت کا پاس رکھا جائے اور اسے نافذ کیا جائے، اور اگر وصیت کرے کہ اس کے جنازہ کی نماز اجنبی پڑھائے تو کیا کسی اجنبی کو نماز پڑھانے میں میت کے رشتہ داروں پر فوقیت دی جائیگی؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے؟ مذہب شافعی کا صحیح قول ہے کہ رشتہ دار مقدم اور اس کا پڑھنا افضل ہے، ہاں جس کے بارے میں وصیت کی گئی ہے وہ شخص اگر تقویٰ و پرہیزگاری علم و عمل اور اچھی شہرت کا حامل ہو تو میت کے قریبی رشتہ دار کے لئے مستحب ہے کہ وہ اس کے ہم پلہ اگر نہ ہوں تو حق میت کی رعایت کرتے ہوئے اسے اپنے اوپر ترجیح دیں۔

اور اگر وصیت کرے کہ اسے تابوت میں دفن کیا جائے تو اس کی وصیت ہرگز پوری نہ کی جائے گی الا اینکه زمین سخت یا گیلی و نم ہو، اور حد درجہ اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں اس کی وصیت پوری کی جاسکتی ہے، اور اسے کفن کی طرح اس کے اصل سرمایہ ہی سے تیار کیا جائیگا۔

نوٹ : وہ علاقہ جہاں سیلاب آتا ہو اور قبرستان زیر آب ہو، یا جہاں بارش کی کثرت ہو اور زمین کھودنے پر پانی آجاتا ہو، یا اس علاقہ میں ایسے جانور رہتے ہوں جو قہر گھوڑ کر لعش کی بے حرمتی کرتے اور اسے اپنی غذا بناتے ہوں، یا ایسی عورت کا جنازہ ہو جس کا کوئی محرم نہ ہو تو ان تمام صورتوں میں اس کی وصیت بلا کراہت نافذ کی جائیگی۔

اور اگر وصیت کرے کہ مرنے کے بعد اسے کسی دوسرے شہر منتقل کیا جائے تو اس کی وصیت پوری نہیں کی جائیگی، کیونکہ وفات کے بعد نعش کو کسی دوسرے شہر منتقل کرنا مذہب شافعی کے مختلف اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق حرام ہے، یہ اکثر محققین علماء شوافع کا قول ہے، بعض علماء شوافع نے اسے مکروہ قرار دیا ہے (احناف کے نزدیک میں مکروہ ہے) امام شافعی فرماتے ہیں کہ نعش کو دوسرے شہر منتقل کرنا درست نہیں الا اینکه مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ یا بیت المقدس سے قریب ہو تو وہاں حصول برکت کے خاطر منتقل کیا جاسکتا ہے اور اگر وصیت کرے کہ اس لحاف کے اندر یا ساتابان کے نیچے یا اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ کر دفن کیا جائے تو اس کی وصیت پوری نہیں کی جائیگی۔

اگر وصیت کرے کہ اسے ریشمی کپڑوں کے کفن میں دفن کیا جائے تو چونکہ ریشمی کپڑا مردوں کے لئے حرام اور عورتوں کے لئے مکروہ ہے اس لئے اس کی وصیت نافذ نہیں کی جائیگی (واضح ہو کہ ہجرے مرد کے حکم میں ہے) اگر کفن کی مشروع تعداد سے زیادہ میں کفن دینے یا ایسے کپڑے میں کفن دینے کی وصیت کرے جس سے ستر نہ ڈھنکتا ہو تو اس کی وصیت پوری نہیں کی جائیگی۔

اگر وصیت کرے کہ اس کے قبر کے پاس قرآن کی تلاوت کی جائے یا اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے یا اس کے علاوہ کسی نیک کام کی وصیت کرے تو اسے اس شرط کے ساتھ ردو بعمل لایا جائیگا کہ اس کے ساتھ کوئی منوعات شرعیہ کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو، اگر وصیت کرے کہ قبرستان میں اس کی قبر کے پاس سبیل لگایا جائے یا مسلمانوں کے لئے سبیل تعمیر کیا جائے تو اس کی وصیت پوری نہیں کی جائیگی، بلکہ ایسا کرنا حرام ہوگا۔

(باب-۳۰)

میت کے لئے ایصالِ ثواب مفید ہے یا نہیں؟

تمام علماء کا اجماع و اتفاق ہے کہ میت کے لئے دعاء مفید و نافع ہے اور اس کا ثواب اس کو پہنچتا

ہے، اس کی دلیل باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

”وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ“، (الحشر: ۱۰)

اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں اور کہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو

ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا

چکے ہیں۔

اس کے علاوہ بھی بے شمار مشہور آیات قرآنی اس مفہوم کی ہیں، اس مفہوم کی احادیث

بھی بیشمار ہیں، مثلاً:

۳۸۰۔ مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا لِمَا نَعْلَمُ بِقِيَعِ الْعُرُقِ قَدْ“ (۱)

اے اللہ تو بقیع عرقد والوں کو بخش دے،

۳۸۱۔ یا یہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا“، (۲)

اے اللہ تو ہمارے زندوں اور مردوں سب کو بخش دے۔

قرآن پڑھنے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، شوافع کا

مشہور قول اور ایک جماعت کا خیال ہے کہ اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا جبکہ احناف اور امام احمد

بن حنبل اور علماء کی ایک بڑی جماعت اس بات کی قائل ہے کہ اس کا ثواب اسے پہنچتا ہے، اس

لئے قرآن پڑھنے والوں کو اختیار ہے کہ وہ قرآن پڑھ کر یوں کہے:

”اے اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں شخص کو

پہنچا دے، میت کی اچھائی و محاسن کا ذکر اور اس کی تعریف تو صیغ کرنا

مستحب ہے۔“

۲۸۲ - صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ لوگ ایک جنازہ کے پاس سے گذرے تو اس کی نیکیوں اور خیر کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی تعریف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”وَجَبَّتْ“ واجب ہوگئی، پھر ایک دوسرے جنازہ کے پاس سے گذرہوا تو لوگوں میں اس کی برائیوں کا ذکر کیا، تو رسول ﷺ نے (اس کے لئے بھی) فرمایا ”وَجَبَّتْ“ واجب ہوگئی، حضرت عمر بن الخطابؓ نے عرض کیا ”ما وجبت؟“ کیا چیز واجب ہوگئی، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

هَذَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرٌ أَفْوَجَبَّتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَهَذَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

شَرًّا أَفْوَجَبَّتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ“ (۱)

تم نے اسے خیر کے ساتھ یاد کیا تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی، اور

اسے اس کے شر کے ساتھ ذکر کیا تو اس کے لئے جہنم واجب ہوگئی، تم

لوگ روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔

۲۸۳ - صحیح بخاری میں ابواسود سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ آیا تو حضرت

عمر بن الخطابؓ کے پاس آکر بیٹھا ان کے پاس سے ایک جنازہ گذرا تو اس کی نیکیوں کے ذکر کے

ساتھ لوگوں نے اس کی تعریف کی تو حضرت عمرؓ نے فرمایا، جنت واجب ہوگئی، پھر دوسرا جنازہ گذرا

تو لوگوں نے اس کی نیکیوں کے ذریعہ اس کی بھی تعریف کی تو حضرت عمر نے فرمایا ”

وجبت“ واجب ہوگئی۔ پھر تیسرا جنازہ گذرا تو لوگوں نے اس کی برائیوں کا ذکر کیا تو حضرت عمرؓ

نے فرمایا ”وجبت“ واجب ہوگئی، ابواسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمرؓ سے دریافت کیا

اے امیر المؤمنین کیا واجب ہوگئی؟ تو حضرت عمر گویا ہوئے کہ میں نے اس وقت اس طرح کہا

جس طرح رسول اللہ ﷺ نے کہا تھا:

أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، فَقُلْنَا

وَتَلَاثَةٌ؟ قَالَ: وَتَلَاثَةٌ، فَقُلْنَا: وَإِنَّمَا؟ قَالَ: إِنَّمَا، ثُمَّ لَمْ
نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ. (۱)

جس کسی مسلمان کے خیر و نیکی کی گواہی چار لوگ دیدیں اسے جنت میں
داخل کر لیتا ہے، (حضرت عمر فرماتے ہیں) ہم لوگوں نے عرض کیا اور
تین لوگ گواہی دیدیں تو؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا، اگر تین گواہی دیدی تو
بھی، پھر ہم لوگوں نے عرض کیا، اگر دو لوگ گواہی دیدیں تو؟ تو آپ
ﷺ نے فرمایا، دو دیدیں تو بھی، (حضرت عمر فرماتے ہیں) پھر ہم نے
آپ ﷺ سے ایک کے بارے میں سوال نہیں کیا

اس کے علاوہ بے شمار احادیث اس مفہوم کی وارد ہوتی ہیں؟

(باب-۳۱)

مردوں کو گالیاں دینے کی ممانعت:

۳۸۳- صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا:

”لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَآتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا“ (۲)

مردوں کو گالیاں مت دو کیونکہ جو (عمل) اس نے آگے پیش کیا تھا اس
کی طرف وہ کوچ کر چکا ہے۔

۱/۳۸۳- سنن ابی داؤد ترمذی میں بسند ضعیف حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”أَذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَن مَسَاوِيهِمْ“ (۳)

(۲) بخاری: ۱۳۹۳

(۱) صحیح بخاری: ۱۳۹۸

(۳) سنن ابی داؤد: ۳۹۰، ترمذی: ۱۰۱۹، حدیث ضعیف

اپنے مردوں کو اسکی خوبیوں سے یاد کرو اور انکی برائیوں سے پرہیز کرو، میری رائے میں اگر وفات پانے والا مسلمان اپنے فسق کو ظاہر کر نیوالا نہ ہو تو اسے گالیاں دینا حرام ہے، ہاں اگر کر نیوالا کافر یا کھلے عام فسق کرنے والا تھا تو اس کے بارے میں سلف صالحین کی رائے مختلف ہے، اور اس سے متعلق کئی متعارض تصریحات آئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو گالیاں دینے کی مخالفت نص صریح سے ثابت ہے جبکہ اوپر حضرت عائشہ و ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں مذکور ہے۔

البتہ فتنہ پروروں کو گالیاں دینے یا اس کی بدبختی ذکر کرنے کی اجازت سے متعلق بہت کچھ وارد ہوا ہے۔ مثلاً اللہ رب العزت کا اپنی کتاب محکوم میں ان لوگوں فاسقوں کے واقعات کا تذکرہ کرنا اور مومنین کو اس کی تلاوت و اشاعت کا حکم دینا، صحیح احادیث میں بھی اس طرح کے تذکرے پیش آئے ہیں، مثلاً وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن لُحی کا تذکرہ کیا ہے، (یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے) یا ابو رعال کا تذکرہ جو حجاج بیت اللہ کو لوٹنا اور اپنی مزی ہوئی لاشی کے سہارے ڈاکہ زنی کرتا تھا، یا ابن جدعان وغیرہ کے واقعات۔

فیوت : ابن جرعان قبیلہ بنی تمیم بن مرہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام عبد اللہ تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ دار یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کا چچا زاد بھائی ہے، زمانہ جاہلیت میں وہ قریش کا بڑا مالدار اور مہمان نواز شخص تھا اس نے مہمانوں کے لئے اتنا بڑا دیگر رکھ رکھا تھا جس پر سڑھی کے ذریعہ چڑھا جاتا تھا صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ابن جدعان عہد جاہلیت میں صلہ رحمی کرنے والا اور غریبوں کو کھانا کھلانے والا تھا، تو کیا اس کا یہ عمل اس کے لئے مفید کار آمد ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں ”انہ لم یقل یومأربا غفر لی خطیبتی یوم الدین“ (اس نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار تو میری خطاؤں کو قیامت کے روز بخش دے) (رواہ مسلم) یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی حضرت عائشہ سے دوسری سند سے مروی ہے جس نے اس کا اضافہ ہے، یقری الضعیف ویفک الہانی، ویحسن الجوار، وہ فرمان

نوازی کرتا قیدیوں کو رہائی دلاتا اور پڑوسیوں سے بہتر سلوک کیا کرتا تھا، ابو یعلیٰ کی روایت میں اس کا بھی اضافہ ہے ”ویسکف الاذی فتاب علیہ“ وہ تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرتا تھا کیا، اس پر اسے ثواب ملے گا؟ الخ۔

اور اسی میں سے بخاری کی وہ حدیث ہے جس کا تذکرہ اوپر ہوا کہ ایک شخص کا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائیوں کا تذکرہ کیا جس پر آپ ﷺ نے ”وصیت“ تو کہا مگر اس پر نکیر نہیں کی۔ ان متعارض نصوص و احادیث اس کی جمع تطبیق میں علماء کے مختلف اقوال ہیں سب سے درست و صائب قول یہ ہے کہ اموات کفار کی برائیوں کا ذکر کرنا جائز ہے، اس طرح مسلمانوں کا وہ فوت شدہ شخص جو کھلے عام فسق و بدعت میں مبتلا رہا ہو اور مصلحت اس بات کی متقاضی ہو کہ اس کی برائیوں کا تذکرہ کیا جائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور برائیوں سے اجتناب کریں اس کی باتوں سے نفرت اور اس کی تقلید و پیروی سے پرہیز کریں تو اس کی برائی کرنا جائز ہے اور اگر یہ مصلحت نہ ہو تو جائز نہیں۔

اسی تفصیل کو ان مختلف احادیث پر منطبق کیا جاسکتا ہے جو اس بات میں متعارض نظر آتی ہیں، تمام علماء اسلام کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ دین کی حفاظت و صیانت کے خاطر مجروح پر جرح کرنا درست ہے۔ واللہ اعلم

(باب-۳۲)

زیارت قبور کی دعاء

۲۸۵- صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی باری جس

رات ان کے پاس ہوتی تو آپ ﷺ ہمیشہ اخیر شب میں بقیع غرقہ کو جاتے اور فرماتے :

أَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَنَا كُمْ مَاتُوا عَدُونَ، غَدَاً

مُؤَجَّلُونَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَاهِلِ

بَقِيعِ الْغَرْقَدِ“ (۱)

اے قوم مومنین کی بستی کے رہنے والو تم پر سلام اور تمہارے سامنے تو وہ
(ثواب و عذاب) آگیا جس کا تم سے (مرنے کے بعد ملنے کا) وعدہ
کینا گیا تھا، ہم بھی انشاء اللہ عنقریب تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ
! تو بقیع غرقہ والوں کی مغفرت فرمادے۔

۴۸۶ - صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے
رسول میں کس طرح کہوں؟ یعنی زیارت قبور کے وقت، تو آپ ﷺ نے فرمایا قولی کہو:

السَّلَامُ عَلٰی اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ،
وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْقِدِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ، وَاَنَا اِنْ
شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، (۱)

اے اس بستی کے رہنے والے مومنوں و مسلمانوں تم پر سلام،
اللہ تم میں سے پہلے جانے والوں پر اور بعد میں جانے والوں پر بھی رحم
فرمائے اور ہم بھی ان شاء اللہ عنقریب تم سے ملنے والے ہیں۔

۴۸۷ - سنن ابی داؤد، نسائی، وابن ماجہ میں بسند صحیح حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول
اللہ ﷺ قبرستان گئے اور فرمایا:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارِ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَاَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ . (۲)
اے مومن قوم کی بستی کے رہنے والوں تم پر سلام، ہم بھی ان شاء اللہ تم
سے ملنے والے ہیں۔

۴۸۸ - سنن ترمذی میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
ﷺ کا گزردینہ کے چند قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے اپنا رخ ان قبروں کے طرف کر کے
ارشاد فرمایا:

”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ ، اَنْتُمْ

سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآثِرِ“ (۱)

اے قبور والو تم پر سلام، اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور تمہاری بھی، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔

۲۸۹ - صحیح مسلم میں حضرت بریدہؓ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ انہیں سکھاتے تھے کہ جب قبرستان جائیں تو کہنے والے یوں کہیں:

”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا أَنْ شَاءَ اللَّهُ

بِكُمْ لِلْآخِرُونَ ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ“، (۲)

اے اس بستی کے رہنے والے مومنو! تم پر سلام بے شک ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں، ہم اپنے لئے اور تمہارے لئے اللہ سے عافیت کی درخواست کرتے ہیں۔

۱/۲۸۹ - نسائی وابن ماجہ میں اسی طرح مگر ”للاحقون“ کے بعد اس کا اضافہ بھی ہے ”انتم لنا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ“، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو، اور ہم تمہارے پیچھے آنیوالے ہیں۔ (۳)

۲۹۰ - ابن سنی کی کتاب میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ بقیع آئے اور فرمایا:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، انْتُمْ لَنَا فَرَطٌ ، وَإِنَّا بِكُمْ

لَا حِقُونَ ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُمْ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُمْ“، (۴)

تو مومنین کے بستی والو تم پر سلام، تم ہم سے پہلے جانے والے ہو، اور

بے شک ہم تم سے ملنے والے ہیں، اے اللہ تو ہمیں انکے اجر و ثواب

سے (صبر پر) محروم مت فرما، اور انکے بعد ہمیں گمراہ مت کر،

قبروں کی زیارت کرنے والوں کے لئے بکثرت قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور اس

(۱) سنن ترمذی: ۱۰۵۳، وقال الترمذی: حدیث حسن (۲) صحیح مسلم: ۹۷۵

(۳) سنن نسائی: ۲۰۴۰، سنن ابن ماجہ: ۱۵۴۷ (۴) عمل الیوم لابن سنی: ۵۹۶، حدیث حسن

قبرستان والوں کے لئے نیز تمام گذرے ہوئے مسلمانوں کے لئے دعاء کرنا مستحب ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ بکثرت قبروں کی زیارت کرے اور بزرگوں و اہل خیر و صلاح کی قبروں کے پاس اکثر و بیشتر کچھ اوقات ٹھہرے۔

(باب-۳۳)

قبروں کے پاس رونے یا غیر شرعی کام کرنے سے روکنا:

زیارت کرنے والا اگر کسی کو قبر کے پاس روتے گڑ گڑاتے ہوتے دیکھے تو اسے منع کرے اور صبر کی تلقین کرے، اور جن باتوں سے شریعت نے منع کیا ہے اسے کرتے ہوئے اگر کسی کو دیکھے تو اس سے بھی روکنے کی کوشش کرے۔

۳۹۱- صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا گذرا ایک عورت کے پاس سے ہوا قبر کے پاس رو رہی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”اتقی الله واصبري“ اللہ سے ڈرا اور صبر کر۔ (۱)

۳۹۲- سنن ابی داؤد، نسائی و ابن ماجہ میں بسند حسن حضرت بشیر بن معبدؓ سے مروی ہے (یہ ابن الخصاصیہ سے معروف ہیں) کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہل قدمی کر رہا تھا کہ آپ ﷺ نے ایک شخص کو قبروں کے درمیان جوتا پہن کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا:

”يا صاحب السَّيِّئِينَ اَلْقِ سَيِّئَتِكَ“ (۲)

اے چمڑے کے جوتے والے اپنا دونوں جوتا اتار دے

(پھر آگے پوری حدیث مذکور ہے)

نوٹ: ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس شخص نے مڑ کر دیکھا اور جب نبی کریم ﷺ کو پہچان لیا تو اس نے اپنا جوتا اتار کر پھینک دیا۔ ”سبت“ گائے کے اس چمڑے کو کہتے ہیں جسے دباغت دیکر پاک کر دیا گیا ہو اور اس کے بال بھی صاف کر دئے گئے ہوں۔

اس کو اتارنے کا حکم اللہ کے رسول ﷺ نے دیا تو قبروں کے احترام کی وجہ سے دیا یا نجات و گندگی کی وجہ سے یا اسے پہن کر غرور سے چلنے کی وجہ سے، ہر صورت اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قبروں کے درمیان جوتا چیل پہن کر چلنا مکروہ ہے، اس کے اندر جوتا اتارنے کی علت نجاست یا تکبر کا ہونا بہت بعید ہے، بظاہر اس کی علت احترام قبور ہی ہے۔

تمام امت کا اجماع ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی و ہر اس اس چیز سے جو شرعی اعتبار سے ہو، روکنا واجب ہے، اس کے دلائل قرآن و حدیث میں بے شمار مشہور ہیں، یہاں اسے ذکر کرنے کی گنجائش نہیں۔

(باب-۳۳)

ظالموں و گنہگاروں کی قبر کی زیارت کا حکم:














ظالموں و گنہگاروں کی قبروں کے پاس سے گزرتے ہوتے اس کے انجام پر اللہ سے ڈرنا، گریہ و زاری کرنا، اور اللہ کے سامنے اپنی محتاجی کا اظہار کرنا نیز غفلت و لاپرواہی سے متنبہ رہنا چاہئے،

۳۹۳- صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب لوگ قوم شہود کی بستی حجر کے پاس پہنچے تو رسول اللہ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا:

لَا تَدْخُلُوا عَلٰی هٰؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ ، اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ،
فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ ، لَا يَصِيْبُكُمْ
مَا اَصَابَهُمْ . (۱)

ان عذاب دئے ہوئے لوگوں کے پاس روتے ہوئے ہی داخل ہو،
اگر تم نہ رو سکتے ہو تو مت داخل ہو، (اللہ نہ کرے) تمہیں وہ لاحق ہو
(پہنچے) جو (عذاب) انہیں پہنچا لاحق ہو۔

(آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ فرمایا تھا)



Designed by Mehr Alam



فرید بک ڈپو (پرائیویٹ) لمیٹڈ

Rs. 150/-

FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd.

Corp. Off.: 2158, M.P. Street, Pataudi House, Darya Ganj, N. Delhi - 2
Phones : 23289786, 23289159 Fax : 23279998 Res.: 23262486
E-mail : farid@ndf.vsnl.net.in Websites : faridexport.com, faridbook.com